


(رجسٹرڈ)

# امامیہ جنتری

## 2020



### Imamia Jantri®



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store

f IMAMIAJANTRIOFFICIAL

WEB: WWW.IMAMIAJANTRI.COM

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور پوسٹ کوڈ 54000  
Main Bazar Islampura, Lahore. Tel: +92 42 37223686

**Iftikhar®**  
BOOK DEPOT  
ESTB 1955

[www.humaliwalayazar.com](http://www.humaliwalayazar.com)

ہم علیٰ والے عزادار ڈاٹ کام

2020

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

سٹیپ



حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

حضرت امام علی علیہ السلام

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

جَمِیعاً وَ لَا تَفْرَقُوا (النور)  
پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔



وَ اِغْتَصَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ  
اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط

حضرت امام حسن علیہ السلام

حضرت امام رضا علیہ السلام

# امامیہ جنتری

## سنة 2020

حضرت امام حسین علیہ السلام

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام

حضرت امام علی نقی علیہ السلام

زیر سرپرستی  
سرکار قائم آل محمد

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

امامیہ جنتری کا پی رائٹ ایکٹ رجسٹریشن نمبر 9573 کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ کوئی ناشر اس کا جعلی ایڈیشن شائع کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔

سید عباس سلطان	تقویم	الحاج مولانا فیاض حسین جعفری	زیر نگرانی
شیخ زوار رضا جاوا	زائچے	آغا افتخار حسین	مدیران
غلام رضا عسکری	کوائف سیارگان	آغا علی فرزا	مجلس مشاورت
آغا علی فرزا	سرورق	کیپٹن مظہر حسن زیدی، سید عباس سلطان	
سید علی عمران کاشمی	کیپوزنگ	بابر حسین رضوی، پروفیسر اقبال احمد	
		رضا احسن مرزا	
مستنصر حسین	پیسٹنگ	صابر عباس، محمد عباس گلگٹی	معاونین
فیضان عامریوس پرنٹر، فارما ہیکیز	مطبع	مونس رضا، صادق علی بلقی	
ملک خرم شہزاد (ملک بک ہاؤس)	باسٹنگ	محمد اشرف، محمد اکرم، محمد جاوید	
		حسام زیدی، حیدر عباس، محمد علی	

STAMP

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور 37223686 رعایتی قیمت -/200  
پوسٹ کوڈ 54000 علاوہ ڈاک خرچ

Iftikhar BOOK DEPOT ESTD 1982

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

**استخارہ قرآن مجید** یہ استخارہ حضرت امیر المومنین علیؑ کے

ارشاد کردہ ہے اور علمائے کرام کا مصدقہ ہے۔ ہر کسی ایک نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ توحید اور درج ذیل دعا اول و آخر طاق عدد میں صلوات کے ساتھ پڑھ کر قرآن مجید کھولیں اور دائیں والے صفحہ کی سطر اول کے حکم پر عمل کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَفَاعَلْتُ  
بِکِتَابِکَ وَتَوَكَّلْتُ عَلَیْکَ فَاَرِنِیْ مِنْ کِتَابِکَ  
مَا هُوَ الْمَكْتُومُ مِنْ سِرِّکَ الْمَكْنُونِ فِیْ غَیْبِکَ

**استخارہ تسبیح** یہ استخارہ حضرت صاحب العصرؑ سے

منسوب ہے اسکا طریقہ یہ ہے کہ با وضو قبلہ کی طرف منہ کر کے تسبیح پائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑے جہاں سے تسبیح پکڑی جاتی ہے۔ جس کام کے لیے نیت کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پہلے تین مرتبہ صلوات پڑھ کر درج ذیل دعا پڑھ کر پھر تین مرتبہ صلوات پڑھے اور آنکھیں بند کر کے دانوں پر ہاتھ ڈالے اور دو دو شمار کرے اگر ایک دان بچے تو خوب (ہاں) ہے ورنہ منع ہے

اَسْتَخِیْرُ اللّٰهَ بِرَحْمَتِهِ خَیْرَةً فِیْ عَافِیَةِ

میں خیر طلب کرتا ہوں اسکی رحمت کیساتھ ایسی خیر جس میں عافیت ہو

دن	اوقات استخارہ
جمعہ	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر دو گھنٹے سے صبح تک
ہفتہ	صبح صادق سے چاشت تک، پھر صبح سے عصر تک
اتوار	صبح صادق سے عصر تک، عصر سے مغرب تک
سوموار	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک چاشت سے عصر تک، عصر سے عشاء تک
منگل	چاشت سے عصر تک، عصر سے عشاء تک
بدھ	صبح صادق سے عصر تک، عصر سے عشاء تک
جمعرات	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، پھر عصر سے عشاء تک

**انتباہ** امامیہ جنتی (رجسٹرڈ) پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء

گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے لہذا اس کی نقل یا جعلی ایڈیشن شائع کرنا قانونی خلاف ورزی ہے۔ جعلی ایڈیشن شائع کرنے والوں اور فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جنتی میں دیئے گئے تمام آرٹیکل اور اشتہارات خالص نیک نیتی کے جذبہ سے شائع کئے گئے ہیں۔ کسی بھی مضمون یا اشتہار کے غیر حقیقی ہونے پر ادارہ ہرگز ذمہ دار نہیں ہے۔ البتہ اپنی شکایت اور رائے سے ضرور مطلع کریں۔ (رجسٹریشن نمبر 9573)

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) مین بازار اسلام پورہ لاہور نمبر 54000

جملہ حقوق بحق ناشر پاکستان کاپی رائٹ کے تحت محفوظ ہیں (رجسٹریشن نمبر 9573)

ترتیب مضامین	صفحہ نمبر
اسمائے باری تعالیٰ جلالہ	3
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علیؑ، بی بی فاطمہؑ کے القابات	4-6
قرآنی سورتوں کے اعداد قمری (گلفام علی حسینی)	7
مولا علیؑ کا اہم خطبہ (سج البلاغہ)	9
تقویم کی تقسیم	13
ہر آرزوی تکمیل کے لیے مخفی اسم اعظم (آغا حسین احمد)	15
لوح ننانوے اسمائے الحسنی (راجہ افتخار حسین)	17
قل صوالہ احد (عابد حسن علوی)	19
عمل حاجت روائی (الودود)	21
اسرار و موز سورہ فاتحہ (زیب النساء خواجہ)	22
فضیلت و خواص ناو علیؑ صغیر (مبارک حسین شاہ)	28
قرآن کریم سے مسائل کا حل (حیدر شاہ شیرازی)	30
بارگاہ عالم یزل تاثیر بے مثل (سید جمال حسین شیرازی)	32
سورہ یسین و جہ فرصین برائے مومنین (علی رضارضوی)	35
بانجھ پن کارو روحانی تریاق (عابس شمیم)	39
نوروز عالم افروز۔ عالمی جشن گویاں ملکی و عالمی (غلام رضا سکری)	41-48
تقویم کیفیت سیارگان و نظرات سیارگان (غلام رضا سکری)	50-80
علم نجوم ایک معتبر روحانی علم (ابن مظفر شیرازی)	85
جنس از اسمائے نورانیہ (غلام عباس اجمان)	89
خوشحال کاروبار اعداد کے آئینہ میں (محمد اکمل خان)	91
علم رمل کی افادیت (مولا ناعابد قہری)	95
جادو (ڈاکٹر سید مسرور حسین رضوی)	97
روزگار شادی اولاد (غلام رضا سکری)	101
دعا اور شفا یابی (سید محمد اجمل)	105
علم الاعداد کا مجرب فالنامہ (سید تنویر حیدر نقوی)	107
شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟	108
یک سالہ ذرا بچے 2020 (زوار رضا جاوید)	113
فہرست کتب۔ اشتہارات	140

اصلی امامیہ جنتی فریڈنے کے لیے سرورق (رائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں





# اسمائے باری تعالیٰ

جل جلالہ

جدول بقاعدہ جعفر معہ حروف باطن

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (نانٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

۲۶ اللہ ایسی	جہاں الرّحمن ۲۹۸	جہاں الرّحیم ۲۵۸	مشکر الملک ۹۰
جہاں القُدوس ۱۷۰	جہاں السّلام ۱۳۱	جہاں المؤمن ۱۳۶	جہاں المہیمن ۱۳۵
جہاں المتکبر ۶۲۳	مشکر الخالق ۷۳۱	مشکر الباری ۲۱۳	جہاں المصور ۳۳۶
جہاں الوہاب ۱۳	جہاں الرزاق ۳۰۸	جہاں الفتح ۳۸۹	جہاں العلیم ۱۵۰
جہاں الخافض ۱۳۸۱	جہاں الرافع ۳۵۱	جہاں المعز ۱۱۷	جہاں المذل ۷۷
جہاں الحکم ۶۸	مشکر العدل ۱۰۳	جہاں اللطیف ۱۲۹	جہاں الخبیر ۸۱۲
جہاں الغفور ۱۲۸۶	جہاں الشکور ۵۲۶	جہاں العلی ۱۱۰	جہاں الکبیر ۲۳۲
مشکر الحسب ۸۰	جہاں الجلیل ۷۳	جہاں الکریم ۲۷۰	جہاں الرقیب ۳۱۲
جہاں الحکیم ۷۸	جہاں الودود ۲۰	جہاں المجد ۵۷	مشکر الباعث ۵۷۳
جہاں الوکیل ۶۶	جہاں القوی ۱۱۶	جہاں المتین ۵۰۰	مشکر الولی ۳۶
جہاں المبدی ۵۶	جہاں المعید ۱۲۳	جہاں المحیی ۶۸	جہاں الممیت ۳۹۰
جہاں الواحد ۱۳	جہاں الماحد ۳۸	مشکر الواحد ۱۹	جہاں الاحد ۱۳
جہاں المقتدر ۷۳۲	مشکر المقدم ۱۸۳	مشکر المؤخر ۸۳۶	مشکر الاول ۳۷
مشکر الباطن ۶۲	جہاں الوالی ۳۷	مشکر المتعالی ۵۵۱	جہاں البر ۲۰۲
جہاں العفو ۱۵۶	جہاں الرءوف ۲۸۶	جہاں مالک الملک ۳۱۲	ذوالجلال والاکرام ۱۱۰۰
مشکر الجامع ۱۱۳	مشکر الغنی ۱۰۶۰	جہاں المغنی ۱۱۰۰	جہاں المناع ۱۶۱
مشکر النور ۲۵۶	جہاں الہادی ۲۰	جہاں الباقی ۱۱۳	جہاں الوارث ۷۰۷
	جہاں البدیع ۸۶	جہاں الستار ۶۶۱	جہاں المنعم ۲۰۰



بِسْمِ اللّٰهِ  
 يَا مُحَمَّدَ يَا عَلِيَّ يَا فَاطِمَةَ يَا حَسَنَ يَا حُسَيْنَ  
**القابات امامت اميرالمومنين  
 على ابن ابي طالب عليه السلام**

اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُتَّقِينَ	الْمُسْلِمِينَ	الْعَارِفِينَ	الْوَالِيَّيْنَ	الْمَوْحِدِينَ	الْمُحَقِّقِينَ	السَّالِكِينَ	الْمُحْسِنِينَ	الصَّادِقِينَ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْأَوْلَى	الْعُلَمَاءَ	الْمُتَعَبِدِينَ	السَّابِقِينَ	الْمَسْؤُولِينَ	الْمَخْلُوقِينَ	الْعَادِلِينَ	الْمُتَعَلِّمِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُرْشِدِينَ	الْمُبَشِّرِينَ	الْمُنْدِرِينَ	الْمُقْسِطِينَ	الْعَاشِقِينَ	الْمُقَرَّبِينَ	الرَّاشِدِينَ	الْمُتَوَكِّلِينَ	الشَّاهِدِينَ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُتَكَلِّمِينَ	الطَّاهِرِينَ	الْمُبَارِزِينَ	الْمُعْظَمِينَ	الْأَجْوَدِينَ	الْقَارِئِينَ	الْمَالِكِينَ	الْمُفْلِحِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الرَّكَعِينَ	السَّاجِدِينَ	الْمُتَحَكِّمِينَ	الْمُتَاخِرِينَ	الْمُحِبِّينَ	الرَّاسِخِينَ	الْوَاصِفِينَ	الْخَاشِعِينَ	الْمُكْرِبِينَ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْقَائِمِينَ	الْمُقَدَّسِينَ	الْأَفْصَحِينَ	الْبَادِلِينَ	الْمُكْمَلِينَ	الْكَامِلِينَ	الْحَافِظِينَ	الْمُشْفِعِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُكْرَمِينَ	الْقَانِتِينَ	الْمُهَاجِرِينَ	الشَّاهِدِينَ	الْمُطَهَّرِينَ	الْمُخَدَّومِينَ	الصَّامِتِينَ	الرَّافِعِينَ	الْأَطْهَرِينَ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْأَيْمَةَ	الْمُلْهَمِينَ	الْمُقَاتِلِينَ	الْأَشْجَعِينَ	الْأَعْلَمِينَ	الْأَمِينِينَ	الزَّكِيَّيْنَ	الْأَوْرَعِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُجْتَهِدِينَ	الْأَمْرِينَ	الْمُجَاهِدِينَ	الْخَطِيبِينَ	الْمُطِيعِينَ	الْمُبْرَرِينَ	الْمُقَارِنِينَ	الْخَاصِعِينَ	الْأَفْضَلِينَ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْعَالِينَ	الْمُخَيَّرِينَ	الْمُتَقَدِّمِينَ	الْمُعَلِّمِينَ	الصَّائِمِينَ	الْمُظْفِرِينَ	النَّاطِرِينَ	الْعَالَمِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُحْسِنِينَ	الْمُعْطُوفِينَ	الشَّهِيدِينَ	الْوَارِثِينَ	الْمُطِيبِينَ	الْأَكْمَلِينَ	الْكَاطِمِينَ	الْمُسَبِّحِينَ	الْمَعْشُوقِينَ

اصلي اماميه جنتري فرید نے کی لیے سرورق (ٹائل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

# حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا

## کے اسمائے صفات و القابات (بقاعدہ جعفر مع حروف باطن اعداد)

فاطمۃ ف ش ع ۵۳۰	جبیلۃ ج ذ غ ۴۲۳	بنول ب ف غ ۳۶۵	قیۃ ت غ ر ۵۶۰	حبیۃ ح ب ش ۳۲۲	نمیۃ ن غ ر ۵۶۰	طاہرۃ ط ظ د ۶۱۵	حزۃ ح ر د ۶۰۸	خوزآۃ خ ق ع ۲۱۵
زاکتۃ ر ق ع ۶۹۱	راضیۃ ر ک ج ۱۳۱۱	زہرآۃ ز ف غ ۲۱۳	رشیدۃ ر م و ۹۱۶	رضیۃ ر ی م ۱۳۱۰	زینخانۃ ز ی خ ۶۶۹	ساجدۃ س ر د ۳۶۸	سعیدۃ س ل ب ۵۳۳	سیدۃ س ش ع ۴۲۳
شہیدۃ ش ق ع ۷۱۹	صائبرۃ ص ش ر ۶۹۳	صادقۃ ص ز ش ۵۹۵	صدوقۃ ص ل ب ۶۰۰	صدیقۃ ص ع ن ۶۰۳	طیبۃ ط ا ظ ۳۲۱	عارفۃ ع ش غ ۷۵۱	عالیۃ ع ز ش ۵۱۱	عذیلۃ ع ی م ۵۱۳
عذراۃ ع ض ع ۴۷۸	عزیزۃ ع م و ۳۹۳	علیمۃ ع م و ۵۵۰	فاضلۃ ف ش غ ۱۳۱۱	فریدۃ ف ت ح ۶۹۳	کونیمۃ ک ض ع ۶۷۰	کونورۃ ک ض ع ۷۲۶	کوکب ک ر د ۳۸	مبشورۃ م م و ۹۳۲
محمودۃ م ت ح ۴۹۸	مطہرۃ م ب ض ۶۵۳	منصومۃ م ب ض ۶۲۶	ملہمۃ م ک ح ۵۱۵	ممتحنۃ م ن ت ۹۳۸	منصورۃ م ب ض ۷۸۶	موفقۃ م ی م ۶۲۶	مہدیۃ م ک ح ۴۵۹	مؤمنۃ م د غ ۵۳۶
ناعمۃ ن ا ظ ۵۶۱	زکیۃ ز ف غ ۳۳۷	مزنیۃ م ت ح ۱۳۵۰	محدثۃ م غ ز ۹۵۲	وجیدۃ و ح ر ۳۳۸	والیۃ و ت ح ۳۳۲	رضیۃ ر د غ ۷۶۰	صفیۃ ص ر د ۵۸۰	خلیمۃ خ ل ب ۳۸۸
جمیلۃ ج ز ش ۳۸۳	مصلیۃ م ی م ۵۷۰	فائمۃ ف ط ق ۵۳۱	قارۃ ق ا ظ ۷۰۱	صائمۃ ص ظ د ۵۳۱	وجیہۃ و د غ ۳۳۳	حکیمۃ ح ب ش ۴۷۸	زاهدۃ ز ذ غ ۴۱۷	عابدۃ ع ا ظ ۴۷۷
مخدرۃ م ل ب ۱۳۳۳	قادرۃ ق م ل ۶۸۵	ناصرۃ ن ف غ ۵۳۹	عاملۃ ع ط ق ۵۳۱	ولیۃ و ض ع ۳۳۶	صالحۃ ص ذ غ ۵۲۹	واضیۃ و م ل ۱۲۷	فصیحۃ ف غ ر ۵۸۸	منجیۃ م ظ د ۵۰۳

**ضروری وضاحت** کیونکہ شہزادی کونین کے نام و القابات عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان میں ہر اسم صفاتی کے آخر میں حرف "ت" بول

رہا ہے۔ مثلاً اگر اردو زبان میں میں فاطمہ لکھتے ہیں تو اس میں حرف "ت" نہیں ہے اور یہی نام اگر ہم عربی زبان میں لکھتے یا بولتے ہیں تو یوں ہوگا "فاطمۃ" اس لیے میں نے ہر اسم کے آخر میں حرف "ت" کو لیا ہے اور ت کے اعداد 400 ہیں اسی طرح تمام القابات کے اعداد میں حرف ت کو شامل

کر کے اعداد و حروف باطن قارئین امیر جنتری کے لیے جدول تیار کر یا ہے

[www.humaliwalayazar.com](http://www.humaliwalayazar.com)

مرتبہ راجہ احار میں چھار (کراچی) 0333-2312068

یا حَافِظُ یا حَفِیْظُ یا رَقِیْبُ یا مُهَيْبُنُ یا نَاصِرُ یا قَوِیُّ

شربت جات کے خوف و اذیت سے محفوظ رہنے کے لیے  
و قافون 70 مرتبہ ان اسماء کا ورد کرنا بحال کا درجہ رکھتا ہے

تسبیح  
اسمائے حسنی



# قرآنی سورتوں کے اعداد قمری

سورہ	اعداد قمری	سورہ	اعداد قمری	سورہ	اعداد قمری	سورہ	اعداد قمری
الفاتحہ	9359	الروم	270377	الحشر	133461	غاشیہ	36457
البقرہ	947609	لقمان	15900	الممتحنہ	101350	الفجر	89092
آل عمران	184956	السجدہ	113332	الصف	59060	البلد	24283
النساء	1139293	الاحزاب	355258	المجمعه	61525	الشمس	19499
المائدہ	848546	السياء	253419	المنافقون	53256	اليل	29666
الانعام	935319	الفاطر	242773	التغابن	7741	الضحى	13422
الاعراف	253592	يس	215653	الطلاق	818012	المنشرح	12416
الانفال	412375	الصفه	264754	التحریم	49232	التين	10228
التوبه	703615	ص	229337	المالك	99594	العلق	22541
يونس	550108	الزمر	306585	القلم	93708	القدر	8311
هود	514851	المومن	368524	الحاقه	81719	البينه	31223
يوسف	503980	حم السجدہ	245837	المعارج	73525	الزلال	19966
الرعد	244692	الشورى	201339	نوح	60633	العاديات	13354
ابراهيم	245818	الزخرف	260697	الحج	60633	القارعه	9763
الحجر	176709	الدخان	97793	المزمل	68466	التكاثر	10425
النحل	520188	الجاثيه	150153	المدثر	92355	العصر	4748
بنی اسرائیل	38613	الاحقاف	73774	القيامة	54607	المزہ	5948
الكهف	505517	محمد	180655	النهر	77588	الفيل	5470
مريم	289644	الفتح	188828	المرسلات	70634	القريش	5656
طہ	399283	الحجرات	102892	النباء	52656	الماعون	9217
الانبياء	382219	ق	109736	اللزعت	67253	الكوثر	2763
الحج	382344	الزاريات	119544	عبس	51318	الكافرون	3828
المومنون	351714	الطور	94183	التكوير	38299	النصر	6123
النور	402457	النجم	94183	الانفطار	36745	اللہب	5431
الفرقان	209575	قمر	114374	المطففين	48707	الاخلاص	1002
الشعراء	201339	الرحمن	120450	انشقاق	28846	الفلق	8675
النمل	340962	الواقعه	102965	البروج	32155	الناس	4901
القصص	305120	الحديد	198924	الطارق	17765	گاننام علی حسینی	
العنكبوت	275297	المجادله	34237	الاعلى	17704	0321-4534910	

# نوح البلاغہ میں حضرت امیر المومنین (مولانا علی رضا علیہ السلام) کا اہم خطبہ

(خدا شناسی اور خدا خوفی کا درس)

اس خطبہ کا نام خطبہ غراء ہے جو امیر المومنین کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔

تمام حمد اُس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے۔ ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلاء کا دور کرنے والا ہے۔ میں اسکے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بناء پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ چونکہ وہ اول و ظاہر اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے اس اُس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اُس کے عبد و رسول ہیں۔ جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبہ کر دینے کے لیے بھیجا۔

خدا کے بندوں! میں نے تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے (سمجھانے کے لیے) مثالیں پیش کیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے۔ تمہیں (مختلف) لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراواں کیا۔ اُس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا اور موثر دلیلوں سے تمہیں متنبہ کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے اور اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اُس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کے در آمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کچھڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکا، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے اور اُسکے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار یک قبر اور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ (جنت یا دوزخ) دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پالے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے نہ موت کاٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگر منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی، اور قیامت کا ہنگامہ آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونٹوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا۔ گروہ در گروہ، صامت و ساکت، ایسا وہ و وصف بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کا کان میں آتی ہوئی ہوگی۔ وہ ضعیف و بے جاگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت اُن پر چھائی ہوئی ہوگی۔ حلیے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی۔ دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے۔ آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی۔ پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا، وحشت بڑھ جائے گی اور جب انہیں آخری فیصلے سنائے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلا یا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرزائیں گے۔ یہ بندے اُس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزع کے وقت اُن کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دئے جاتے ہیں (جہاں) یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور (پھر) قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور اعمال کے مطابق جزا پائیں گے اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھے راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا۔ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں اور اس مدت حیات تو آماجگاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں بشرطیکہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور

اصلی اعلیٰ مہینہ ستمبر کی لیے سرورق (انٹرنل) برچھکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔

اللہ سے ڈرو اس شخص کے مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجالایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی اور خوف دلایا گیا تو بڑائیوں سے رُک گیا اور (اللہ کی پکار پر) لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اسکی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا (انگلوں کی) پوری پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اُسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم رہا، اور (دنیا کے بندھوں) سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اُس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا، اور باطن کو پاک و ساف رکھا، اور آخرت کا گھر آباد کر لیا سفر آخرت اور اُس کی راہ نور دی کے لیے اور احتیاج کے مواقع، اور فقر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اُس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا ہے۔ اللہ کے بندوں! اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اُس سے ڈرتے رہو اور جس حد تک اُس سے خوف کھاتے رہو جس حد تک اُس نے تمہیں ڈرایا ہے، اُس حد تک اُس خوف کھاتے رہو اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفاء چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے اُن چیزوں کا استحقاق پیدا کرو، جو اُس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہے۔

اسی خطبہ میں یہ الفاظ بھی ہیں: اُس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں اور اُس تمہیں تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیاء بار ہوں اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے بیچ و خم اُن کی مناسبت سے ہیں اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے اور گذشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بندوں آزاد پھرتے تھے کس طرح امیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے اُنھیں اُن امیدوں سے دور کر دیا۔ اُس وقت انھوں نے کچھ سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اُس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھر پور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں اور صحت کی تروتازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں۔ اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں؟ جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا اور (بستر مرگ پر) قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کر ٹھیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا۔ تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا؟ یارو نے والیوں کے (رونے نے) کچھ فائدہ پہنچایا؟ اُسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سانپ بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے اور (وہاں) پامالیوں نے اسکی تروتازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اسکے آثار مٹا ڈالے اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیئے۔ تروتازہ جسم لاغر و پڑ مردہ ہو گئے۔ ہڈیاں گل سڑ گئیں اور روحمیں (گناہ کے) بارگراں کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافہ کی کوئی صورت، اور نہ بد اعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ کیا تم اُن ہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی، اور قریبی نہیں ہو۔ آخر تمہیں بھی تو ہو ہو اُن ہی کے سے حالات کا سامنا کرنا اور اُن ہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہرہ پر گزرنے ہے۔ مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت، اور ہدایت سے بے پروا ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں۔ گویا ان کے علاوہ کوئی اور مرد و مخاطب ہے۔ اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنے کا صراط پر اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھرانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانائے رتا ہے کہ جس کے دل کو (عقلمندی کی) سوچ بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو اور خوف نے اُس کے بدن کو تعب و کلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اسکی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہر میں پیاس میں گزرتی ہوں اور زہد و درع نے اسکی خواہشوں کو روک دیا ہو۔ اور ذکر الہی سے اسکی زبان ہر وقت حرکت میں ہو خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو اور کئی بھٹی راہوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہولیا ہو، اور راہ مقصود پر آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو۔ نہ خوش فریبیوں نے اس میں بیچ و تاب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتہر باتوں نے اسکی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو۔

باقی آئندہ

محمد اکبر تراتی  
بستی شادو خان لئیہ  
0345-7621912  
0305-6964470

# حسین علیہ السلام اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ ذوالجناح و علم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
عباس غازی کا پرچم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
امام خانہ میں یہ غم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
ہماری آنکھوں میں نم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
علم و فاقا جو ہر گھر پہ ہم لگاتے ہیں  
کہ ساتھ مہدی کی نصرت کو ہم بھی آتے ہیں

حسین ورد تیرا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین تو ہے بنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
الہی گھر میرا جڑے مگر بچے کلمہ  
حسین تیری دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
ہمارے پاس وراثت حسین سے ہے  
جلوس، گریہ عزا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین تیری شہادت سے دین باقی ہے  
حسین وحید بقا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمہارے خون کی مٹی کو کیا شرف ملا  
بنی ہے خاک شفا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
یزید جیت کے نہ جیتا لعین ہا گیا  
شہید جیت گیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مری اذان و اقامت کے اپنے کلمہ میں  
علی، نبی اور خدا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین کلمے کو خنجر تلے نہیں بھولے  
گلے پہ تیغ جفا زبان پہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین مرجع خلقت ہے سجدہ گاہ تیری  
کہ بعد عرش معلیٰ ہے کہ بلا تیری  
ترا بنی احقر و عاصی، غلام ہے تیرا  
گناہ معاف کرادو یہ کام ہے تیرا

حسین ناطق قرآن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین نماز کی آذان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرا عقیدہ و ایمان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تحت خنجر بزبان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
شہید تشدد ہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرا نعرہ، تیرا نشان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمام کاوش و کوشش تیری خدا کے لیے  
حسین تیری شہادت تھی فقط لہ کے لیے

حسین تیرا وجود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرے لہو میں موجود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیری تسبیح تیرا درود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرا قیام تیرا قعود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمہارا باطن کہ یا شہود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین ہست یزید نابود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمہارے خون کی مٹی سے سجدہ گاہ بنی  
تیرے نشان قدم سے عدن کی راہ بنی

حسین تیری قیادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
تمام حمد، عبادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
حسین تیری امامت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
تیری عظیم شہادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
زہے نصیب سعادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
حسین تیری ولادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ شمس و جہاد  
تیرے اعجاز لہو سے ہیں مسجدیں آباد

حسین تیرا محرم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
جلوس مجلس و ماتم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے

## حضرت امام زین العابدینؑ کی پُر اثر دُعا دُعائے مقاتل بن سلیمان

اول و آخر ۱۵ مرتبہ دُرود پڑھیں۔ پھر حاجت طلب کریں۔ شیخ کفعمی نے مقاتل بن سلیمان سے نقل کیا۔ امامؑ نے فرمایا! سو مرتبہ اس دُعا کو پڑھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دُعا مستجاب ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

إِلٰهِي كَيْفَ ادْعُوكَ وَ اَنَا اَنَا وَ كَيْفَ اَقْطَعُ رَجَائِي  
مِنْكَ وَ اَنْتَ اَنْتَ اِلٰهِي اِذَا لَمْ اَسْأَلْكَ فَتَعْطِينِي  
فَمَنْ ذَا الَّذِي اَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي اِلٰهِي اِذَا لَمْ اَدْعُوكَ  
فَتَسْتَجِيبْ لِي فَمَنْ ذَا الَّذِي اَدْعُوهُ فَيَسْتَجِيبْ لِي  
اِلٰهِي اِذَا لَمْ اَتَضَرَّعْ اِلَيْكَ فَتَرَحُّمِنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي  
اَتَضَرَّعُ اِلَيْهِ فَيَبْرَحْمِنِي اِلٰهِي فَكَمَا قَلَنْتَ الْبَحْرَ  
لِيُؤْتِي عَلِيَهُ السَّلَامَ وَ نَجِيَّتَهُ اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ  
عَلِي مُحَمَّدٍ وَ اِلِهِ وَ اَنْ تُنَجِّبَنِي مِمَّا اَنَا فِيهِ وَ تُفَرِّجَ  
عَنِّي فَرَجًا عَاجِلًا غَيْرَ اَجَلٍ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ  
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

**ترجمہ:** اے میرے معبود کیسے تجھے پکاروں اس حال میں کہ میں میں ہوں اور کیسے اپنی امید تجھ سے منقطع کر لوں حالانکہ تو تو ہے۔ اے میرے معبود جب میں تجھ سے نہیں مانگتا تب بھی تو مجھے عطا کرتا ہے۔ تو وہ کون ہے کہ اُس سے مانگوں اور وہ مجھے عطا کرے اے میرے معبود جب میں تجھے نہیں پکارتا تب بھی تو میری دُعا قبول کرتا ہے تو وہ کونسی ذات ہے کہ میں اُسے پکاروں اور وہ میری دُعا قبول کرے۔ اے میرے معبود جب میں تیرے حضور میں نہیں گزرتا تو مجھ پر رحم کرتا ہے۔ تو وہ کونسی ہستی ہے کہ اس کے سامنے گزرتا ہوں اور وہ مجھ پر رحم کرے اے میرے معبود جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو خشک فرمایا اور اُن کو نجات دی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ کو اُس چیز سے جس میں مبتلا ہوں نجات دے اور میری تمام پریشانیوں کو جلد از جلد بلا تاخیر (فوری) اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دُور فرما۔ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔

## دُعائے مُجَرَّبٍ وَ عَجِيبِ التَّأثيرِ

برائے حفاظت از آفات و بلیات و حادثات و محروزی ہر شر شیاطین و جن و انس وغیرہ

کتاب **زین السنتین** سے منقول ہے کہ امام زین العابدینؑ کے زمانہ میں ایک بدکار شخص کو 3 مرتبہ آگ میں ڈالا گیا نہ جلا، پھر پانی میں ڈالا گیا نہ ڈوبا، گردن پر شمشیر چلائی گئی کارگرنہ ہوئی۔ امامؑ سے سبب دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا اس کے پاس ایک تعویذ ہے دیکھا گیا تو اسکے پاس سے یہ دعا نکلی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يُدْبِرُ الْاَمْرَ  
اِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَضُرُّهُ السُّوءُ اِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا  
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يُحْيِي الْعِظَامَ  
اِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ط وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ  
نَزَلَ ط وَ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ بِالْحَقِّ  
كُلُّ عَصٍ وَ بِحَقِّ حَمْعَسَقٍ وَ بِحَقِّ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ  
الْفَرْدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
كُفُوًا اَحَدٌ ط كَامِلًا هَادِيًا يَا سِرًّا يَا مِلًّا صَادِقًا  
يَرْحَمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ

بلاؤں کے دورہ ہونے کے لیے درج ذیل دعا بعد ہر نماز

**دعا رد بلا**

70 مرتبہ روزانہ پڑھیں

يَا اللّٰهُ يَا مُحَمَّدًا يَا عَلِيًّا يَا فَاطِمَةَ يَا حَسَنًا يَا حُسَيْنًا يَا صَاحِبَ  
الزَّمَانِ اَذْرِ كَيْفِي وَلَا تُهْلِكْنِي • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ

**ترجمہ:** اے اللہ، اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین اے زمانہ کے سردار میری مدد فرمائیے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

## حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا ہر نئے سال کی پہلی شب میں دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞

اللَّهُمَّ أَنْتَ إِلَهُ الْقَدِيمِ وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ  
فَأَسْأَلُكَ فِيهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْقُوَّةَ  
عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوِّ وَالْأَشْعَالَ  
بِمَا يُقَرُّ بِنَبِيِّ إِلَيْكَ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَالْإِكْرَامِ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ  
لَهُ يَا حِزْرَ مَنْ لَا حِزْرَ لَهُ يَا كَنْزَ مَنْ لَا كَنْزَ لَهُ يَا  
حَسَنَ الْبَلَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا عِزَّ الضُّعْفَاءِ يَا  
مُنْقِذَ الْغُرَفِيِّ يَا مُنْجِي الْهَلْكَى يَا مُنْعِمَ يَا مُجِبِلُ  
يَا مُفْضِلُ يَا مُحْسِنُ أَنْتَ الَّذِي سَجَدْتُكَ  
سَوَادَ اللَّيْلِ وَنُورَ النَّهَارِ وَضَوْءَ الْقَمَرِ وَشِعَاعَ  
الشَّمْسِ وَكَوْنِي الْمَاءِ وَخَفِيفِ الشَّجَرِ يَا اللَّهُ لَا  
شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ  
وَاعْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تُؤْخِذْنَا بِمَا  
يَقُولُونَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ  
رَبِّنَا وَمَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ط رَبَّنَا لَا  
تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا  
مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ط

برائے حفاظت ہر روز 45 مرتبہ یا غفُو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں

اصل امامیہ جنتی خریدنے کے لیے سرورق (انٹل) پر چمکنے والی (Original) کی شہید اور معیار ضرور چیک کریں

## حضرت علیؑ کی ایک مخصوص دعا

منقول ہے کہ جب حضرت علیؑ کو کوئی نہایت پریشان کن اور اضطراب آگیاں مہم درپیش ہوتی تو آپ دو رکعت نماز ادا کر کے (۱۰۰) سو مرتبہ " اَسْتَخِيْرُ اللّٰهَ " پڑھنے کے بعد دعائے ذیل کو پڑھتے۔ اس کے بعد اپنے کام کو شروع فرماتے تھے۔ جس کی وجہ سے آپ کو کسی کام میں نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِن

خدایا! میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے تو اس سے ضرور واقف ہے

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهٗ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَ

دیکھا! اگر وہ دینی، دنیاوی و اخروی حیثیت سے میرے لئے

دُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَيَسِّرْ لِي وَإِن كُنْتَ

بہتر ہے تو سہل و آسان فرما دے اور اگر تیری حقیقت میں نظر

تَعْلَمُ أَنَّهٗ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي

سے دینی، دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لئے بُرا ہے

فَأَصْرِفْهُ عَنِّي كِهْمَتُ ذَلِكَ أَوْ أَحْبَبْتُ

تو رد فرما دے چاہے مجھے بُرا لگے یا وہ مجھے اچھا لگے کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے

فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو ہی ذاتی طور پر غیب کا جاننے والا ہے۔

**ناد علی صغیر** نماز فجر اور عشاء کے بعد 15-15 مرتبہ پڑھیں تمام

مشکلات کا حل ہے اول و آخر 15-15 مرتبہ درود پڑھیں۔ بحرب ہے۔

نَادِ عَلِيًّا مَّظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ

فِي النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ وَعَجْمٍ سَيَنْجِي

بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ وَبِنُبُوتِكَ يَا مُحَمَّدُ

وَبِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

تحقیق و تدوین

مولانا فیاض حسین جعفری

سرپرست دارالافتاح / درس عمل لاہور

0300-4344139

# تقویم کی تقسیم

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم 30 والتمين 4

## انسانی تقویم

خداوند کریم قادر مطلق ہے اسکی قدرت کاملہ انسانی جسم میں ملاحظہ فرمائیے۔ خون ایک دن میں ایڑی سے چوٹی تک 269 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ گردوں کی باریک نالیاں اپنے سرکل میں بالترتیب 448 کلومیٹر کا چکر لگاتی ہیں۔ انسان کا صحت مند دل ایک دن (24 گھنٹے) 103680 مرتبہ دھڑکتا ہے جو اس کی زندگی کا اہتمام کرتا ہے اور تقریباً 2000 گیلن خون کو گردش دیتا ہے۔ قدم اٹھاتے وقت جسم کے 300 عضلات حرکت میں آتے ہیں۔ دماغ میں Cells کی تعداد 2 کھرب ہے یہی وجہ کہ 24 گھنٹے سوچنے میں مدد ملتی رہتی ہے دماغ سوتا نہیں اسکا جاگنا صحیح زندگی ہے جسمانی قوت 1/8 ہارس پاور کے برابر ہوتی ہے دن بھر کام میں مصروف رکھتی ہے، نیند کے بعد پھر تازہ دم ہو جاتی ہے ایک عام آدمی اوسط زندگی میں اتنا پیدل چلتا ہے کہ دنیا کے تین چکر لگالے۔ ہماری زمین کا قطر (ایک سرے سے دوسرے سرے تک) 12600 کلومیٹر ہے۔ گردن کے اوپر سات سورخ رکھے گئے ہیں جو حسب موقع امر الہی سے کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں ایک سورخ منہ کا ہے دوتھنے دو آنکھیں اور دوکان کے سورخ جو مصروف غم

www.humaliwalayazar.com

سبق اس تقویم سے درس حاصل کیجئے اور اپنی زندگی کو خدائی احکام کے

مطابق باقاعدہ بنا لیجئے افلا یومنون ..... افلا

تعقلون پارہ 17 سورہ انبیاء آیات 30، 67

## علی

### تقویم اسم علی

بیضوی شکل کے چوکھے میں ابھرے ہوئے حروف کے ساتھ یہ بڑا تمغہ مسجد اقصیٰ میں لگا ہے جو تقویمی اعتبار سے ایک شاہکار ہے اور ایک اعلیٰ شخصیت کا نام جو اسم الہی سے مشتق ہے اسے اجاگر کرتا ہے۔ Dr Collin gem کی تحقیقی کتاب Religions of world میں عبارت غور سے پڑھیے Medallion on the interior wall of Al-aqsa mosque in jerusalem is showing the word Ali in Arabic script

### تقویم معراج

پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1" تو جہہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات کے دوران مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گیا" حضور پاک ﷺ دریاے نور کو عبور کر کے قاب قوسین او ادنیٰ (سورہ نجم 9) کی منزل پر پہنچے۔ سرعت رفتار کا اندازہ کیجئے بجلی ایک سکینڈ میں 297600 کلومیٹر طے کر لیتی ہے چوتھے آسمان تک فاصلہ 14.4

کروڑ کلومیٹر ہے جہاں سورج سے روشنی آتی ہے اسکے بعد پانچواں۔ چھٹا ساتواں آسمان پھر عرش معلیٰ کا بلند مقام جہاں جبرائیل بھی نہیں جاسکتے۔ کوئی مادہ شے جو ذی روح ہے فضائے بسیط میں 323 کلومیٹر سے اوپر جا کر زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ آکسیجن نہیں ہے ان حقائق کے ہوتے ہوئے حضور نے یہ نوری سفر کیسے طے کیا؟

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اقبال

نتائج حبیب خدا نوری تھے اور نوری رفتار سے کھربوں کلومیٹر کا سفر قدرت کاملہ سے کیا معراج کا واقعہ حقیقی ہے خواب کی بات نہیں قادر مطلق نے نظام کائنات کو جام (jam) رکھا نبی اکرم تمہاری فرضی براق کے محتاج نہیں نہ انہیں عرش معلیٰ پر جانے کے لیے آکسیجن کی احتیاج ہے۔

### نظام شمسی کی تقویم

سورج کا قطر 1382400 کلومیٹر ہے اس میں ہماری دس لاکھ زمینیں آسکتی ہیں۔ چاند کا قطر صرف 3464 کلومیٹر ہے ہماری زمین چاند سے 50 گنا بڑی ہے۔ سورج زمین سے 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے اس کی شعاعیں 17856000 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے پونے آٹھ منٹ میں زمین پر پہنچتی ہیں۔ چاند زمین سے 3360000 کلومیٹر دور ہے چاند کی کرنیں پھلوں میں رنگت اور ذائقہ پیدا کرتی ہیں۔ سورج کی ڈیوٹی فصلوں کو پکانا، رات دن کا ظہور اور سمندروں سے آبی بخارات اوپر پھینکانا ہے۔ زمین مشرق سے

حرام مال میں اضافہ نہیں ہوتا اگر اس میں اضافہ ہو بھی جائے تو بے برکت رہے گا (امام موسیٰ کاظمؑ)

اصل امامیہ سنتی خریدنے کے لیے سرورق (اصلی) اور چمکنے والی (Original) کی سیٹھیا اور معیار ضرور چیک کریں

مغرب تک 12664 کلومیٹر طویل ہے جس پر 200 سے زیادہ ملک موجود ہیں۔ چاند زمین کے گرد 40-7-28 دن میں ایک چکر پورا کر لیتا ہے ہر شب 50 منٹ کی تاخیر کرتا ہے عموماً سات چاند 30 دن کے اور 5 چاند = 29 دن کے ہوتے ہیں یوں 355 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد 1/4 365 شمسی دن میں چکر پورا کرتی ہے اسکی رفتار 5315 km.ph ہے شمس و قمر کی تقویم کو سمجھنے کے لیے سورہ یسین 39 پڑھئے و القم قدر نامنازل۔

**تقویم کے چار عناصر**

قہاری وغفاری و قدوسی و جبروت  
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (اقبال)  
گرم تر سرد خشک سودا صفا و ما جمدا  
احسن الخالقین نے انسانی عقل کو دماغ میں رکھا اور جسم کو چار مزاج اور چار خلطیں دیں خون کو پورے بدن میں زندگی کی رتق باقی رکھنے کے لیے 96 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے متحرک رکھا جو دوڑ کر غذا مہیا کرتا اور چاروں خلطوں کو معتدل رکھتا ہے۔ دماغ میں خون پہچاننے کے B.P کا اہتمام کیا مگر اس وقت جب سر جھکے۔ سر جھکنے کے واسطے سجدہ نماز کی ضرورت ہے معبود حقیقی نے نماز واجب کر کے سجدے کو عبادت عظیم کا تمغہ دیا یوں الصلوٰۃ معراج المؤمن بھی مکمل ہوا، واجب ادا ہوا خون کی انتہائی گردش نے جسم اور روح کا ناٹھ جوڑ دیا۔

**سبق** اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حیات کا بندوبست کیا ہے مگر نماز نہ پڑھنے والے خدائے مطلق کی ناشکری کر رہے ہیں لازم ہے سجدے کے لیے سر بسجود ہوں دوران خون کی تکمیل ہونماز کی ادائیگی سے واجب ادا ہو و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا فریضہ بھی انجام بخیر ہو

**تقویم کے ممکنات**

یورپ کا ایک ترقی یافتہ ملک ناروے ہے۔ جہاں گھروں، دفاتروں گاڑیوں کو تالا لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر پرس گر جائے اس میں ایڈریس موجود ہے آپکے گھر صحیح سالم پہنچ جائے گا۔ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے۔ اپنا نام ٹیمبل 24 گھنٹے کا خود وضع کر لیتے ہیں۔ 34000 پاکستانی بہترین ذریعہ معاش کے ساتھ مذہبی آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گرمی، سردی کے موسم میں قریبی مقامی ملک کے مطابق اپنا دن رات کا نظام چلاتے ہیں۔ پولیس نظر نہیں آئے گی مگر ایمر جنسی میں حاضر اور ریسکو شروع۔

کھانے پینے کی چیزوں میں مضرت ملاوٹ نہیں کرتے نہ ہی غیر موزوں ریٹ بڑھاتے ہیں۔

**درس عبرت** پڑھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ حصہ پڑھنے کے بعد اگر ایسا نظام کسی اور جگہ نظر آئے تو بندہ ناچیز کو مطلع فرمائیں  
0300-4344139

**1 تقویم کے دو نادر تھنے** جولائی 1951ء میں چند روسی ماہرین ارض کو وادی قاف میں لکڑی کی ایک لوح 14=14 دستیاب ہوئی اس پر چند کلمات نقش تھے۔ 1952ء تک تحقیق ہوتی رہی معلوم ہوا یہ تختی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق ہے جو کہ وادی میں ہزاروں سال پہلے اتری تھی۔ ماہرین لسانیات نے مزید 8 ماہ تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ تحریر ساسانی زبان میں ہے۔ مسٹر این ایف میکس (مانچسٹر) نے اسکا ترجمہ انگلش میں کیا۔ اردو میں ترجمہ پیش خدمت ہے۔



"اے میرے خدا میرے پروردگار مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما ان مقدس ہستیوں (محمد ایلیا شبر شبیر فاطمہ) کے توسل سے میری مدد فرما۔ بے شک تو ہی سیدھے رستے پر لانے والا ہے" یہ تختی Center Of Fossils Research Moscow میں آج بھی محفوظ ہے

**2 خطبہ** آج سے 2035 سال قبل حضرت ابوطالبؑ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہما کے عقد کے وقت جو خطبہ پڑھا تھا ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہے یہ خطبہ قرآن پاک نازل ہونے سے پندرہ سال پہلے پڑھا گیا الحمد للہ سے شروع ہوتا ہے اور کلام الہی بھی تسمیہ کے بعد الحمد للہ سے آغاز پذیر ہوتا ہے یہ خطبہ متبرکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کامل کا واضح ثبوت ہے قرآن مجید نے بھی سورہ والنجم میں اس پناہ گاہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حوالہ کتب برائے خطبہ۔ تذکرہ الخواص۔ اعلام الوری، البلاغ المبین



تحریر  
آغا حسنین احمد بہاولپور  
0331-7560412  
0300-6802983  
aghasnainahmed@gmail.com

نادر فیضان الامامیہ

# ہر آرزو کی تکمیل کیلئے مخفی اسم اعظم

دنیا کی اکمل و اصدق ترین کتاب قرآن مقدس کا دعویٰ یہ ہے کہ رَطْبٌ وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ۔ اس کتاب ظاہر میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ اسم اعظم کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے مگر جستجو کرنا ہوتی ہے۔ وَيَلْبَسُوا الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوا بِهَا اور اللہ کے احسن نام ہیں۔ پس انہی سے اللہ سے دعا مانگو (القرآن پارہ نمبر 9 قال الماء سورۃ 7 الاعراف آیت نمبر 180) تفسیر معانی صفحہ 187 بحوالہ کافی لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسم کیا ہے تو مولانا نے فرمایا۔ موصوف کی صفت اسم ہے تفسیر عیاشی حضرت امام رضا سے منقول ہے کہ جب تم پریشان ہو یا آرزو پوری نہ ہو تو حضرت محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو تو حاجت ضروری پوری ہوگی کیونکہ ہماری معرفت اور وسیلہ کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

القرآن پارہ نمبر 11 یعنی سورۃ نمبر 10 یونس آیت نمبر 1 اور تفسیر صافی صفحہ نمبر 220 پر بحوالہ تفسیر قتی لکھا ہے کہ تینوں حرف اسم اعظم کے حروف میں سے ہیں جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں جن کو رسول یا امام ترتیب دے کر اسم اعظم بنا کر دعا مانگتے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی کو حجرہ کہتے ہیں۔ تقدیر بدل جاتی ہے۔ القرآن پارہ نمبر 9 وقال الذین سورۃ نمبر 27 انمل آیت نمبر 40 قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیا نے کہا میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگواتا ہوں۔ پس اس نے کتاب زبور میں سے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی تو بلقیس تخت سمیت حضرت سلیمان کی کرسی کے نیچے سے سرک آئی۔ روضۃ الواعظین میں ہے کہ آنحضرت محمد رحمۃ اللعالمین سے پوچھا گیا کہ جس کے پاس کتاب زبور کا علم تھا وہ کون تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر سلیمان بن داؤد کا وصی تھا یعنی نبی کے وصی کی یہ صفت لازمی ہو کہ وہ آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہو۔ گنجائش نہیں ہے۔

امامیہ جنتری لاہور 2019ء میں میرا مضمون قرآن مقدس سے مستند اسم اعظم شائع ہونے کے بعد ہزاروں مومنین نے استفادہ کیا اور سینکڑوں نے مجھے فون کیے اور خطوط لکھے کہ چھ ادوار کے اسمائے اعظم کی چلہ کشی عام آدمی کیلئے آسان نہیں۔ تن آسانی کا دور ہے۔ لہذا ایسا اسم اعظم تحریر کرو جو آسان ہو اور طویل المیعاد نہ ہو جس نے ہر جائز مقصد جلد پورا ہو جائے۔ فی زمانہ مسائل زیادہ اور وسائل کم ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ معاشرہ میں انصاف ناپید ہے۔ انسانیت کی بنیاد احساس ہے احساس مرچکا ہے۔ روحانیت کی بنیاد خلوص ہے خلوص کی بجائے اب زر پرستی ہے ملک میں بجلی، گیس، پیٹرول، پانی اور تعلیم مہنگی ہو چکی ہے۔ حکومت کو شام ہے لاکھوں تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں بے روزگار ہیں۔ شرفاء کے گھروں میں جوان بیٹیوں کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں۔ مناسب رشتے نہیں آتے۔ قدم قدم پر دھوکہ فراڈ ہے ہر کام میں بندش ہے۔ ملک مقروض ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کا عروج ہے۔ حکومت کو شام ہے۔

نام ذاتی ہے جو اللہ ہے باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ انسان کو جب ہر طرف سے گھمبیرا الجھنیں اور پریشانیاں گھیر لیں تو ان سے تحفظ اور خوشحالی کیلئے عام فہم، آسان، مختصر عمل اسم اعظم مخفی پیش کر رہا ہوں۔ میرا 2016ء سے مجرب ہے۔ کثیر الفوائد ہے۔ 2000ء میں کتاب شمس الانوار میں یہ عمل نظر نواز ہوا مگر عیاں نہ تھا۔ مجتہد تھا۔ اس کو حل کرنے میں میرے 14 سال صرف ہوئے۔ متقدمین علمائے عظام اور مجتہدین کرام نے اسم اعظم کو ہمیشہ مخفی رکھا۔ مگر اب سائنسی علوم کی ترقی کا زمانہ ہے روحانیت کو اب بطور سائنس تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اسم اعظم سے بوسیلہ معصومین علیہم السلام فیہی امداد کا نزول و ظہور ہوتا ہے۔ استفادہ کیلئے ایمان اور یقین لازم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 1856 اسمائے حسنیٰ میں سے ایک

انسان کو جب ہر طرف سے گھمبیرا الجھنیں اور پریشانیاں گھیر لیں تو ان سے تحفظ اور خوشحالی کیلئے عام فہم، آسان، مختصر عمل اسم اعظم مخفی پیش کر رہا ہوں۔ میرا 2016ء سے مجرب ہے۔ کثیر الفوائد ہے۔ 2000ء میں کتاب شمس الانوار میں یہ عمل نظر نواز ہوا مگر عیاں نہ تھا۔ مجتہد تھا۔ اس کو حل کرنے میں میرے 14 سال صرف ہوئے۔ متقدمین علمائے عظام اور مجتہدین کرام نے اسم اعظم کو ہمیشہ مخفی رکھا۔ مگر اب سائنسی علوم کی ترقی کا زمانہ ہے روحانیت کو اب بطور سائنس تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اسم اعظم سے بوسیلہ معصومین علیہم السلام فیہی امداد کا نزول و ظہور ہوتا ہے۔ استفادہ کیلئے ایمان اور یقین لازم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 1856 اسمائے حسنیٰ میں سے ایک

لِلْعَالَمِينَ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ الْمُعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ  
السَّلَامُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○ الْعَجَلُ الْعَجَلُ  
الْعَجَلُ نقش یا لوح کو پلاسٹک کوئڈ کر کر بحفاظت اپنے پرس بریف  
کیس الماری کی دراز، زیورات یا انعامی بانڈ میں رکھیں۔ صدقہ 200  
روپے کسی غیر سید مسکین یا یتیم یا بیوہ یا مستحق مریض کو دیں۔

نقش مربع میں پوشیدہ نقش مثلث کو یوں بنا لیں

يَا مُغْنِي			يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٤٨٦		
١٠	١٠٠٠	٣٠	١٠	١٠٠٠	٣٠
٣	٣٠١	١٠٠٠	٣	٣٠١	١٠٠٠
١٠٠٠	١٠	٣٠	١٠٠٠	١٠	٣٠
يَا غَفَّارُ			نام --- بن/بنت يَا وَهَّابُ		

**فوائد:** تنگدستی اور بندش کا خاتمہ، عہدہ میں ترقی، تسخیر خلق، الحب، رشتہ  
شادی، بخت کشتائی، کاروبار میں اضافہ، ہر کام میں کامیابی، مقدمہ میں  
فتحیابی، رزق، غنا سے بہا، چانس انعام بانڈ، صحت سلامتی، سفرویزہ تعلیم  
میں سہولت، تسخیر اولاد، خاوند، بیوی و انصران، تکمیل اشتیاق حج و زیارات  
مقامات مقدسہ، عمل کا کوئی جزو سمجھ نہ آئے تو فون یا جوابی الفاظ کے ذریعہ  
دریافت کر لیں۔ میری جانب سے تمام مومنین کو اس عمل، نقش اور لوح کی  
اجازت ہے اس کی جزا میں آغا ثار احمد مرحوم بانی امامیہ جنتری لاہور کی  
مغفرت کی دعا مانگیں فاتحہ پڑھیں۔ خود نہ بنا سکیں تو نقش یا لوح صدقہ ادا  
شدہ، ورد شدہ سونا پالش مجھ سے بنوالیں۔

ڈاک اور ملاقات کا پتہ: آغا حسین احمد  
ہاؤس نمبر 41 سٹیج ویلی ہاؤسنگ سکیم بالمقابل ٹوبوٹا شوروم کراچی چوک احمد  
پور بانی پاس نیشنل ہائی وے بہاول پور۔ فون صبح 2 تا 9 بجے دوپہر۔ شام  
7 بجے تا عشاء 10 بجے 0300-6802983

آیت اسم اعظم: اگر کوئی اس آیت کی سات مرتبہ روزانہ تلاوت کرے گا تو اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا مَرِيْبَ فِيهِ  
وَمَنْ أصدقِي مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ⑤ (سورہ نساء: ۸)

٤٨٦			
١٠	٣٠	١٠٠	٣٠
١٠	١٠٠٠	٣٠	١٠
٣	٣٠١	١٠٠٠	٣٠
١٠٠٠	١٠	٣٠	١٠٠

اس نقش مربع کی چال کسی کتاب میں درج نہیں ہے خاکسار کی سعی کا ثمر ہے کہ  
دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے وقت ۱۹۰ عدد ہے۔ ۱۹۰ عدد ہے اللہ کے اسم تعظیم  
کا (ہمیشہ سے قائم) اس نقش کو شرف قمر میں محلول مشک و عنبر و زعفران سے نئے  
قلم سے لکھیں۔ اس نقش کے ہر خانہ کا عدد کسی نہ کسی اسم اعظم کی نمائندگی کرتا  
ہے۔ اوپر والے نقش مربع میں پوشیدہ نقش مثلث کی چال کسی کتاب میں درج  
نہیں ہے خاکسار کی نظر کا ثمر ہے۔ ہر خانہ کا عدد کسی نہ کسی اسم اعظم کی نمائندگی  
کر رہا ہے۔ ان تمام اعداد کو جمع کرنے سے  
100+10+40+40+1000+10+1000+30  
کا کل میزان  
3495 ہے

نقش مربع نمبر 1

يَا مُغْنِي		٤٨٦		يَا مُغْنِي	
١٠	٣٠	١٠٠	٣٠	١٠	٣٠
٣٠	١٠٠	٣٠	٣٠	١٠٠	٣٠
١٠٠	٣٠	١٠	٣٠	١٠٠	٣٠
يَا مُغْنِي				يَا مُغْنِي	

دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے تمام اعداد کو جمع کرنے کا وقت ۳۴۹۵  
ہے یعنی نقش صحیح ہے۔ ۳۴۹۵ کے اسم اعظم = يَا ذُو الْجَلَالِ  
وَ الْإِكْرَامِ (مرتبے والا بخشنے والا) = 1100 + يَا مُغْنِي (میر غنی کرنے  
والا) = 1100 + يَا غَفَّارُ (بخشنے والا) = 1181 + يَا وَهَّابُ معاف  
فرمانے والا ۱۳ کل میزان ۳۴۹۵ مربع اور مثلث نقوش کو لکھ کر ان کے  
پیچھے یہ عزیمت لکھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ  
الْبَقِيَّةِ الذُّوَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُغْنِي وَ الْغَفَّارُ  
الْوَهَّابِ ○ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَ رِزْقًا وَ عِزَّةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (انٹیل) پر چمکنے والی (Original) کی سہولت اور معیار ضرور چیک کریں

تحریر  
راجہ افتخار حسین (کراچی)  
0333-2312068


# لوح ننانوے اسمائے الحسنیٰ

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا

قارئین امامیہ جنتری میری ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کیلئے اور امامیہ جنتری کیلئے اچھی سے اچھی تحریر لکھوں اس دفعہ ننانوے اسمائے الحسنیٰ کی لوح کے عنوان سے لکھ رہا ہوں پروردگار عالم کا نام اللہ اسم ذات ہے باقی تمام اسماء اسمائے صفات ہیں۔ یوں تو خالق کائنات کے ہزاروں نام ہیں مگر میں نے صرف امامیہ جنتری کی جدول ننانوے اسمائے الحسنیٰ کے اعداد لے کر یہ لوح تیار کی ہے۔ یہ لوح برسوں سے میرے مجربات میں سے ایک ہے میں اس کے صرف فوائد لکھ رہا ہوں کیونکہ ننانوے اسمائے الحسنیٰ میں ہر اسم کی تعریف لکھنا جنتری کے صفحات کی کمی کی وجہ سے اچھا نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف لوح کے فوائد تحریر کر رہا ہوں۔ اس لوح کے فوائد لکھنا کاغذ اور قلم یا زبان سے بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ لوح پاس رکھنے سے سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ایسا مرض ہو جائے کہ کسی طبیب سے علاج نہ ہو تو ہر روز اس نقش کو زعفران سے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پلایا جائے تو کیسی ہی بیماری ہو خدا تعالیٰ اسے عافیت بخشے گا۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو دونوں میاں بیوی الگ الگ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر گلے میں پہنیں اور اسکو چینی کے برتن پر لکھ کر اکیس روز پھینکیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اولاد نیک عطا ہو۔

اس لوح کے حامل کو اللہ تعالیٰ چغلی خوروں اور غیبت کرنے والوں سے اور تمام بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص اس لوح کو کشادگی رزق کے واسطے بنائے گا تو اللہ تعالیٰ روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر اس پر قرض ہو تو خدا تعالیٰ قرض اتارنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ اس لوح کو حامل کر کے اپنے پاس رکھے گا تو تمام آفتوں سے کو بنائے تو خدا تعالیٰ اس کی حاجت برائے گا۔

کبھی راہ بھولے گا تو راہ پائے گا۔ اگر کوئی اس لوح کو اپنے پاس رکھے گا تو بھوکا نہیں مرے گا۔ اس لوح کو پاس رہے مال و دولت کی فراخی ہو اگر کی جگہ پر رکھے تو مال و دولت کی ہو اس کو ہر فرض نماز سے پہلے اپنے کے بعد اسے اپنی جیب میں رکھیں تو اور ایک عرصہ کے بعد ایک روحانی مخلوق پیدا ہوگا۔ اس طرح ہر عادت بد کے خاتمے اس نقش کو کسی میٹھی شے پر پڑھ کر کھائے یہ تمام فوائد اسمائے الحسنیٰ کی لوح کے کل اعداد 33934 ہیں۔ جن کو کے شرف و اوج، شمس مشتری مثلیث، قرن السعدین میں تیار کر سکتے ہیں۔ شرف قمر ہر ماہ آتا ہے یہ تمام اوقات آپ کو امامیہ جنتری میں مل جائیں گے۔ لوح تیار کرنے کے بعد 313 مرتبہ اسم ذات یا اللہ پڑھ کر لوح پر دم کریں لوح کندہ کرتے وقت کونوں کے چھوٹے ہندسے ہرگز کندہ نہ کریں کیونکہ یہ ہندسے لوح کی چال کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ لوح تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حاجتیں روا کر دے تو بانی امامیہ آغا شاکر احمد زوجہ محترمہ آغا افتخار حسین والدہ محترمہ علی فرزند کیلئے دعائے مغفرت کریں اور مجھ ناچیز اور آغا افتخار حسین اور علی فرزند کیلئے دعائے صحت اور درازی عمر کیلئے دعا کریں۔ اگر مضمون کی کوئی جز سمجھ نہ آئے تو جوانی لفافے سے وضاحت مفت طلب کریں۔ کیونکہ فون پر بات کرنا میرے لئے مشکل ہے۔



اس لوح کے ادنیٰ کرشمات میں سے ہیں۔ میں نے چال اسم ذات سے پڑ کیا ہے یہ لوح ہر ستارے کے شرف و اوج، شمس مشتری مثلیث، قرن السعدین میں تیار کر سکتے ہیں۔ شرف قمر ہر ماہ آتا ہے یہ تمام اوقات آپ کو امامیہ جنتری میں مل جائیں گے۔ لوح تیار کرنے کے بعد 313 مرتبہ اسم ذات یا اللہ پڑھ کر لوح پر دم کریں لوح کندہ کرتے وقت کونوں کے چھوٹے ہندسے ہرگز کندہ نہ کریں کیونکہ یہ ہندسے لوح کی چال کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ لوح تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حاجتیں روا کر دے تو بانی امامیہ آغا شاکر احمد زوجہ محترمہ آغا افتخار حسین والدہ محترمہ علی فرزند کیلئے دعائے مغفرت کریں اور مجھ ناچیز اور آغا افتخار حسین اور علی فرزند کیلئے دعائے صحت اور درازی عمر کیلئے دعا کریں۔ اگر مضمون کی کوئی جز سمجھ نہ آئے تو جوانی لفافے سے وضاحت مفت طلب کریں۔ کیونکہ فون پر بات کرنا میرے لئے مشکل ہے۔

تحریر: ظہیر عباس (کراچی)

0341-7571679  
0333-3854175

## لوح اسمائے الحسنیٰ باموکل

برائے تسخیر رزق، ترقی کاروبار، ترقی ملازمت

قارئین امامیہ جنتری کی خدمت میں لوح اسمائے الحسنیٰ باموکل کے عنوان پر لکھ رہا ہوں۔ فی زمانہ کائنات کا ہر فرد رزق کے حوالے سے پریشان حال اور سرگرداں ہیں۔ ان کیلئے یہ عمل اپنی نوعیت کا ایسا منفرد عمل ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔

یہ لوح جو آپ کی نظر کر رہا ہوں ہر فرد کے اپنے ستارے سے منسوب ہے اور ستارہ داؤدی کی چال پر یہ تیار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ستارہ شمس ہے تو اسم اعظم **یا حی یا قیوم** اور شمس کا موکل یا روفیائیل لوح پر کندہ کریں اور اسم اعظم **یا حی یا قیوم** 174 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اسی طرح جبکہ جو ستارہ ہو اس ستارے کا اسم اعظم اور موکل کندہ ہوگا۔ آپ کی آسانی کیلئے ہر ستارے کا اسم اعظم اس کا موکل اور تعداد اور اسم اعظم کی جدول پیش کر رہا ہوں۔ جو خوش نصیب بھی اپنے ستارے کے حالت شرف و اوج یا نظر تثلیث میں تیار کر کے اپنے پاس رکھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز دن بدن بد نصیبی کے اندھیرے ختم ہونگے اور اس کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ انسانی عقل حیران ہو جائے گی۔ بد نصیبی سے یہ لوح جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عدد 4، 5 اور 6 کو کام نہیں دے گی۔ یعنی جس شخص کے نام کا مفرد عدد 4، 5 اور 6 ہوگا تو یہ لوح اس شخص کو فائدہ نہیں دے گی۔

لوح تیار کرنے سے پہلے اپنا برج اور ستارہ معلوم کریں اور اپنے ستارے کے شرف و اوج یا نظر تثلیث یعنی سعد وقت میں تیار کر کے اپنے پاس رکھیں۔ تمام ستاروں کے شرف و اوج و نظرات کے اوقات آپ کو امامیہ جنتری سے مل جائیں گے۔ اس چیز کا سخت خیال رکھیں کہ بحالت نجاست اس لوح کو اپنے پاس نہ رکھیں اور نہ ہی ہاتھ روم میں لے کر جائیں۔ کیونکہ یہ لوح باموکل تیار کی جاتی ہے۔ میں نے کافی افراد کو یہ لوح تیار کر کے دیں جن میں کچھ افراد اپنی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے یہ لوح گم کر بیٹھے ہیں یعنی نہ جانے آنکھوں کے سامنے سے کہاں گئی۔ جو بھی مومن یا مومنہ اس کو اپنے استعمال میں لائے تو اوپر والی ہدایت پر سختی سے عمل



اوج ہر سال آتے ہیں اور شرف قمر ہر ماہ آتا ہے۔ کر سکتے ہیں۔ مگر ستارہ زحل کو 30 سال بعد اور ہوتا ہے اس وجہ سے جس شخص کا ستارہ زحل ہو تو شخص کا ستارہ مشتری ہو تو وہ قرآن السعدین یا ستارے کی لوح تیار کریں تو اسی ستارے کے

وقت رجال الغیب کا سخت خیال رکھیں وہ آپ کے پس پشت کی جانب ہونا چاہیے۔ جس ستارے کی لوح تیار کریں اسی ستارے کا اسم اعظم پڑھ کر لوح پر دم کریں لوح میں چھوٹے ہندسے نقش کی چال کو ظاہر کر رہے ہیں کندہ کرتے وقت ہرگز نہ لکھیں۔ میں نے آپ کی سہولت کیلئے سب واضح کر دیا ہے۔ تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ لوح تیار کرنے کے بعد منسوب اسم اعظم کو بحالت پاکیزہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز دن بدن کاروبار میں ترقی و ترقی ملازمت اور تسخیر رزق ہوتی جائے گی۔ وہ بچیاں جن کی شادی میں مسائل درپیش ہیں ان کیلئے یہ لوح اکیسرا اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر مضمون کی کوئی جز سمجھ نہ آئے تو جوابی لفافے سے وضاحت مفت طلب کریں۔

### جدول یہ ہے

مسائل	مرتبہ	مرح	نام موکل	تعداد و د	ستارہ اسمائے الحسنیٰ
نوائیل	۱۱۳۰	عطار د	کسفا ئیل	۷۹۷	یافتاح یارزاق
صرفیائیل	۷۷۳	مشتری	روفیائیل	۱۷۳	یا حی یا قیوم
صیغیائیل	۱۱۷۱	زھرہ	شرمائییل	۵۵۱	یا رحمن یا رحیم
		یا مالک یا قدوس			
		یا علی یا عظیم			
		یا کبیر یا متعال			
		یا کافی یا غنی			

# قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

تحریر: عابد حسن علوی (کراچی)

+92 331-9128133

+92 333-3300913

محترم قارئین کرام! سورۃ التوحید کی آیات مبارکہ قل هو اللہ احد کے عنوان سے کچھ سطور لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جو کہ اس سے پہلے کسی کتاب میں میسر نہ آئی ہوگی۔ اول اصول دین توحید ہے اور موضوع توحید پر نازل ہونے والی سب سے محکم اور جامع مفہوم لئے سورۃ، سورۃ اخلاص ہے جس میں بسم اللہ سمیت پانچ آیات مبارکہ ہیں۔ قل هو اللہ احد میں قل کے بعد اللہ ہے جو کنت کتراً مخفیہ کی منزل پر عالم ہونیت ہے جسے اس نے خود پوشیدہ کہا کہ جہاں تک زبان کی رسائی ممکن نہیں تو جس شے کو انسان جانتا نہ ہو اس کا اقرار و انکار برابر ہیں تو پھر ماننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو۔

افعال، یہ ہی حقائق و جوہیہ کا جامع اور یہ ہی حقائق امکانیہ کا مالک ہے۔ سلسلہ وجودیہ کے تمام مراتب پر محیط یہ ہی برزخ کبریٰ ہے۔ بحر و جوب اور دریائے امکان کے درمیان یہ ہی وہ راز ہے جو تمام انبیاء و اوصیاء پر ظاہر کیا گیا۔ اسی پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا اسی کو ولایت مطلقہ ذات علیؓ، لسان شرع میں امام اور یہ ہی قل هو اللہ احد کا راز ہے۔

ظاہر باطن اعداد  
 110 ل ف ا  
 41 ل ل  
 41 ل ل  
 1 ہ ہ  
 باہر مشاہدہ کا تصور نہیں۔ لہذا جس توحید پر ایمان کے لئے کہا گیا وہ مقام خفی + مقام ظہور ہے۔ مقام ظہور کا مشاہدہ ممکن ہے جو کہ ساری حد آخر ہے۔

اسم اللہ اللہ کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اسماء کا جب تک خارج میں وجود نہ ہوگا تب تک انکا ظہور ممکن نہیں لہذا یہ اسم بھی مظہر چاہتا ہے۔ اسم اللہ کا مظہر ہی مظہر کل اور مظہر تامہ کہلائے گا جو بلحاظ جامعیت کمالات اسم جامع اللہ سے مناسبت رکھتا ہے۔

ظاہر باطن اعداد  
 110 ل ف ا  
 1 ح  
 31 د  
 لہذا اسم اللہ جب باطنی لحاظ سے دیکھا گیا تو علیؓ اتماماً حاصل ہوا۔ لہذا قل هو اللہ احد میں اسم اللہ کے فوراً بعد جو اسم آیا وہ احد ہے۔ ہفتہ کے سات دن چہارہ معصومین سے نسبت رکھتے ہیں۔ جمعہ امام

الاعلیٰ زمانہ سے، ہفتہ رسول اللہ سے اور اتوار مولائے کائنات مولا علیؓ سے اور عربی میں اتوار کو احد کہتے ہیں۔ اسم احد کو جب ہم نے باطنی لحاظ سے دیکھا تو الاعلیٰ حاصل ہوا۔

لہذا ولایت اقتدار و تصرف کلی اور مطلقاً ظہور وحدت کا نام ہے۔ اسم احد مظہر اسم اللہ اور سرکار علیؓ کی ولایت پر مدلل ہے چنانچہ سورۃ التوحید میں قل هو اللہ احد کے فوراً بعد اسم احد واضح کر رہا ہے کہ اللہ نے علیؓ کو اپنی معرفت تامہ کیلئے تکمیل معرفت کے آخری درجہ پر ظاہر فرمایا۔ کیونکہ علت ظہور ہی معرفت تھی جس کی سند اسم اللہ اور اسم اللہ کے باطن سے بھی ملی لہذا فیض الویت مخلوق تک پہنچانے کے لئے یہی مظہر اکمل فوق المخلوق تحت الخالق یہ ہی مظہر کامل و ہستی جامع یہ ہی مظہر ذات، یہ ہی مظہر صفات، یہ ہی مظہر

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

۴۳۴	۴۳۸
یا حنضرائیل	
۴۳۹	۴۳۵

عزمت علیکم یا حنضرائیل  
 بحق المہم کھیعص  
 ن باریک اللہ فیکم و علیکم

خاتم سورۃ الاخلاص خاتم سورۃ الاخلاص پر کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ تمام حروف سورۃ توحید کو بسط حرفی کریں اور پھر ملفوظی کریں۔ ملفوظی کرنے کے بعد ان کے اعداد ابجد قمری سے استخراج کریں جو 2858 ہیں اب اس کے حروف بنائیں جو "ح، ن، ض، ر" ہیں آگے کلمہ ایئل کا اضافہ کیا تو مؤکل حنضرائیل بنا۔ خاتم کے چاروں کونوں پر جو اعداد ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ پوری سورۃ التوحید ۴ حروف پر مبنی ہیں جن میں ۳۶ حروف نورانی

## سورۃ قریش اور سورۃ کافرون کے فوائد

0332-6996581

محمد علی  
کمیلی

چک نمبر 3/42 تحصیل احمد پور سیال ضلع جھنگ

قارئین کرام السلام علیکم! میری ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ قارئین امامیہ جنتری کے لیے اچھے سے اچھے آسان اور با فہم عمل تحریر کروں جس سے مومنین و مومنات فائدہ حسب منشاء حاصل کر سکیں۔

**سورۃ قریش کے فوائد** اگر سواری نہ ملتی ہو تو سفر کی مشکلات آسان ہو، گاڑی خراب ہو، موٹو، موٹو یا کوئی مشین خراب ہو یا کہیں دشواری ہو تو سورۃ الحمد ایک مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ اور سورۃ قریش 101 مرتبہ پڑھیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ حاملہ خاتون صبح و شام اسی طرح پڑھے تو اس کی ڈیوری آسان ہوگی۔ گھر کے راشن پر پڑھنے سے بے حد برکت ہوگی کبھی کمی نہ ہوگی ہمیشہ کے لیے بیماریاں و مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی زندگی میں سکون و چین، برکت و عافیت نصیب ہوگی۔ ہمیشہ صبح و شام اس طرح اس تسبیح کا ورد کرنے سے کامیابی مقدر بن جائیگی۔ جو شخص کھانے کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا کھانا بیماری نہیں بنے گا بلکہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دو مرتبہ پڑھنے سے رزق ہمیشہ ملتا رہے گا۔ جو اسکو تین مرتبہ پڑھے گا اسکی نسلوں سے کبھی رزق ختم نہ ہوگا اسکی اجازت عام ہے۔

**سورۃ کافرون کا عمل** 1001 مرتبہ خود پڑھنا ہے اور روغن زیتون پر دم کریں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی تاثیر ہے دنیاوی لذتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ ایسی سورۃ ہے جو شیطانیت ختم کر دیتی ہے اس عمل سے پتھر پگھل جاتے ہیں۔ لا علاج امراض اور نافرمانوں کے لیے پانی، شہد اور روغن زیتون پر 1001 مرتبہ سات نصاب سے پڑھیں مریض کو چند قطرے اس تیل / روغن سے ماش کریں تو برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے گھریلو جھگڑے، رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ موسیقی سے پرہیز کریں رزق حلال اور صدق متعال کا لازمی خیال رکھیں۔ نیز بذریعہ سورۃ الحمد و دعائے کسب امراض کی صحت یابی۔ شوگر کا علاج مفت۔

ہیں اور گیارہ دیگر ہیں۔ نورانی حروف کے اعداد ادا بجد قمری سے لیں جو ۸۷۲ بنے۔ اب خاتم کے چاروں کونوں پر نقش یا بُدُّ وُح ۲۲x کے قاعدے سے پر کریں۔ **فوائد:** یہ خاتم ہر ستارے کے اوج و شرف، تثلیث و تدریس، قرآن السعدین میں بنایا جاسکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال و نقوش میں کسی قسم کا اثر نہیں انہیں دعوت عام ہے اور جو عالمین ہیں جنتوں میں کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں ان کے لئے علم کے کئی باب کھول دیئے ہیں۔ فراخی رزق، تسخیر خلائق اور حصول روزگار خواہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اس خاتم سے کام لے کر فرج ہو سکتا ہے کیونکہ حامل خاتم ایک نبی و روحانی حصار میں آجاتا ہے اگر باطہارت صوم و صلوات کا پابند رہے تو تمام کام منجانب اللہ ہوتے رہتے ہیں۔ عالمین حضرات سے گزارش ہے کہ تاہل کو ہرگز نہ بنا کر دیں۔ مضمون کا کوئی جز سمجھ نہ آیا ہو تو وضاحت لی جاسکتی ہے۔

**اہم:** ۲۵: ذی الحجہ ۱۸ محرم الحرام تک میں کر بلا معنی میں ہوتا ہوں اور ۲۷ جمادی الاول تا ۱۰ جمادی الثانی (ایام فاطمیہ) ایران میں ہوتا ہوں۔ اس دوران مجھ سے رابطہ نہیں کیا جاسکے گا۔ (عابد حسن ملوی)

## Counselling Corner

A highly qualified counsellor just a phone call away.

Syed Babar Hussain Rizvi  
(Bsc.hons counselling)  
contact: 03361105500



سید بابر حسین رضوی 0336-1105500

زانچہ بنوانے، برتہ ستون معلوم کرنے اور  
نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے۔ سید بابر حسین رضوی

0313-2009666

S.B.H Rizvi (KARCHI)

تجویب  
راجہ اعجاز حسین (کراچی)  
Mob: 0321-2542434  
0345-2887962

# عمل حاجت روائی الودود

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! دعا ہے کہ اللہ پاک محترم قبلہ آغا افتخار حسین صاحب کو تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے اور بانی امامیہ جنتری آغا ثار احمد مرحوم والہیہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ (آمین) قارئین! اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسمائے حسنیہ میں سے ایک اسم مبارک **اَلْوَدُوْدُ** کا عمل قارئین کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے۔ **وَلِلّٰهِ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا** (سورۃ اعراف، آیت: 180) **ترجمہ**: اچھے اچھے نام خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ تم اسے انہی ناموں سے پکارو۔ پھر فرمایا:

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَجُوْۤاْ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا** (سورۃ احزاب، آیت: 41-42)

**ترجمہ**: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی تسبیح صبح و شام کیا کرو۔ اسمائے حسنیہ کی تعداد مخصوص نہیں البتہ ان میں مقبول ترین وہ اسمائے حسنیہ ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں خود کیا ہے۔ اسم **وَدُوْدُ** قرآن حکیم کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 90 میں نازل ہوا ہے **(اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ)** سورۃ ہود آیت نمبر 90۔ اس مبارک اسم حسنیہ کا ایک مجرب الجرب عمل پیش کر رہا ہوں جو کہ جب و تسخیر کے لئے لا جواب ہے۔ جمعہ کے دن ساعت زہرہ میں نقش تیار کریں یا پھر چاندی کے پترے پر کندہ کریں جو خود تیار نہ کر سکے وہ کسی صاحب علم مومن یا مومنہ سے تیار کروا لے اور نقش کو سامنے رکھ کر بتائے ہوئے درج ذیل طریقے اور تعداد کے مطابق ورد کریں۔ ان شاء اللہ کامیابی ہوگی۔

108 بار	<b>يٰۤاَحْقُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	6
102 بار	<b>يٰۤاُمِّيْنُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	7
137 بار	<b>يٰۤاَوَّسِعُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	8
65 بار	<b>يٰۤاَدِيْتَانِ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	9

1 **اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ** کو بسط حروفی کریں۔

ا.ن.ر.ب.ی.ر.ح.ی.م.و.د.و.د.


2- اب ان حروف کو تخلیص کریں یعنی جو حروف دو بار یا سہ بار آئے ان کو کاٹ دیں۔ تخلیص کے بعد جو حروف برآمد ہوئے وہ یہ ہیں۔

ا.ن.ر.ب.ی.ر.ح.م.و.د.

3- اب ان حروف سے عمل تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیہ میں ہے ہر حروف کا اسم اعظم لیں۔

اسے اللہ۔ ن سے نافع۔ ر سے رؤف۔ ب سے بدیع۔ ی سے یسیو۔ ح سے حق۔ م سے مبین۔ و سے واسع۔ د سے دیتان۔

نمبر شمار	ورد	تعداد
1	<b>يٰۤاَللّٰهُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	66 بار
2	<b>يٰۤاَنَافِعُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	201 بار
3	<b>يٰۤاَرُوْفُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	286 بار
4	<b>يٰۤاَبْدِيْعُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	86 بار
5	<b>يٰۤاَيُّسِيُوْ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ</b>	280 بار



فرو اتول بنت فاطمہ کا سفر مہربان کر یا رحیم رحم کر علی حسین بن کلثوم کو صرف میاں بیوی کے لیے

**فوائد عمل:** تسخیر زوجین، تسخیر اولاد، تسخیر افسران

**نوٹ:** نقش کے نیچے اپنا نام معدودہ اور مقصد ضرور لکھیں۔ میں نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو فون پر وضاحت طلب کریں۔

زیب النساء خواجہ

مغل حویلی موچی گیٹ لاہور

0304-9105975

فضیلت اسرار اور سورۃ الفاتحہ (سورۃ الحمد)

السلام علیکم! یا علیؑ مدد۔ آپ سب کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں خصوصاً آغا افتخار حسین صاحب اور میرے بہت ہی شفیق و محترم استاد آغا حسین احمد صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور انکی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین!

آج میں آپکی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے چند اسرار اور موز اور فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، مگر قبول آفتد، زہے عز و شرف!

"فاتحہ" کے لغوی معنی فاتحہ کے لغوی معنی ہیں فتح کرنے والی یعنی (کھولنے والی) ابتدا، آغاز

سورۃ الفاتحہ کے دیگر اسماء

☆ سورۃ الحمد ☆ سورۃ شفا (سورۃ شافیہ) ☆ سورۃ کافیہ ☆ سورۃ وافیہ ☆ سورۃ الکنز ☆ سورۃ الدعاء ☆ سورۃ المناجات ☆ سورۃ الصلوٰۃ ☆ سورۃ السوال ☆ سورۃ رقیہ ☆ سورۃ تعلیم السلہ ☆ سورۃ التسویض ☆ أم الكتاب ☆ نور الكتاب ☆ فاتحۃ القرآن ☆ سبع المثانی

احادیث میں اس سورۃ کا نام "فاتح الكتاب" ہے جس کا مخفف "فاتحہ" ہے

فاتحہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جس سے شروع کیا جائے چونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورۃ سے ہوتا ہے اس لیے اسے "فاتحہ" کہا گیا ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے صرف سورۃ علق کی پہلی پانچ آیات اس سے قبل نازل ہوئیں۔ یہ کی سورۃ ہے۔ مدینہ میں بھی نماز کے لیے نازل ہوئی۔

اسرار اور موز اور فضیلت سورۃ الفاتحہ

☆ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! سورۃ الحمد سے بہتر کوئی سورۃ قرآن میں نہیں۔ ☆ سورۃ الحمد کی تلاوت بارگاہ ایزدی میں دعا و مناجات ہے۔

☆ یہ سورۃ موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ☆ روایت میں ہے کہ مریض کی عیادت کے وقت اسکا دایاں ہاتھ پکڑ کر سورۃ الحمد کو سات

(7) مرتبہ پڑھنا، موجب شفا ہے ☆ جب کوئی شخص بیمار ہو تو چینی کی پلیٹ پر سورۃ الحمد زعفران سے لکھ کر دھو کر اسے پلائی جائے تو وہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ ☆ اگر کوئی شخص سورۃ الحمد کو طلوع آفتاب سے پہلے لکھ کر

پاس رکھے تو جس ظالم کے پاس جائے گا وہ مہربان ہو جائے گا۔ ☆ معاشی تنگی نہ ہوگی، رزق غیب سے ملے گا نیز عزیز خلاق ہوگا۔ اسکو کوئی مشکل

پیش نہ آئے گی، فتوحات غیب سے ہوں گی، جملہ خلاق مسخر ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے "فاتحہ" یعنی فتح کرنے والی کہا جاتا ہے۔

☆ سورۃ الحمد کی سات آیات ہیں اور یہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے "سبع المثانی" بھی کہا جاتا ہے یعنی "دو مرتبہ سات"

14=7+7 (یہ چودہ معصومین کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے) 5=1+4 پانچ سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ سات غازی عباس کے نام کا مفرد عدد ہے اور یہ عدد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے اسکی چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

سات زمین، سات آسمان، ماں کی کوکھ کے سات پردے، جنت و جہنم کے سات درجات، قوس قزح کے سات رنگ، ہفتے کے سات دن، نظام شمسی کے سات سیارے، قرآن کریم میں سات سلام، اور لفظ "یقین" کے سات نقطے۔ غرضیکہ اگر صرف عدد سات کے بارے میں لکھنے لگیں تو اسکے لیے ایک علیحدہ مضمون درکار ہے۔ آئمہ اطہار کے اسماء گرامی میں سے اگر مشترک لیے جائے تو تین محمد اور چار علی 7=4+3 سورۃ الفاتحہ کے 14 حروف ہیں (14 معصومین)۔ سورۃ الفاتحہ کی کوآیت ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔

☆ کتاب منتخب التواریخ میں ہے کہ حضرت امام محمد تقی نے فرمایا کہ سورۃ الحمد میں یہ سات حروف (ث، ج، خ، ز، ش، ظ، اور ف) نہیں ہیں۔ جن سے مراد علی الترتیب شور، جیم، خیاش، خبیث، زقوم، شقاوت، ظلمت اور فرقت ہے لہذا جو شخص صدق دل سے اور خشوع و خضوع سے اس سورۃ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ درج بالا آلائشوں سے اسکو محفوظ رکھے گا اور اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی (اور یہی حکم 14، 12، 5 کی موت رکھنے والوں کے لیے بھی احادیث سے ثابت ہے)۔ علامہ عرفان حیدر شہید فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الحمد محمد و آل محمد کی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بوجہ قربت اپنا کلام قرار دیا ہے۔ "ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور



دعا ہے کہ خدائے رحمن و رحیم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین بحق آل یسین

### سورۃ الفاتحہ کا عمل حلال مشکلات

اگر کوئی شخص کسی امر یا مہم میں پریشان ہو یا دوران سفر حادثات، ڈاکوؤں، چوروں، رہزنوں، درندوں وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہے تو اپنے مقصد کی نیت سے سورۃ الحمد پڑھنا شروع کرے آیت ایاک نعبدہ و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ تکرار کر کے سورۃ مکمل کرے۔

ان شاء اللہ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی۔ نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو مشکل کشاء کا کام دے گا۔ مریض کو زعفران سے لکھ کر دھو کر پلانا ہر درد اور بیماری کے لیے موجب شفا ہے۔

### نقش مکرم سورۃ فاتحہ

۲۳۶۵	۲۳۶۸	۲۳۷۱	۲۳۷۴
۲۳۷۰	۲۳۷۳	۲۳۷۶	۲۳۷۹
۲۳۸۴	۲۳۸۷	۲۳۹۰	۲۳۹۳
۲۳۹۸	۲۴۰۱	۲۴۰۴	۲۴۰۷

تجربی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں نہ کہ انکار راستہ جو مغضوب اور گمراہ ہیں" میری ناقص رائے کے مطابق یہ دعا ہم ماننے والوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہے پھر اسماء الحسنیٰ ہیں اسکے مالک ہونے کا اقرار ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  
پھر اپنی عبودیت اور عاجزی کا اظہار ہے اور دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم  
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ  
دکھاتا رہ (محمد و آل محمد) کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں  
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ  
نہ کہ تو جن پر غضب ناک ہوا اور نہ گمراہوں کا  
پتا چلا کہ اللہ کی عبادت اور اسکی مدد کے بغیر صراط مستقیم کی طرف ہدایت  
نہیں ملتی نہ انسان اس پر قائم رہ سکتا ہے اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے  
کہ "ہمیں قرآن کافی ہے" کہنے والے ہمیشہ گمراہ ہوئے۔ حدیث رسول  
صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک قرآن و عمرت کا دامن تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں  
ہو گے کیونکہ وارثان قرآن اہلبیت ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں قرآن کی  
تعلیم دی ہے اور اسکی تادل کا علم بھی صرف انہی کے پاس ہے۔

### عمل برائے توفیق حج

معتبر روایات میں آئمہ اطہار علیہم السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص بلا ناغہ (سورۃ نباہ پارہ نمبر ۳۰) کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو اسے اسی سال حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ کتاب صفوۃ الاخبار میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی خواہشمند اور مشتاق ہو وہ نئے کپڑے پہن کر پانی سے ایک ظرف پُر کر کے 30 مرتبہ اس پر سورۃ قدر پڑھے پھر اس پانی میں سے کچھ مقدار خود پیے اور کچھ کپڑوں پر چھڑک لے بعد ازاں چار رکعت نماز دو دو کر کے بجالائے تو اس عمل کے سبب سے اسکو حج و عمرہ نصیب ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ درج ذیل کلمات کہے تو اسے اسی سال حج نصیب ہوگا اگر اس سال حج سے شرف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے گا جب تک اسے حج نصیب نہ ہو مجرب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کوئی برائے توفیق حج، وسعت رزق اور حصول مال و متاع ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ درج ذیل کلمات پڑھے گا تو اسکا دامن ثمرات مراد سے بھر جائے گا اور اسے اسی سال حج نصیب ہوگا۔ بعض عالمین نے کہا اگر کوئی اس وظیفے کو حج کرنے کی نیت سے ہر شب جمعہ ایک 110 پڑھے گا تو اسے حج نصیب ہوگا۔ تجربہ شدہ ہے اور کلمات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

### خصوصی نوٹ

اللہ کے نام سے جو جس رحیم ہے اللہ جو چاہے نہیں کوئی طاقت اور نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے

امامیہ جنتری (رجسٹرڈ) پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ 1962 گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ رجسٹریشن نمبر 9573 ہے۔ جنتری کا جعلی ایڈیشن شائع کرنے والوں کے خلاف ادارہ سخت قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ جنتری میں تمام مضامین و اشتہارات خالص نیک نیتی کے جذبے سے شائع ہوتے ہیں۔ مضمون نویس یا اشتہار سے لین دین کا ادارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ادارہ اسکا ذمہ دار ہے۔ البتہ کسی بھی شکایت سے ادارہ کو مطلع ضرور کریں۔ شکریہ

Imamia Jantri Official By Ifrikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore

0341-4574062

0321-7843062

(صرف خواتین رابطہ کریں)

سیدہ زہرا بتول کاظمی

# درود تاج کے فضائل

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! تمام قارئین کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے ہر بیماری، مصیبت، غم، پریشانی، دکھ، درد سے محفوظ رکھے۔ اولاد پر والدین کا سایہ قائم رکھے اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطاء فرمائے۔ (آمین) قارئین کی خدمت میں درود تاج کے چند مجرب اعمال پیش کر رہی ہوں۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ سے ان گنت ہیں مگر بعض درود شریف اپنی فضیلت اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود شریف ایسے ہیں جنہیں بہت شہرت حاصل ہے اور جن کے اندر بے شمار اسرار مخفی موجود ہیں جن کا ورد کرنا دینی و دنیاوی حاجات کے لئے نفع بخش ہے۔ ان میں سے درود تاج ایک ایسا درود پاک ہے جس میں بے پناہ فیوض و برکات موجود ہیں۔ یہ درود پاک عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب و وظیفہ ہے اور بے شمار صوفیاء، اکرام اور اولیاء اللہ نے یہ درود پاک کثرت سے پڑھا ہے۔

☆ **حصول رزق** اتوار کے روز نقش بنا کر گلے میں ڈالیں اور ہر روز 7 مرتبہ درود پاک اپنے ورد میں رکھیں۔ ان شاء اللہ ترقی رزق اور دست غیب کے اسباب پیدا ہوں گے۔ ☆ **شفائے امراض** اتوار کے روز نقش لکھ کر 7 یوم تک مریض کو پلائیں اور ہر روز 3 بار درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کریں ان شاء اللہ آفاقہ ہو گا۔

☆ **حصول اولاد** اتوار کے روز نقش تیار کریں

۱۰۲۰۲	۱۰۲۰۵	۱۰۲۰۸	۱۰۱۹۵
۱۰۲۰۷	۱۰۱۹۶	۱۰۲۰۱	۱۰۲۰۶
۱۰۱۹۷	۱۰۲۱۰	۱۰۲۰۳	۱۰۲۰۰
۱۰۲۰۳	۱۰۱۹۹	۱۰۱۹۸	۱۰۲۰۹

اور 7 عدد کھجور لے کر ہر ایک کھجور پر ایک بار

میاں بیوی نے کھانی ہے اور نقش کا پانی 7 یوم

نعمت حاصل ہوگی۔ اگر ایک ماہ میں کامیابی

☆ **جادو سحر کیلئے** اتوار کے

روز 7 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ ان شاء

گا۔ ☆ **حصول شادی کیلئے:** اتوار کے روز نقش بنا کر بازو میں باندھیں اور 21 یوم تک مسلسل ہر روز 5 بار درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا کریں۔ ان

شاء اللہ بہت جلد نیک رشتے کے اسباب پیدا ہوں

درد پاک کا ورد کر لیں۔ بعد درد کے کھجور دونوں

تک مسلسل پینا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اولاد کی

نہ ہو تو یہ عمل دوسرے اور تیسرے ماہ بھی کریں۔

روز نقش لکھ کر مریض کو 7 یوم تک پانی پلائیں اور ہر

اللہ جادو سحر کے اثرات کا جلد خاتمہ ہو کر آفاقہ ہو

۸۶ شکلیں ۷۸۶ شفقیاہیل  
مودت زہرا بتول غلام کینڈہ کو شفا کے امراض ہو

لوہیاہیل  
عظمشاہیل

۱۰۲۰۲ ۱۰۲۰۵ ۱۰۲۰۸ ۱۰۱۹۵

۱۰۲۰۷ ۱۰۱۹۶ ۱۰۲۰۱ ۱۰۲۰۶

۱۰۱۹۷ ۱۰۲۱۰ ۱۰۲۰۳ ۱۰۲۰۰

۱۰۲۰۳ ۱۰۱۹۹ ۱۰۱۹۸ ۱۰۲۰۹

۱۰۲۰۲ ۱۰۲۰۵ ۱۰۲۰۸ ۱۰۱۹۵

۱۰۲۰۷ ۱۰۱۹۶ ۱۰۲۰۱ ۱۰۲۰۶

۱۰۱۹۷ ۱۰۲۱۰ ۱۰۲۰۳ ۱۰۲۰۰

۱۰۲۰۳ ۱۰۱۹۹ ۱۰۱۹۸ ۱۰۲۰۹

۱۰۲۰۲ ۱۰۲۰۵ ۱۰۲۰۸ ۱۰۱۹۵

۱۰۲۰۷ ۱۰۱۹۶ ۱۰۲۰۱ ۱۰۲۰۶

۱۰۱۹۷ ۱۰۲۱۰ ۱۰۲۰۳ ۱۰۲۰۰

۱۰۲۰۳ ۱۰۱۹۹ ۱۰۱۹۸ ۱۰۲۰۹

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّجَاحِ وَالْبَعْرَاجِ وَالْبِرَاقِ وَالْعَلَمِطِ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَهَاءِ وَالْقَعَطِ وَالْمَرَضِ  
وَالْأَلَمِطِ اسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَنقُوشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ط سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَبِ جَسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَظَّمٌ مُظَهَّرٌ  
مُنَوَّرٌ فِي النَّبِيِّ وَالْحَرَمِطِ شَمْسِ الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى صَدْرِ الْعُلَى نُورِ الْهُدَى كَهْفِ الْوَرَى مِضْبَاحِ الظَّلَمِطِ بِحَبِيلِ الشَّيْطِطِ  
شَفِيحِ الْأَمِطِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِطِ وَاللَّهِ عَاصِمُهُ وَجَبْرِيْلُ خَادِمُهُ وَالْبِرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْبَعْرَاجُ سَفْرُهُ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهَى  
مَقَامُهُ وَقَابِ قَوْسَيْنِ مَظْلُوبُهُ وَالْمَظْلُوبُ مَقْضُودُهُ وَالْمَقْضُودُ مُوجُودُهُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ شَفِيحِ الْمُنْدَبِينَ  
أَنْبِيَاءِ الْعَرَبِيِّينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ شَمْسِ الْعَارِفِينَ سِرَاجِ السَّالِكِينَ مِضْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ  
مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسْكِينِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسَيِّدَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ  
مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَى الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورِ قَوْمِ  
نُورِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

کل اعداد 40810 نفی 30 = 40780 تقسیم 4 = 10195 باقی کوئی نہیں بچا تو کس کوئی نہیں ہوگی۔

نقش کے نیچے اپنا نام بعد والدہ اور مقصد ضرور لکھیں جو بھی مومن ان اعمال سے استفادہ کرے وہ بانی امامیہ جنتری آغا شہار احمد مرحوم اور اہلیہ مرحومہ اور

آغا شہار صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے لئے ایک بار سورۃ فاتحہ اور ایک بار درود پاک پڑھ کر دعائے مغفرت کرے۔ شکر یہ

انور علی  
لکھنؤ روڈی

0310-7078787

## ایک دن کی نمازوں کے حروف اور ان کی نیکیاں

قارئین امامیہ جنتی السلام علیکم! میری طرف سے آپ سب کو سال نو مبارک ہو۔ خصوصاً آغا شہار احمد مرحوم و اہلیہ مرحومہ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ پھر ایک لاکھ درود پاک، پورے رمضان کے روزوں کا ثواب اور پورے ختم قرآن کا ثواب 12 مرتبہ حدیث کساء 12 مرتبہ دعائے توسل، 12 مرتبہ دعائے وارث، 12 مرتبہ فاتحہ اور چاروں قل 12<sup>0</sup> 12 مرتبہ کا ثواب ہدیہ ہو۔ جنہوں نے ضالین کو صراط مستقیم پر لگایا ہے۔ 2019 میں صرف واجب نمازوں کا ثواب درج تھا۔ اب واجب، سنت اور نفل نمازوں کا ثواب درج ذیل ہے کیونکہ (سنت اور نفل) یہ بھی نماز ہے انکا ثواب بھی لینا چاہیے تب ہمارا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے (پارہ 8 سورۃ الاعراف) ترجمہ پھر جن کے نیکیوں کے پلے بھاری ہونگے تو یہی کامیاب ہونگے۔ ہمیں نیکیوں کا پلہ بھاری کرنا ہے تو سنت اور نفل پڑھنا ہونگے۔ ورنہ؟ اور تھوڑا سا نماز جائزہ پیش خدمت ہے۔

سورۃ ذکر نماز	تفصیلات	حروف	مرتبہ	ٹوٹل حروف	ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں	ٹوٹل نیکیاں
تکبیرۃ الاحرام	اللہ اکبر	X 08	=270	X 2160	= 10	21600
تسمیہ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	X 19	= 67	X 1273	= 10	12730
سورۃ الفاتحہ	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ	X 122	= 41	X 5002	= 10	50020
سورۃ القدر	اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ	X 110	= 13	X 1430	= 10	14300
اخلاص	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	X 47	= 13	X 611	= 10	6110
دعا قنوت	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا	X 61	= 13	X 793	= 10	7930
درود	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ	X 21	= 170	X 3570	= 10	35700
ذکر رکوع	سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ	X 20	= 41	X 820	= 10	8200
ذکر قرار	سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ	X 14	= 41	X 574	= 10	5740
ذکر سجود	سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی وَبِحَمْدِهِ	X 20	= 82	X 1640	= 10	16400
ذکر استراحت	اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ	X 22	= 41	X 902	= 10	9020
سجدہ سے اٹھتے وقت	يَحْوِلُ اللّٰهُ وَ قُوَّتِهِ اَقْوَمُ وَاَقْعُدُ	X 22	= 27	X 594	= 10	5940
تشہد	اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِکَ لَهٗ	X 52	= 21	X 1092	= 10	10920
سلام	اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٗ	X 93	= 13	X 1209	= 10	12090
	ٹوٹل میزان	*	=*	X 21670	= 10	216700

جو شخص اپنے نفس کو طمع کی کمینہ مفت سے پاک صاف نہیں کرتا تو وہ دنیا میں اُسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی نہایت ذلیل و خوار ہوگا۔ (حضرت علیؓ) 2020

نماز اللہ کی طرف سے چہارہ معصومین نے پڑھ کر دکھائی ہے وہ قبولیت نماز کا وسیلہ ہیں۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے نزدیک بھیگ کر گڑا کر آنا اور میرے نزدیک امام ہیں ان کا واسطہ دے کر آنا (جاندار) چیز پانی کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب والا چہارہ معصومین کی محبت و مودت کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کہاں رہی۔ میرے بھائی اگر دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہوتا (نماز، چہارہ معصومین) کے ساتھ مودت کرنا ہوگی۔ ورنہ بیکار آئے اور بیکار چلے گئے۔

نماز فرما رہی ہے! ادھر دنیا میں میرے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ ادھر آخرت میں میرے بغیر کسی کا چھٹکارا نہیں ہے جو شخص مجھے ادھر دنیا میں اپنائے گا اس کے لیے راحت بنوں گی اور ادھر آخرت میں اس کے لیے شفاعت بنوں گی

فرمان الہی! اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو (9 سورہ توبہ 71) فرمان رسالت! نماز خدا کی پہچان ہے (کنز العمال 7/279)

نماز اہم ترین عمل دین اسلام ہے یہی وجہ ہے کہ اگر نماز درگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو باقی اعمال بھی قبول ہیں۔ اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ نماز کو ہر کام پر اہمیت دیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص نماز کو اہمیت نہیں دیتا وہ عذاب آخرت کا سزاوار ہے۔

آخر میں آغا افتخار حسین صاحب کی اہلیہ مرحومہ کو بھی ایک لاکھ درود پاک، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ سورہ قدر 100 مرتبہ قل شریف ہدیہ ہو اور آپ سے بھی فاتحہ کی اپیل کرتا ہوں۔ **نوٹ** لکھ درود فی سبیل اللہ جس مومن مسلمان کو چاہئے جو ابی لفاظہ بھیج کر لے سکتا ہے۔ مولوی انور علی لکھ درودی

بمقام وڈا کھانہ خاص قائم بھراونہ تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ 0310-7078787

## نماز کُنْ فَيَكُونُ

اگر کسی کا اہم ترین کام یا مشکل ہو بیماری یا تنگدستی ہو۔ شب جمعہ کو غسل کرے اور خلوص کامل کے ساتھ اس عمل کو انجام دے۔

**طریقہ عمل** ۳ رکعت نماز (۲،۲) رکعت کر کے ادا کرے۔

**پہلی رکعت** میں الحمد کے بعد (۱۰۰) مرتبہ کہے،

وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۱۰۰﴾

**دوسری رکعت** میں سورہ الحمد کے بعد ۱۰۰ مرتبہ نَصْرُ قَوْمِ

اللَّهِ وَفَتْحُ قَرْيَةِ ط پڑھ کر نماز مکمل کرے۔ ﴿الف ۱۳﴾

**پہلی رکعت** میں سورہ الحمد کے بعد (۱۰۰) مرتبہ کہے۔ أَلَّا

إِلَى اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُورِ ﴿الشورى ۵۳﴾

**دوسری رکعت** میں سورہ الحمد کے بعد (۱۰۰) مرتبہ اِنَّا

فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا پڑھ کر نماز مکمل کریں

کسی سے کلام کیے بغیر ۱۰۰ مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔

پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جائیگی۔ انشاء اللہ

0300 8104565 (مشہد ایمان) علامہ سید حسن عسکری نقوی

0098 9153106265

## نمازِ حاجت (صلوة المصطر)

☆ اس نماز کے پڑھنے سے ایسی جگہ سے اسباب مہیا ہوتے ہیں کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔

**پہلی رکعت** یہ نماز دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔

نیت کے بعد تکبیر کہہ کر سورہ الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ مومن کی یہ درج

ذیل آیت پڑھے۔ اَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

☆ رکوع و سجود بجالانے کے بعد دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہو۔

**دوسری رکعت** سورہ الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ انبیاء کی یہ درج ذیل دو

آیتیں پڑھے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ط إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ط

فَأَسْتَجِبْ دَعْوَةَ دَاوُدَ إِذْ دَعَاكَ مِنَ الْعَجْرَةِ ط وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ط

☆ اس کے بعد رکوع و سجود بجالا کر تشہد اسلام پڑھ کر نماز ختم کرے۔

**پہلی رکعت** نیت کے بعد تکبیر کہہ کر سورہ الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ آل

عمران کی یہ آیت پڑھے۔ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

☆ اس کے بعد رکوع و سجود بجالا کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔

**دوسری رکعت** سورہ الحمد کے بعد پچیس مرتبہ یہ درج ذیل ذکر پڑھے۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

☆ رکوع و سجود کے بعد تشہد اسلام پڑھ کر نماز ختم کرے۔

اس کے بعد پچیس مرتبہ صلوة پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے

## سید مرتضیٰ حسین

(نادعلیٰ باموکل) کراچی

0301-2845261, 0316-2245861

# عمل نادعلیٰ صغیر باموکل

خدائے واحدہ لاشریک نے رحمت العالمین صغیر علیؑ کل کائنات کے نبی پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور نادعلیٰ نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقصد میں کامیابی اور ہر جائز امور میں کامیابی، دعا کے قبول ہونے، ہرج و مرج و غم اور تکلیف میں کامیابی کے لیے بتایا اور مدینہ العلم باب الحوائج امام اولیاء اللہ اللسان اللہ عین اللہ مظہر العجایب حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ سے فی سبیل اللہ مدد طلب کریں ان شاء اللہ ہر جائز امور میں کامیابی عطا ہوگی۔

نادعلیٰ صغیر

Innamia Jantri Official By Ifkhar Book Depot . Download from Googleplay-IOSplaystore

www.humaliwalayazar.com

یا جبرائیل بحق یا علیؑ ۷۸۶  
۱۱۰

یا صابغہ کائیل بحق یا علیؑ	۱۱۲۸	۱۱۳۲	۱۱۳۵	۱۱۲۱	یا عزرا النبی بحق یا علیؑ
	۱۱۳۴	۱۱۲۲	۱۱۲۷	۱۱۳۳	
	۱۱۲۳	۱۱۳۷	۱۱۳۰	۱۱۲۶	
	۱۱۳۱	۱۱۲۵	۱۱۲۴	۱۱۳۶	

یا اسرافیل بحق یا علیؑ

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ  
فِي النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجِي  
بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ وَبِنُبُوتِكَ يَا مُحَمَّدٌ  
وَبَوْلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

### نادعلیٰ کے فوائد

- برجائز امور میں کامیابی اور دعا کے قبول ہونے کے لیے
- 110 مرتبہ نادعلیٰ - 110 مرتبہ یا قَاهِرَ الْعُدُوِّ وَ يَا وَ اِلَى الْوَلَوِي يَا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ يَا مُرْتَضَى عَلِيؑ
- بربیماری سے صحت یابی کے لیے
- 110 مرتبہ نادعلیٰ - 70 سورہ الحمد (سورہ فاتحہ)
- حافظہ کی زیادتی اور ذہن کی تقویت کے لیے
- 110 مرتبہ نادعلیٰ - 21 مرتبہ سورہ اخلاص -
- 70 مرتبہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
- گمشدہ چیز یا آدمی کے لیے
- 110 مرتبہ نادعلیٰ
- 70 مرتبہ اِنَّ اِلَهَهُ وَاِنَّ اِلٰهِيَهُ رَاجِعُونَ بِحَقِّي اَجْمَعُ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَنْ يَحَقُّ (گمشدہ چیز کا نام لیں)

دنیاوی مقصد پورے ہونے اور لوگوں کے درمیان عزیز و محترم ہونے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے

110 مرتبہ نادعلیٰ - 110 مرتبہ یا كَرِيْمُ يَا رَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ قَرْض ادا ہونے اور دولت کے حصول کے لیے

110 مرتبہ نادعلیٰ - 70 مرتبہ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ ہر عمل کے لیے ضروری ہے جمعرات سے شروع کریں اول و آخر 14-14 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور بعد نماز عشاء پڑھیں - 2 رکعت نماز رسول خدا اور حضرت علیؑ کی خدمت میں ہدیہ کریں ہر جمعرات نذر رسول اور نذر حضرت علیؑ کریں - 3 دن ایک پاؤ گائے کا گوشت اپنا صدقہ کریں - ہر عمل 41 دن کا ہے سمجھ میں نہ آئے تو فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

نوٹ 10 سال سے کم عمر بچوں کو حضرات ہوتے ہیں جس میں خانہ کعبہ روضہ حضرت علیؑ روضہ امام حسین اور مقدس مقامات کی زیارات ہوتی ہیں اور موکلان نادعلیٰ سے ملاقات ہوتی ہے فون کے اوقات دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے

وسعت رزق کیلئے جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں پر اس طرح سلام کریں۔ (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو (اَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ) یا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ وَ سَلَّمَ اس کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ انشاء اللہ کچھ دنوں کے بعد روزی کی زیادتی پر لوگ تعجب کریں گے۔

سید مبارک حسین کاظمی  
(شاہ صاحب)  
R31 فیزا 11 ڈیکس گارڈن  
ابوالحسن اسمبھانی روڈ کراچی

# فضیلت و خواص ناد علی صغیر

امامیہ جنتری 2020 کے قارئین کے لیے اس مرتبہ فضیلت و خواص ناد علی صغیر پیش خدمت ہیں استفادہ فرمائیں اور مجھ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیز امامیہ جنتری کے بانی آغا ثار احمد (مرحوم) و اہلیہ مرحومہ اور آغا افتخار صاحب کی زوجہ مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں اور پسماندگان کو پروردگار رحمت تندرستی کے ساتھ ساتھ کاروبار میں ترقی و اضافہ فرمائے آمین!

## نقش ناد علی

۷۸۶

یا جبرائیل بحق یا علیؑ

۱۱۲۸	۱۱۳۲	۱۱۳۵	۱۱۲۱
۱۱۳۴	۱۱۲۲	۱۱۲۷	۱۱۳۳
۱۱۲۳	۱۱۳۷	۱۱۳۰	۱۱۲۶
۱۱۳۱	۱۱۲۵	۱۱۲۴	۱۱۳۶

یا اسرافیل بحق یا علیؑ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ناد علی صغیر

نَادِ عَلِيًّا مَمْظَهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ  
فِي النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ وَعَمٍّ سَيَنْجِلِي  
بِعَظَمَتِكَ يَا اَللّٰهُ وَبِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدًا  
وَبَوْلَايَتِكَ يَا عَلِيًّا يَا عَلِيًّا يَا عَلِيًّا

پڑھ لیا کرے تو رہائی ضرور ہوگی۔ اگر کوئی شخص گھر سے باہر جاتے وقت ایک مرتبہ ناد علی پڑھے گا جس کام کی خواہش کریگا تو وہ اپنے کام میں کامیابی حاصل کریگا۔ ایک مرتبہ ناد علی پڑھے لیس۔ بد لوگوں کی زبان بندی کے لیے روزانہ 10 مرتبہ ناد علی پڑھنے سے کامیابی حاصل ہو جائیگی۔ بد مزاج خاوند کی اصلاح کے لیے روزانہ 99 مرتبہ ناد علی پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو ان شاء اللہ راہ راست پر آجائے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور طبیب اسکے علاج سے عاجز آجائے تو بارش کے پانی پر ان کلمات کو 18 روز پڑھ کر دم کریں اور پانی مریض کو پلائیں فوراً شفا یاب ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ اپنی بنا کر بھیجا جائے تو 3 مرتبہ ناد علی پڑھ کر اسکے کان میں پھونکے تو اسکا پیغام قبول ہوگا۔ اگر کسی شخص پر اسکا بزرگ یا حاکم غضب ناک ہو جائے تو اسکو چاہیے 71 مرتبہ ناد علی پڑھے اور 3 مرتبہ آہستہ آہستہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کا غصہ دور ہو جائے گا اور وہ اس پر مہربان ہو جائیگا۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن پہلی ساعت میں 12 مرتبہ ناد علی پڑھے گا تو جس سے بات بھی کریگا وہ اسکا دوست بن جائے گا۔ دشمنوں پر غلبے کے لیے ہر روز 17 مرتبہ ناد علی پڑھے گا تو دشمنوں پر فتح پائیگا۔

ناد علی مشہور اور مقبول دعا ہے ہر مصیبت اس سے دور ہوتی ہے ہزاروں سینکڑوں برس سے عالم و عامل فیض پارہے ہیں۔ ناد علی کے حیرت انگیز عجیب و غریب خواص ہیں۔ ناد علی کی بڑی قدر و منزلت ہے بزرگان دین اور ماہر روحانیت پڑھتے ہیں اور اپنی حاجتیں اور مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار سب حاجتمندوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین!

اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ہر روز 10 مرتبہ ناد علی پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج مرض دور ہو جاتے ہیں۔ مریض کو جب بھی پانی پلایا جائے تو اس پر ایک مرتبہ ناد علی دم کر کے دیا جائے۔ ان شاء اللہ جلد شفا ملے گی۔ اگر کوئی شخص دشمنوں میں پھنس جائے اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو تو اسکو چاہیے کہ 7 مرتبہ ناد علی پڑھ کر ان کی طرف دم کرے تو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ عزت و شوکت کے حصول کے لیے ہر روز 10 مرتبہ ناد علی پڑھ لیا کریں۔ اگر کسی شخص سے افسر، حاکم، ناراض ہو جائے تو اسکو چاہیے حاکم، افسر کے روبرو، سامنے جا کر 3 مرتبہ ناد علی پڑھے ان شاء اللہ وہ افسر مہربانی سے پیش آئے گا۔

اگر کوئی شخص حصول دولت کی خواہش رکھتا ہو تو اسکو چاہیے ہر روز صبح کے وقت 12 مرتبہ ناد علی پڑھ لیا کرے وہ جلد ہی غنی اور بے نیاز ہو جائے گا۔ قیدی اگر اپنی رہائی کے لیے روزانہ 160 مرتبہ ناد علی



تحریر  
سید حیدر شاہ شیرازی

0344-2420784

www.humaliwalayazar.com

محترم ناشر و انتظامیہ امامیہ جنتری السلام علیکم کے بعد دعا ہے کہ مالک کائنات محمد مصطفیٰ ﷺ و اہلبیت کے صدقے آپ کو عزت و سربلندی عطا کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ آپ اسی طرح خدمت خلق سرانجام دیتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام انسانیت کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا اور یہ تاقیامت تمام انسانوں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب سے تمام کے لیے باعث ہدایت ہے آج کل بہت سے جعلی عاملوں نے لوگوں کو بلند نوا و بلا دعوے کر کے دھوکہ دے رکھا ہے جس وجہ سے لوگ عدم اعتماد کا شکار ہیں۔ مگر قرآن پاک پر ہر انسان کو پورا اعتماد ہے۔ ہمارے بزرگان نے پشتوں سے ہمیں جو علم سکھایا وہ قرآن سے استفادہ ہے حالانکہ بہت سے لوگ قرآن سے عملیات بتاتے ہیں مگر پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی اسکی اصل وجہ علم الاعداد کو ملحوظ نہ کرنا ہے۔ ہم پورے سال قرآنی آیات کو علم الاعداد سے ملحوظ کر کے مختلف کاموں کے واسطے آزما تے ہیں جس میں کامیابی ہو صرف اس کو فلاح انسانیت کے لیے شائع کرواتے ہیں۔

ہو یا پہلے محبت اور تعلق رہا ہو مگر اب ختم ہو چکا ہو یا والدین کی باہمی رضا مندی کے لیے حسب توفیق 2000 مرتبہ مٹھائی کے 2 دانوں پر آیت پڑھ کر کھلا دیں یا پھر کامیابی کے لیے آتش زعفرانی عمل کریں جو کہ مجرب ہے

### ہمہ قسم بندش کے واسطے

سورہ نمل آیت نمبر 92 وَأَنْ أَلْتَمُوا الْقُرْآنَ سے مِنْ الْمُتَذَرِّينَ تک + ن 2 = 1 + 1 = 11 = 5 + 6 = 56 = 50 + 6 نکلا ہے۔ یہ بندش کے لیے آزمودہ ہے بندش کئی قسم کی ہوتی ہے کاروباری، رشتوں کی، شادی میں رکاوٹ، اولاد کی بندش اسکے یا تو اتارے یا توڑ کا عمل کریں یا پھر اس آیت کو زحل ساعت میں زعفران سے لکھ کر وزن تلے دبا دیں 21 یوم میں بندش کا خاتمہ ہوگا۔ ان شاء اللہ

### کاروباری ترقی و برکت کے لیے مجرب

سورہ فاطر آیت نمبر 30 لِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَجْوَرَهُمْ سے عَفُورٌ شُكُورٌ تک ل + ن 30 = 2 + 3 + 0 = 230 = 200 + 30 نکلا ہے اور ہر باہو یا اچانک نقصان کی طرف چلا گیا ہو یا ویسے تنگی رزق ہو تو اس آیت کو پانچ الگ کاغذ پر لکھ کر وزن تلے دبا دیں ان شاء اللہ جلد ٹھیک ہوگا۔

سید حیدر شاہ شیرازی 0344-2420784

### محافظت و غلبہ دشمن کے واسطے

سورہ طہ آیت نمبر 68 قُلْنَا لَا تَخَفْ مِنْ آلِ غُلِيٍّ تَكُ ق + و 2 = 1 + 1 + 0 = 2 مفرد کے حساب سے اس آیت کو صبح صادق کے وقت سینہ و رور اور عرق گلاب سے دو کاغذ پر لکھیں جس دشمن پر غلبہ چاہے اسکا نام مع والدہ لکھ کر پاس رکھے جہاں جائے گارعب اور تقویت رہے گی یا اسکا نام کیل پہ لکھ کر درخت میں گاڑ دے۔

### غیر شرعی تعلق کے خاتمے کے لیے

سورہ احزاب آیت نمبر 35 کا آخری حصہ وَالْحَفِظَيْنِ فَرُّوْهُمْ سے أَجْرًا عَظِيمًا تک + و الف = 1 + 6 = 17 اسکا مفرد عدد 7 نکلا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص غلط تعلق میں مبتلا ہو یا اسکے آفس کا ماحول ایسا ہو جس وجہ سے خطرہ ہو یا وہ جان بوجھ کر ایسے تعلقات رکھے تو تعلق چھرانے کے لیے دونوں کے نام مقناطیس پر 7 مرتبہ لکھیں اور آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اسکو توڑ کر الگ الگ دفن دیں جلدی تعلق کا خاتمہ ہوگا۔

### حصول محبت و مابین صلح کے لیے

سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7 عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكْفُرَ رَجِيْمًا تَكُ ع + م + 70 = 1 + 1 + 0 = 110 = 40 + 70 اسکا عدد 2 نکلا ہے اگر کوئی رشتہ نہ ہو رہا

برائے نظریہ بال لمبے گھنے قدمب اور ذیل آیات مجیدہ صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لے تو اسکا قد

لمبال گھنے اور نظربد کے اثرات سے محفوظ رہے گا (تجربہ شدہ ہے) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ (الفرقان: ۲۵)

فَاذْآ اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْبَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ (الرح: ۵) كُذِّبَتْ اَحْرَجَ شَطْرُهُ فَازْرَاكَ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلٰی سُوْقِهِ (الرح: ۲۹)

وَ اِنْ يَكَادُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیُّزِقُوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ لِنَآسِ عُوَالِدِكَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَكَاْجِبُوْنَ ۗ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝



اکرام عباس کاظمی

علی ٹاؤن شاہ اللہ دتہ اسلام آباد

0300 919115

# محب عمل

www.humaliwalayazar.com

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ہی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں سرکارِ دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

یہ دنیا ایک مسائل کی آماجگاہ ہے برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ جو بھی اس دنیا میں آیا مسائل اور پریشانیوں سے دوچار رہا اور ہے ہم زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں کسی نہ کسی مسئلہ کا شکار ہو کر پریشان رہتے ہیں۔

قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ذریعے دعا مانگنے کا کہا ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رخصن۔ اس کے سارے پیارے نام ہیں اور امام علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں اللہ تعالیٰ ہماری معرفت اور شناخت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا (تفسیر عیاشی)۔ اور امام علی نقی نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت ہی دین کا نظام ہے ہمارے بارے میں شک کرنے والوں کے اللہ اعمال قبول نہیں کرتا اور امیر المؤمنین حضرت علی فرماتے ہیں حاجت طلب کرنے سے پہلے درود شریف پڑھو ورنہ نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا نہ حاجت، درود کے بغیر دعا آسمان تک نہیں جاتی آج کا عمل بھی اسی روشنی میں پیش کر رہا ہوں بہت مجرب عمل ہے اور علماء کرام نے بھی مجرب اور تیر بہدف قرار دیا یہ عمل ہر حاجت پوری کرے گا انتہائی موثر ہے جن جن حاجت کے لیے پڑھیں تو وہ حاجت ان شاء اللہ پوری ہوگی۔ عمل شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات سے شروع کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد 500 مرتبہ درود پاک اور اسکے بعد زیارت امام حسین پڑھنی ہے۔

شب جمعہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ	500 مرتبہ
شب ہفتہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ	500 مرتبہ
شب اتوار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى	500 مرتبہ
شب پیر	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ	500 مرتبہ
شب منگل	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ	500 مرتبہ
شب بدھ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ	500 مرتبہ
شب جمعرات	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ	500 مرتبہ
شب جمعہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعَبَّاسِ الشَّهِيدِ	500 مرتبہ
شب جمعہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ	500 مرتبہ
شب ہفتہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اميرِ الْمُؤْمِنِينَ	500 مرتبہ
شب اتوار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَا	500 مرتبہ
شب پیر	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ	500 مرتبہ
شب منگل	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُسَيْنِ	500 مرتبہ
شب بدھ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ	500 مرتبہ
شب جمعرات	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ	500 مرتبہ

## دعائے امام حسین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ وَمَعَادِدِ عَمْرٍ شَيْكُ وَسُكَّانِ سَمَوَاتِكَ وَاَنْبِیَاءِكَ وَرُسُلِكَ اَنْ تَسْتَجِیْبَ لِیْ فَقَدْ هَفِیْتُ مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا فَاسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ لِیْ مِنْ اَمْرِیْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

## سید تحمل حسین شیرازی

(WhatsApp) 0344-7654095

0300-7503638

## بارگاہِ مہول متاثر بے شکل

اس آیت مبارکہ کو بعد از نماز فجر 60 مرتبہ مع اول و آخر درود شریف 19 مرتبہ پڑھیں اور مسلسل 70 یوم جاری رکھیں انشاء اللہ اسی دوران غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہونگے اور اچھی ملازمت مل جائے گی یا پھر کاروبار بن جائے گا۔

## تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی کے لیے

سورۃ علی کی آیت مبارکہ نمبر 6 سنقر ٹک فلا تنسئی اکثر طلباء و طالبات دل لگا کر محنت کرتے ہیں مگر کمرہ امتحان میں وہ تمام تر درسی مواد جو ذہن نشین کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، اور مجموعی طور پر ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں، انہیں چاہئے کہ کچھ بھی ذہن نشین کرنے سے قبل 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ مندرجہ بالا آیت مبارکہ کو 5 مرتبہ پڑھ کر دائیں ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد درسی مواد ذہن نشین کرنے میں جانیں۔ ان شاء اللہ نمایاں کامیابی سے ہمکنار ہونگے۔

## امراض سے شفا یابی کے لیے

سورۃ قدر یعنی انا انزلنا اس سورۃ مبارکہ کو اسناد کے ساتھ متعدد بار آزمایا گیا ہے کہ بیماری خواہ جتنی بھی شدت اور پیچیدگی اختیار کر چکی ہو چاہے کہ تابانغ بچے جو قرآن پڑھ سکتے ہوں انہیں یہ سورۃ پڑھنے کو کہا جائے کم از کم بیس منٹ وہ لا تعداد پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ مریض کیلئے دعا کروائیں اور بچوں کو آمین کہنے کو کہیں ان شاء اللہ مریض رو بہ صحت ہوگا۔ مجھے ایک درویش نے اس سورۃ کے متعلق بتایا تھا کہ مرض خواہ کینسر کا بھی کیوں نہ ہو اس سورۃ کی برکت سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔

## بیرون ملک اپلائی کرنے والوں کے لیے

سورۃ اخلاص کو بروز جمعرات ساعت مشتری میں 1000 مرتبہ پڑھیں مع اول و آخر درود پاک 9 مرتبہ اور بیرون ملک جانے کے لئے دعا کیا کریں تو حیرت انگیز طور پر آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس عمل کو مسلسل 9 ہفتے تک جاری رکھیں۔ آزمائش شرط ہے۔ ان شاء اللہ کامیابی ملے گی

## جائز محبت کے حصول کے لیے

سورۃ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 165 یحبونہم سے حباً اللہ تک

## آفات و بلیات سے نجات کے لیے

سورۃ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 115 واللہ سے واسع علیہم تک قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کے اعمال اُسے تکلیف دیتے ہیں۔ اس کائنات کا باقاعدہ ضابطہ ہے جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مختلف آفات و بلیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مختلف قسم کے نہ حل ہونے والے مسائل کا شکار ہوں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے کثرت سے اسفغر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں اور اس کے بعد مندرجہ بالا آیات مبارکہ کو 309 مرتبہ روزانہ پڑھیں، چالیس یوم کے بعد آفات و بلیات سے دائمی طور پر نجات ہو جائے گی۔

## اولاد نرینہ کیلئے

سورۃ الذاریات، آیت مبارکہ نمبر 28 وبشر وہ بغلام علیہم وہ افراد جو بے اولاد ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز ہوں انہیں چاہیے کہ بروز جمعۃ المبارک بوقت طلوع آفتاب کچی پینسل سے ایک کاغذ پر ابراہیم لکھیں اور اس کے چاروں اطراف مندرجہ بالا آیت مبارکہ لکھیں اور اس کاغذ کو آب زم زم میں ڈال کر رکھ دیں اور روزانہ غروب آفتاب سے کچھ ہی منٹ قبل اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی دونوں میاں بیوی پی لیا کریں اور آیت مبارکہ کو بوقت عصر 259 مرتبہ پڑھا کریں انشاء اللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی

## نا جائز قابضین سے نجات کے لیے

سورۃ انفال آیت مبارکہ نمبر 17 وما رمیدت سے رحی تک اگر کسی کے پلاٹ یا گھر پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہو اور قابض سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو چاہیے کہ مندرجہ بالا آیت مبارکہ کو قبرستان کے چورستہ کی مٹی جو کہ مٹھی بھر ہو، لیکر اس پر آیت مذکورہ کو 360 مرتبہ پڑھیں اور جس جگہ پر قبضہ ہوا ہو اس کے دروازہ پر یا پلاٹ پر وہ مٹی گرا دیں تو جلد ہی قابضین وہاں سے بھاگ جائیں گے، مجرب الحرج ہے

## روزگار کے حصول کے لیے

سورۃ طلاق آیت مبارکہ نمبر 3 ویوزقہ سے قدر تک۔

# تسبیحات مومنین

صوفیہ نقوی 0332-4634315

سب سے افضل تسبیح حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک 34 مرتبہ **اللَّهُ أَكْبَرُ** 33 مرتبہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** 33 مرتبہ **سُبْحَانَ اللَّهِ** ایک مرتبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہے

**عجیب الانعام تسبیح** حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ درج ذیل تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہشت کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے ہاتھ چاندی کا بیچہ ہوتا ہے وہ فرشتہ بہشت کی زمین جسکی مٹی خالص مشک کی ہے اس میں درخت لگاتا ہے اس کے گرد دیوار کھینچتا ہے اور اسکے دروازے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا باغ ہے۔ تسبیح ہے

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**

اللہ پاک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اللہ پاک بڑی عظمت والا ہے

**مجرب العقول تسبیح** یہ تسبیح تمام دینیوی آفات و مشکلات و مہمات و حاجات و حاجتمندوں اور مظلوموں کے لیے سپرد و حرز جان ہے اور در مقصود ہے بعد از نماز صبح کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں۔ اور تسبیح کے عجائبات سے استفادہ فرمائیں۔ تسبیح یہ ہے

**يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ**

اے عجائبات کے بنائے والے (شکل) آسان فرماتو اپنے فضل سے اے مضبوط گرفت والے

**جلالی تسبیح برائے وصولی قرض** نماز کے بعد سجدے میں جا کر یہ کلمات صرف 101 مرتبہ پڑھیں اور دعا مانگیں کامیابی کے بعد صدقہ دیں پرندوں کو دانہ اور مچھلیوں کو غذا ڈالیں۔ تسبیح یہ ہے۔

**يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** (اے صاحب جلال و کرامت)

**لاجواب تسبیح** ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو جہنم سے نجات کے علاوہ دنیوی تمام مصائب سے محفوظ رہے گا۔

**اَسْتَجِيْرُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّارِ** (میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کی آگ سے)

اولاد دینیہ کے لیے دوائی بھی مل سکتی ہے۔ صوفیہ نقوی (انٹرنیٹ ڈیکوریٹر) صوفیہ نقوی 0332-4634315 صرف خواتین رابطہ کریں

شعب بک ایجنسی کشمیری بازار راولپنڈی 0333-5156329

روزانہ بعد از نماز عشاء مطلوب کے نام مع والدہ کے اعداد ملوثی، قمری کے مطابق آیت مبارکہ کو مع اول آخر 9 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حصول مقصد تک جاری رکھیں انشاء اللہ کامیابی ہوگی

## ہر قسم کے جادو کا مکمل توڑ کرنے کے لیے

سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جب دنیا مطلاعات میں گھر چکی ہوگی اور امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام نبی آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں گے اور اس کی برکت سے باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس پر کیے گئے جادو کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں وہ اسے ہر روز بعد از نماز عصر 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کرے انشاء اللہ جادوئی اثرات ختم ہو جائیں گے اور آمیندہ کے لیے بھی حفاظت رہے گی۔

## شادی میں حائل رکاوٹوں کے خاتمہ کے لیے

اکثر افراد کی شادیاں التوا کا شکار ہو جاتی ہیں، نسبت طے پانے کے امکانات واضح ہوتے ہیں لیکن معدوم ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ بروز جمعۃ المبارک سورۃ نجم کو بوقت نماز جمعہ ایک مرتبہ تلاوت کریں، جب آیت سجدہ پر پہنچیں تو فوری طور پر سجدہ کریں اور اس کے بعد شادی کے لیے دعا مانگیں تو ان شاء اللہ جلد شادی کے اسباب پیدا ہونگے، یہ متعدد اسناد کے ساتھ مجرب الحرج ہے۔

## پسند کی شادی کا مجرب عمل

اپنی مرضی کی پسند کی شادی کرنے کے لیے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل پڑھیں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نفل دو، دو رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد دعا سے قبل اور آخر میں 11-11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع سے دعا مانگیں۔ ان شاء اللہ جلدی کامیابی حاصل ہوگی۔ عمل کے لیے نیک نیتی اور ہر طرح کی شرعی پابندی شرط اول ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں۔

مسلسل رہنمائی کے لیے ہمارا YOUTUBE چینل Syed Tajamal Sherazi سہسکرائب کریں اور ہماری کاوشوں سے مزید مستفید ہوں

## روحانی علاج، فقہی مسائل، استخارہ

اور معمولات زندگی کو آسان بنانے کے لیے رجوع کریں۔

الحاج مولانا فیاض حسین جعفری 0300 4344139

اشرف بک ایجنسی کشمیری چوک اقبال روڈ راولپنڈی فون: 051-5531610



سید علی رضارضوی

0333-7351212

0300-5411734

## سورۃ یس۔۔ وجہ فرحین برائے مومنین

مومنین اکرام گذشتہ سالوں کی طرح کتاب الہی اور فرامین آل محمد سے مومنین ومومنات کے روحانی مسائل کے حل کیلئے کوشش کرتا ہوں۔ اور امامیہ جنتری کے توسل سے مومنین جو اس سے استفادہ کرتے ہیں مولا اس سے ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کریں۔ جو مومنین فون کر کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اگر کچھ پڑھنے کیلئے ان کو بتایا جائے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ ہماری نیابت میں پڑھ دیں۔ یعنی بھوک خود کو لگی ہو تو دوسرا سامنے بیٹھ کر بھی کھانا کھائے تو بھوکے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی کہ جب تک وہ خود نہ کھائے۔ یہی معاملات روحانیت کے ہوتے ہیں جس کو کوئی پریشانی ہو اسے چاہیے دل سے با وضوح تلفظ کے ہاتھ خود پڑھے۔ مولا مہربانی کریں گے۔ گذشتہ سال میں نے سورۃ یسین کے اجمالی فوائد لکھے تھے بہت سے مومنین نے فون کر کے دعائیں دیں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے سال بھر محنت کی۔ سورۃ یسین کی 83 آیات اور ہر آیت کے اپنے خواص، اپنے فوائد اور اپنے مطالب ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امید ہے کہ مومنین کو میری محنت پسند آئے گی اور دعا کریں گے۔

(یاد رکھیں عمل جو بھی کریں خود کریں اور طہارت اور صحیح ادائیگی کے ساتھ کریں)

آیت 1: پہلی آیت جو انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے حالات سے اتنا تنگ ہو جائے کہ اور کوئی حل نہ ملے وہ پہلی آیت کا ورد کرے آیت 2: جس کی دوکان ہو مکان ہو یا کوئی کاروبار ہو اور وہ چاہے کہ میرے رزق میں کاروبار میں وسعت ہو وہ 100 دفعہ یہ آیت روزانہ پڑھے۔ آیت 3: جو انسان یک دم پاگل ہو جائے دماغ کام کرنا چھوڑ جائے یا شیاطین کا سایہ ہو اس پر پڑھی جائے۔ آیت 4: دنیا سے لڑ لڑ کر تھک جائے اور جب ٹوٹ جائے تو اپنے معاملات اللہ سے ٹھیک کروانے کیلئے فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ آیت پڑھے۔ آیت 5: جادو ٹونے سے بچنے کیلئے 100 دفعہ ہر نماز کے بعد تلاوت کریں۔ آیت 6: دشمنوں سے بچنے کیلئے اور ہر قسم کے حادثہ سے محفوظ ہونے کیلئے یہ آیت لکھ کر پاس رکھ لے اور اس کی تلاوت کرے۔ آیت 7: اگر راستہ بھٹک جائے یا کوئی بندہ گم ہو جائے تو اس کے لئے 100 دفعہ پڑھے۔ آیت 8: محبت کیلئے انگوٹھی پر نقش کروا کر پہن لے۔ آیت 9: بندش کرنے والے دشمنوں سے جو تنگ ہو وہ سرخ مرچ لے اور اس پر یہ آیت لکھ کر رکھ لے۔ آیت 10: بیوی بد زبان ہو یا شوہر دونوں ایک دوسرے پر پڑھ کر پھونک دیں لڑائی نہیں ہوگی۔ آیت 11: مصیبت زیادہ ہو جائے تو کسی پرانی قبر پر لکھنے سے ختم ہو جائے گی۔ آیت 12: کام اور معاشرہ میں عزت کے اضافہ کیلئے لکھ کر پاس رکھے۔ آیت 13: کسی بھی کام پر جانے سے پہلے کاغذ پر لکھ کر کسی پاک پانی سے دھو کر وہ پانی پیے ان شاء اللہ جو بھی کام ہوا ہو جائے گا۔ آیت 14: زعفران سے لکھ کر دھو کر وہ پانی پی لیں جسم میں جتنے درد ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ آیت 15: زعفران

آیت 16: دمہ کا مریض اس آیت کو لکھ کر دھو کر پی لے سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آیت 17: دو بندوں میں ناراضگی ہو جو شدت اختیار کر جائے ان کے دل نرم کرنے کیلئے یہ آیت لکھ کر پاس رکھیں۔ آیت 18: یہ آیت لکھ کر سرکش جانور کے گلے میں ڈال دیں، اولاد نافرمان ہو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت 19: حاملہ عورت آپریشن سے بچنے کیلئے یہ آیت لکھ کر پانی سے دھو کر پی لے۔ آیت 20: اللہ سے بیٹا لینے کیلئے یہ آیت لکھ کر پاس رکھے۔ آیت 21: قرض کی ادائیگی کیلئے اس آیت کا ورد کریں۔ آیت 22: لکھ کر حاملہ عورت کے گلے میں ڈال دیں بچہ کامل الاعضاء پیدا ہوگا۔ آیت 23: یہ آیت 3 دن لکھ کر جس مرض کیلئے بھی مریض کو پلائی جائے اللہ شفا دے گا۔ آیت 24: جملہ عورتوں کی بیماریوں کی نجات کیلئے آیت لکھ کر دھو کر پی لے اور اس پانی سے غسل کرے۔ آیت 25: جس کا بخار نہ اتر رہا ہو آیت لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دو۔ آیت 26: کوئی بندہ کہیں سفر پر جانے لگا ہو جو خطرناک ہو تو اس کی منزل آسان اور بچنے کیلئے لکھ کر وہ پاس رکھ لے۔ آیت 27: جو مرگی کا مریض ہو یا کوئی دماغی مرض ہو وہ زعفران سے لکھ کر اس سے سر کو دھوئے اور پانی پی لے۔ آیت 28: جو بندہ بے جرم قیدی ہو اور رہائی کی کوئی شکل نہ ہو وہ مٹی کا ڈھیلہ لے اور اس پر یہ آیت لکھ کر جاری پانی میں ڈال دے۔ آیت 29: جس بچہ کو نیند نہ آتی ہو آیت لکھ کر اس کے سر ہانے کے اندر کھ دیں بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ آیت 30: عدالت جانے سے پہلے

بچنے کیلئے اس آیت کو لکھ کر ساتھ رکھ لیں۔ آیت 56: اس آیت کو لکھ کر دوکان یا مکان میں لگانے سے انسان کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ آیت 57: گھر میں رزق کی بارش کیلئے کثرت سے اس آیت کی تلاوت کریں۔ آیت 58: سورۃ یسین کی اس آیت کے سب سے زیادہ فوائد ہیں عمر میں اضافہ، رزق میں برکت، بیماری سے نجات، ایک دفعہ تلاوت سے شہدا کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ آیت 59: اس آیت کی تلاوت کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے 1000 دفعہ قرآن ختم کیا ہو۔ آیت 60: لوگوں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کیلئے روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ آیت 61: اس آیت کا ورد اور تعویذ انسان کو ہر قسم کے خودکش حملہ سے امان دیتا ہے۔ آیت 62: اس کا قاری کبھی بھی راہ راست سے بھٹکنے والا نہیں ہوگا اور اس کا مقام جنتی لوگوں میں سے ہوگا، اور کبھی بھی وہ کسی کا حق نہیں غصب کرے گا۔ آیت 63: کفن پر لکھنے سے قبر کی وحشت ختم ہوگی اور امان ہوگی ہر قسم کے عذاب سے بچا رہے گا۔ آیت 64: اگر بندہ پردیس جائے اور جان کا خطرہ ہو تو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ آیت 65: سو کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو پانی سے دھولیں اور پھر وہ پانی اس مریض کو دیں جس کو پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ کے امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ آیت 66: لکھ کر کاندھے پر باندھنے سے دماغی ٹیومر یا دماغی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آیت 67: دن میں 3 دفعہ پڑھنے سے شیطان دوسو سے ختم ہو جائیں گے۔ آیت 68: غربت سے نجات کیلئے فجر کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیں۔ آیت 69: درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 70 دفعہ پڑھ کر دم کریں۔ آیت 70: مٹانہ کی پتھری سے نجات کیلئے زعفران سے لکھ کر دھو کر پیں۔ آیت 71: لکھ کر دھو کر پینے سے اندر کی تپش، پیاس، حرارت ختم ہو جائے گی۔ آیت 72: جس عورت کا دودھ کم ہو وہ لکھ کر گلے میں ڈال لے۔ آیت 73: جو بچہ زیادہ روتا ہے اس کے جسم کے کسی حصہ پر لکھ کر باندھ دیں۔ آیت 74: کسی بڑے برتن کے اندر لکھ کر پانی ڈال کر پینے سے جملہ امراض ختم ہو جائیں گے۔

آیت 75: یہ آیت بھی کفن پر لکھنے کیلئے وارد ہے قبر کی وسعت کیلئے مفید ہے آیت 76: بہن کی کھال کا چار کونوں والا لکڑا لیکر اس پر لکھ کر اولاد کیلئے باندھ لیں۔ آیت 77: نیلے رنگ کا کپڑا لیکر اس پر لکھ کر مرگی والے مریض کے گلہ میں باندھ دیں۔ آیت 78: جو مریض کو مہ میں ہو یا مرگی کا شکار ہو 70 دفعہ اس آیت کو پڑھ کر اس پر پھونک دیں آیت 79: نظر بد سے بچنے کیلئے یہ آیت لکھ کر رکھ لیں اور گھر سے نکلتے

یہ آیت زعفران سے لکھ کر جیب میں رکھ لے تو اللہ اسے عزت دے گا۔ آیت 31: دشمن کے وار سے بچنے کیلئے لکھ کر پاس رکھے۔ آیت 32: جنات سے بچنے کیلئے جادو سے نجات کیلئے لکھ کر پاس رکھ لے۔ آیت 33: جس انسان کو چنبل یا پھلبھری ہو جائے وہ زعفران سے لکھ کر متاثرہ جگہ کو دھولے۔ آیت 34: سسرال میں کوئی بلا و جنگ کرتا ہو آیت کاغذ پر لکھ کر کسی پتھر کے نیچے رکھ دے اس کی زبان کے قہر سے بچ جائے گا۔ آیت 35: گناہگار کے کفن پر لکھنے سے اللہ عذاب سے نجات دے گا۔ آیت 36: ناف کے مریض کیلئے اپنی انگلی سے مریض کی پیشانی پر یہ آیت لکھنی ہے۔ آیت 37: لوگوں میں اپنی چاہت اور محبت بڑھانے کیلئے 300 دفعہ تلاوت کریں۔ آیت 38: دشمن کا وار بے اثر کرنے کیلئے تلاوت کریں۔ آیت 39: گھوڑا سرکش ہو جائے اس کے گلے میں لکھ کر تعویذ ڈال دیں۔ آیت 40: بڑی سے بڑی حاجت کیلئے شب جمعہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ آیت 41: پل صراط آسانی سے عبور کرنے کیلئے اس کی تلاوت کریں۔ آیت 42: کسی معصوم ع کی زیارت کرنی ہو کسی بھی چاند کی پہلی سے لیکر 30/29 تک ہر رات 30 دفعہ اس آیت کی تلاوت کرے۔ آیت 43: دنیا سے کامل ایمان لیکر جانے کیلئے 100 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ آیت 44: جو بھی لگا تار تلاوت کرے گا بغیر شک و شبہ کے جنت میں جائے گا۔ آیت 45: جس بندے کے ہر کام میں نقصان ہوتا ہو اور کوئی کام بھی منافع بخش نہ ہو وہ اس آیت کا تعویذ بنا کر پہن لے۔ آیت 46: اس آیت کا ورد کرنے والا کبھی کاروبار میں نقصان رزق کا فقدان نہیں اٹھائے گا اور زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آیت 47: اس بابرکت آیت کی تلاوت قبر میں زبان کی فصاحت کا باعث بنے گی۔ آیت 48: دریا کا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لو غرق ہونے سے بچ جاوے۔ آیت 49: جو بندہ بھی لکھ کر اس آیت کو اپنے پاس رکھ لے وہ کبھی بھی پتھر سے زخمی نہیں ہوگا۔ آیت 50: روزانہ اس کی تلاوت کرنے والے پر اسرار، عجائب کے وہ درکھلیں گے کہ اس کو دعا کیلئے کسی سے کہنا نہیں پڑے گا۔ آیت 51: اپنی کسی بھی حاجت کی تکمیل کیلئے ایک دفعہ درود پڑھ کر 7 دفعہ یہ آیت پڑھیں۔ آیت 52: لوگوں میں مقام حاصل کرنے کیلئے کسی بھی چھوٹے پودے پر پڑھ کر پھونک مارو اور اس پودا کو اگنے دو۔ آیت 53: دشمنوں کے وار سے بچنے کیلئے اس آیت کو کندھے پر باندھ کر گھر سے نکلیں۔ آیت 54: لکڑی کے ککڑے پر لکھ کر گھر میں رکھنے سے گھر میں سکون اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ آیت 55: از دو ا جی زندگی میں لے سکونی سے



سیدہ ارم زہرا نقوی  
دختر سید ضیاء نقوی (مرحوم)  
0301-7899755  
0321-5702541

# باہمی محبت کا مخفی انمول تحفہ

سچی الفت محبت ایک انمول مخفی خزانہ ہے جس کی تلاش میں انسان سرگرداں ہے۔ ہر شخص کو زمانے بھر سے شکایت ہے کہ کسی میں محبت نہیں۔ عزیز و اقارب محبت سے نا آشنا بھائی بھائی سے بیگانہ، غیر تو غیر اپنوں کا بھی خون سفید ہو گیا اس لیے دلوں میں سچی محبت نہیں رہی۔ محبت سچائی و خلوص کا محور ہے۔ خالق کائنات نے اپنے کلام میں سورۃ الانفال (پارہ 10 آیت نمبر 63 میں فرمادیا ہے کہ) **ترجمہ** اور اسی خدا نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی کہ اگر تم جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہم ایسی الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر خدا ہی تھا جس نے ان میں باہمی محبت پیدا کر دی۔ صاحب ایمان مسلمان کے لیے مزید شک و شبہ کفر ہے قدر مطلق علی کل شیء قدیر رحمن و رحیم کے رحم کے طلب گار ہوتے ہوئے اسی مقدس آیت سے استفادہ کریں

**فوائد** جو شخص اس عمل سے استفادہ کرنا چاہے تو سورۃ فاتحہ مع سورۃ اخلاص الحاج آغا ثار احمد مرحوم بانی امامیہ جنتری اور آغا افتخار صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہدیہ کریں۔

میاں بیوی کے درمیان ناچاقی، سخت نفرت اگرچہ طلاق تک نوبت ہو بہن بھائیوں میں رنجش ہو ساس بہو میں خلش و کشیدگی دور کرنا قریبی رشتہ داروں میں سخت اختلاف کا خاتمہ دوست و احباب میں بدسلوکی ہو نفرت کا مٹانا دود دوستوں کی باہمی نفرت کو محبت میں بدلنا ہو پسند کی جگہ پر شادی کے لیے مجرب ہے۔

کلیہ کے مطابق کل میزان 5157 سے 120 نفی کریں باقی 5037 تقسیم 4 یہ تقسیم پوری ہوگی۔ حاصل قسمت 1259 ہر خانہ چار کے اصابہ کے سے پر کریں۔ کسر خانہ 13 میں آئے گی عدد 1308 میں لکھا جائے گا وقف صحیح ہوگا **نوٹ** چار سے تقسیم کے بعد ایک بچے تو خانہ نمبر 13 اور دو بچوں تو خانہ نمبر 9، اگر تین بچے تو خانہ نمبر 5 میں ایک عدد کا اضافہ ہوگا۔  
دو نقش بنائے جائیں، ایک طالب اپنے پاس رکھے اور دوسرا نقش کاغذ پر خالص زعفران عرق گلاب سے لکھ کر آگ کے نیچے ذہن کریں کہ صرف حرارت پہنچتی رہے۔ **شرائط و ہدایات**

تعویذ لکھنے والے نے کم از کم حراف سچی کی زکوٰۃ دی ہوئی ہوگی ہر شخص کو اپنی ذات کے لیے لکھنے کی اجازت ہے لیکن حلال و جائز کام ہو نقش لکھتے وقت قمر در عقرب نہ ہو اور رجال الغیب سامنے نہ ہو

الودود الرحیم کا عدد 340 مرتبہ پڑھے اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھے تعویذ جس ستارہ کی ساعت میں لکھا جا رہا ہو تو اسکی متعلقہ دھات کے پرتے پر لکھا جائے اور متعلقہ بخور کریں اگر متعلقہ دھات کی توفیق نہ ہو تو خالص زعفران یا عرق گلاب میں کاہنی کے قلم سے لکھیں لوہے کا قلم استعمال نہ کریں اگر خود نہ کر سکے تو رابطہ کریں۔  
سیدہ ارم زہرا نقوی دختر سید ضیاء نقوی نزد امام بارگاہ حسینہ شین باغ خورد تحصیل و ضلع انک 0301-7899755, 0321-5702541

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جبرائیل			
مسکین	قوا	مسکین	قوا
۱۲۸۷	۱۲۹۹	۱۳۱۲	۱۲۵۹
۱۳۰۸	۱۲۶۳	۱۲۸۳	۱۳۰۳
۱۲۶۷	۱۳۲۰	۱۲۹۱	۱۲۷۹
۱۲۹۵	۱۲۷۵	۱۲۷۱	۱۳۱۶

## ایک مثال کے طور پر عمل

435	اعداد	طالب فرہاد بن سکینہ
3607	اعداد قمری	آیت متعلقہ (سورۃ انفال 63)
340	اعداد	اعداد معاون آیت الودود الرحیم
775	اعداد	اعداد مطلوب مع والدہ شریں بنت نفسیہ



# بانجھ پن کاروحانی تریاق

عابس شیبیب (ایم اے، ایڈووکیٹ)  
0333-4633999, 0333-4128131  
رجانہ روڈ جی مل ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ  
abisshabib@Gmail.com

قرآن مجید ایک مکمل اور جامع الہامی کتاب ہے۔ اس میں ہر خشک و تر کا علم ہے۔ یہ شفاء کا ملہ ہے۔ میڈیکل سائنس بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ بانجھ پن اولاد کا ناہونا یہ بھی ایک خطرناک مرض ہے۔ کیونکہ انسان اپنی نسل کو اپنی زندگی کا سرمایہ جاوداں سمجھتا ہے۔ اگر کسی عورت کا کچا حمل گر جاتا ہو اسے چاہیے کہ یہ دُعا لکھ کر اُس کے گلے میں باندھے تو اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر جائیگا۔ اگر سہ ماہہ حمل والی عورت کو قند پر یہ دُعا پڑھ کر کھلائی جائے تو خداوند تعالیٰ فرزند عطا کرے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی عورت برسوں سے بانجھ ہو تو اُس کے لئے پندرہ روز تک ایک سپاری تر لائی جائے اور اُس پر تین بار یہ دُعا پڑھ کر عورت عقیمہ کو کھلائی جائے ضرور نطفہ قرار پائے گا اور خدا کے فضل سے لڑکا پیدا ہوگا۔ (جو اہر خمسہ، صفحہ نمبر ۸۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَنَا الْعَبْدُ فَمَنْ يَدْعُ الْعَبْدُ اِلَّا الرَّبَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَالِقُ وَاَنَا الْمَخْلُوْقُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَخْلُوْقُ اِلَّا الْخَالِقَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ وَاَنَا الْمَمْلُوْكُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَمْلُوْكُ اِلَّا الْمَلِكَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَاَنَا الْفَقِيْرُ فَمَنْ يَدْعُ الْفَقِيْرُ اِلَّا الْغَنِيَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَوِيُّ وَاَنَا الضَّعِيْفُ فَمَنْ يَدْعُ الضَّعِيْفُ اِلَّا الْقَوِيَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَيُّوْمُ وَاَنَا الرَّاِئِلُ فَمَنْ يَدْعُ الرَّاِئِلُ اِلَّا الْقَيُّوْمَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَفُوُّ وَاَنَا الْمُسِيْبُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُسِيْبُ اِلَّا الْعَفُوَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ وَاَنَا الْمُنْدِبُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُنْدِبُ اِلَّا الْغَفُوْرَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّحِيْمُ وَاَنَا الْخَاطِئُ فَمَنْ يَدْعُ الْخَاطِئُ اِلَّا الرَّحِيْمَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَغِيْبُ وَاَنَا الْمُسْتَعِيْبُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُسْتَعِيْبُ اِلَّا الْمَغِيْبَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُجِيْبُ وَاَنَا الدَّاعِي فَمَنْ يَدْعُ الدَّاعِي اِلَّا الْمُجِيْبَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَجِيْرُ وَاَنَا الْمُسْتَجِيْرُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُسْتَجِيْرُ اِلَّا الْمَجِيْرَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَزِيْزُ وَاَنَا الدَّلِيْلُ فَمَنْ يَدْعُ الدَّلِيْلُ اِلَّا الْعَزِيْزَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُعْطِي وَاَنَا السَّاِئِلُ فَمَنْ يَدْعُ السَّاِئِلُ اِلَّا الْمُعْطِي يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَهَّابُ وَاَنَا الْبَائِسُ فَمَنْ يَدْعُ الْبَائِسُ اِلَّا الْوَهَّابَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَفْرِيْحُ وَاَنَا الْمَغْمُوْمُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَغْمُوْمُ اِلَّا الْمَفْرِيْحَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُنْجِي وَاَنَا الْغَرِيْبُ فَمَنْ يَدْعُ الْغَرِيْبُ اِلَّا الْمُنْجِي يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّازِقُ وَاَنَا الْمَرْزُوْقُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَرْزُوْقُ اِلَّا الرَّازِقَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفَّارُ وَاَنَا الْمُتَضَرِّعُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُتَضَرِّعُ اِلَّا الْغَفَّارَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْكَاشِفُ وَاَنَا الْمُضْطَرُّ فَمَنْ يَدْعُ الْمُضْطَرُّ اِلَّا الْكَاشِفَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّيِّدُ وَاَنَا الْمُبْتَحِلُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُبْتَحِلُ اِلَّا السَّيِّدَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ سَيِّدِي وَمَوْلَانِي فَاعْفِرْ دُنُوْبِي وَاَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ .

Imamia Jantri Official By Itikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore



0333-7014915

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایم غلام رضا عسکری (ماہر علوم فلکیات)

۱۴۴۱ھ

لَا یَعْلَمُ الْغَیْبَ إِلَّا هُوَ

2020 عیسوی

# نوروز عالم افروز

عرض بلد 33-43N

تحویل آفتاب در برج حمل

طول بلد 73-04E

## مورخہ 20 مارچ 2020 بروز جمعہ المبارک

### صبح 8 بجے 49 منٹ 29 سکینڈ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم بمطابق دار الحکومت اسلام آباد

#### صدقات

چاول، آنا، میدہ، سوچی، چینی، انڈا، سفید ریشمی کپڑا، کپاس، جوار، سفید کئی، ساگودانہ، کبوتر سفید، فاختہ آزاد کرنا۔ بہتر ہے چینی، سوچی، کا صدقہ کیڑے مکوڑوں کو دیں یا سفید ریشمی ڈوپٹہ کسی ضعیف خاتون کو دیں۔

#### خوارک

برنی، چم چم، چاول کی کھیر، ساگودانہ کھویہ، سوچی کا حلوہ، دودھ، کسٹرز، سفید بیٹھے چاول، پیٹھ، قاقند، وانٹ گوشت اور سفید اجناس جن کا ذائقہ شیریں ہو

جوزا	حامل شمس 00:00 درجہ	حوت عطار 02:36:00 درجہ نیچون 18:50 درجہ
رہو 04:30 درجہ	طالع ثور 24:11 درجہ	دلہ
سرطان	یورانس 04:32 درجہ زہرہ 15:56 درجہ	قمر 13:32 درجہ
اسد	زائچہ نوروز بحساب یونانی نجوم	جدی مریخ 22:35 مستری کیتو 04:30 22:46 پلوٹو 24:40 زحل 29:50
سنبلہ	عقرب	میزان

مراتب سیارگان برائے نوروز

بادشاہ: زہرہ

وزیر: شمس

سپہ سالار: مریخ

مشیر: قمر

رنگ: سفید

نوٹ سواری، پوشاک وغیرہ کی کیفیت صرف اہل ہنود میں پائی جاتی ہے اسلام میں اسکا تصور نہیں ہے

#### بین الاقوامی اوقات برائے نوروز

بغداد، عراق، جدہ، سعودی عرب 20 مارچ 06:49:30، تہران، ایران 20 مارچ 07:19:29، دمشق شام 20 مارچ 05:49:29، دہلی، عرب امارات 07:49:30، انڈیا 09:19:29، واشنگٹن نیو یارک کیلیفورنیا اوتاوا کینیڈا امریکہ 19 مارچ 23:49:29، رات لندن برطانیہ 20 مارچ 03:49:30 صبح ٹوکیو جاپان کچھ بڑے ممالک کے نوروز اوقات دیئے جا رہے ہیں

تحویل کے وقت مولا مشکل کشا کی نذر دیکر ان کے وسیلہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرے گا۔

کچھ بڑے ممالک کے نوروز کے اوقات قارئین کی سہولت کے لیے دیئے جا رہے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا کی ریاستوں میں مختلف ٹائم زون ہیں اپنے مقامی وقت کو جمع یا نفی کر کے درست وقت نکال لیں۔ قریب و جوار کے ممالک بھی درست وقت کے لیے مقامی وقت میں جمع یا نفی اپنے قریبی ملک کے مطابق درست وقت نکال لیں۔ پاکستانی وقت نوروز میں سے 5 گھنٹے نفی کر لیں تو گرین واچ ٹائم نکل آئے گا۔

اس کے بعد، دُعا کرے بعض نے لکھا ہے کہ نوروز کے دن موافق اعداد ایام سال نکال کر اس دُعا کو پڑھے۔

اللَّهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ وَأَنْتَ مَلِكٌ قَدِيمٌ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَأَسْتَغْفِرُكَ مَمُونَتَهَا وَسُغْلَهَا يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ (زاد المعاد)

## سات سلام

مشہور ہے کہ جو شخص یہ سات سلام نوروز کے دن  
منگ و زعفران سے کسی چینی کے برتن پر لکھ کر  
گلاب کے عرق سے دھوئے اور اس میں سے پیئے تو آئندہ سال تک کوئی رنج و درد  
اس کو نہ ستائے گا۔ اگر زہریلا جانور کالے تو اس پر اثر نہ ہوگا۔

1 سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

2 سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

3 سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

4 سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

5 سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ

6 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَأَدْخَلُوهَا خَالِدِينَ

7 سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ط  
(از حاشیہ زاد المعاد)

## تقش نوروز اعداد

تحویل آفتاب کے وقت کسی پاک جگہ با وضو ہو کر گلاب و زعفران سے  
اس تقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو تمام سال جملہ امراض و بلیات غم و  
صدمات سے محفوظ رہیں گے دشمن مقہور ہوگا مقاصد پورے ہوں  
گے۔ نہایت مجرب اور راز مرہم ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۲۶۱	۱۲۶۲	۱۲۶۳	۱۲۶۴	۱۲۶۵
۱۲۶۶	۱۲۶۷	۱۲۶۸	۱۲۶۹	۱۲۷۰
۱۲۷۱	۱۲۷۲	۱۲۷۳	۱۲۷۴	۱۲۷۵
۱۲۷۶	۱۲۷۷	۱۲۷۸	۱۲۷۹	۱۲۸۰

اور مدت حمل تک واسطے حفاظت حمل کے ایسا اس شکل کو لکھ کر ران پر اندر کی جانب  
باندھے اور گرد کی عبارت کو چشم کشادہ لکھے اور بعد پیدائش بچے کے فوراً کھول دے۔

## الشکور البکور

۱۲۶۱	۱۲۶۲	۱۲۶۳
۱۲۶۴	۱۲۶۵	۱۲۶۶
۱۲۶۷	۱۲۶۸	۱۲۶۹
۱۲۷۰	۱۲۷۱	۱۲۷۲

۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰

## تمام جلدی بیماریوں اور کینسر

کے علاج کے لیے چشمہ امام حسن (نجف اشرف) کا پانی فی سبیل

اللہ حاصل کریں۔ ذاکر حسین بلتستانی  
Only Whatsapp  
0332-4106690

بلتستان بک ڈپو نیابازار سکرو 0341-5088828

مندرجہ ذیل تقش کو منگ و زعفران سے لکھ کر گلاب میں دھو کر پیئے وہا و امراض  
جسمانی سے محفوظ رہے گا۔ اس تقش کی انگوٹھی چاندی پر کندہ کر کے پہننے بھی محتاج نہ ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
۱۱۱۹ = ۱۱۱۱۱۹ = ۱۱۱۱ محط

برائے دروزہ سات مرتبہ اس آیت کو گڑ، شکر یا کسی مناسب عرق پر پڑھ کر  
کھلائے یا پلائے۔ فوراً بچہ پیدا ہوگا۔

إِذَ السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

وَإِذَ الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ



# آداب و اعمال نوروز



تحویل آفتاب کا وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ یہ استجاب دعا کا وقت ہے۔ مؤمنین کو چاہیے کہ مقررہ وقت سے پہلے پاک صاف ہو کر لباس مطہرہ زیب تن کریں اور کسی پاک جگہ پر پاک فرش کا اہتمام کریں۔ خوشبو یا تھل لوبان، اگر بتی و صندل وغیرہ سلگائیں۔ دسترخوان پر مٹھائی پھل میوے وغیرہ رکھیں اور نذر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دیں۔ بعد ازاں ایک کٹورے یا پیالے میں پانی بھر کر اس میں گلاب کا سرخ پھول ڈال دیں اور بوقت تحویل آفتاب اس پر نظر رکھیں جو وقت تحویل کا ہوگا اس وقت خود بخود ساکن پھول میں حرکت پیدا ہوگی بس یہ وقت دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ہے۔ اس وقت ۳۶۹ مرتبہ ”يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“ اور کم از کم ۳۶ مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْاَبْصَارِ يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا مُحَوِّلَ الْحَوَالِ

وَالْاَحْوَالِ حَوِّلْ خَالِنَا اِلَى اَحْسَنِ الْحَالِ ط

مؤمنین کو چاہیے کہ نوروز کے دن بعد نماز ظہرین چار رکعت نماز اس طرح ادا کریں۔ اول یہ نیت کریں کہ دو رکعت نماز نوروز پڑھتا ہوں۔ ”قُرْبَةً اِلَى اللّٰهِ اِنَّهُ اَكْبَرُ“ اور اول رکعت میں بعد سورہ حمد دس مرتبہ سورہ ”اِنَّا اَنْزَلْنَاهَا“ اور دوسری رکعت میں بعد سورہ حمد دس مرتبہ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور بعد سلام ختم کرے اور پھر دو رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کریں۔ اول رکعت میں بعد سورہ حمد دس مرتبہ ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“ اور دوسری رکعت میں بعد سورہ حمد دس مرتبہ ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ پڑھے اور بعد سلام ختم کرے اور سجدے میں جائے اور یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْاَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ وَعَلَى جَبِيحِ  
 اَنْبِيَاءِكَ وَرُسُلِكَ بِاَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِاَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَصَلِّ  
 عَلَى اَرْوَاحِهِمْ وَاَجْسَادِهِمْ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ لَنَا فِي يَوْمِنَا  
 هَذَا الَّذِي فَضَّلْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ خَطَرَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيهَا  
 اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ حَتَّى لَا اَشْكُرَ اَحَدًا غَيْرَكَ وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي يَا ذَا الْجَلَالِ  
 وَالْاِكْرَامِ اللَّهُمَّ مَا غَابَ عَنِّي فَلَا يَغِيْبُنَّ عَنِّي عَوْنُكَ وَحِفْظُكَ  
 وَمَا فَقَدْتُ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تُفْقِدُنِي عَوْنُكَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا اَتَكَلَّفَ مَا لَا اَحْتَاَجُ  
 اِلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore

## عالمی حالات 2020

www.humaliwalayazar.com

Ph 0300 3210024, E mail: razaaskri@gmail.com

تحریر و تحقیق غلام رضا عسکری اعوان نواب شاہ

جمعہ کے دن کا نوروز عورتوں بچوں اور نوجوانوں کے لئے بہتر ہوتا ہے اس سال عملی طور پر خواتین شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کارکردگی کرتی نظر آئیں گی

پاکستان کے حالات

زائچہ نوروز کی روشنی میں ملکی وقار میں بین الاقوامی سطح پر اضافہ ہوگا، خارجی معاملات میں پاکستان کو واضح کامیابیاں ملنے کی امید ہے خصوصاً پڑوسی ممالک میں ایران افغانستان کے ساتھ معاملات میں بہتری آئیگی بھارت کے گٹھ جوڑ اور بھارتی ایجنسیوں کی دہشت گرد کارروائیوں کو پاکستان عالمی اور پڑوسی سطح پر بے نقاب کرتا ہوا ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی لائیگا۔ معاشی طور پر پاکستان کی کرنسی مزید کمزوری سے بچ جائے گی اور روپیہ کی قدر مستحکم رہے گی۔ زہرہ طالع میں زرمبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ اور بیرونی قرضوں میں کمی کا باعث بنے گا۔ تاہم گورنمنٹ میں مشیروں اور وزراء کی سطح پر تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ ممکن ہے کہ پاکستانی سیاست میں عالمی سطح پر مشہور خاتون کی شمولیت حکمران پارٹی میں ہو۔ اور نمایاں عہدہ آنے والے وقتوں میں خاتون کو دیا جائے عدلیہ اور ججز کے معاملات میں بہتری اور کارکردگی میں اضافہ کے لئے تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ نیپ اور دہشت گردی کی عدالتوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت کی خاطر خواہ ریکوری ابتدائی چھ ماہ میں عوام کے سامنے آئے گی۔ حکومت اور افواج پاکستان کی مشترکہ ایک پالیسی پاکستان کو اندرونی بیرونی معاملات سے نمٹنے میں نمایاں کامیابیاں دے گی، راہو کی تیسرے شخص موجودگی شمال مشرقی علاقوں میں سرحدی جھڑپیں معمول کے مطابق چلتی رہیں گی۔ تاہم بین الاقوامی سطح پر سرحدی خلاف ورزیوں کے شہس ثبوت انڈیا کی رسوائی کا سبب بنیں گے، جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے عالمی قوتیں دو ایٹمی طاقتوں کو مذاکرات پر لانے میں معاونت اور کردار ادا کریں گی۔ میڈیا دار میں انڈیا کو جگ ہنسی کا سامنا ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے جتنی ساز و سامان کی خریداری اور تجربات نہیں اضافہ مارچ مئی اکتوبر اور نومبر دسمبر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عوامی سطح پر حکومت کو سخت رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خصوصاً صوبائی معاملات میں وفاقی اور صوبائی معاملات پر اختلافات سامنے آئیں گے۔ اس سال کسی قسم کے ڈٹرم ایکشن کا کوئی امکان نہیں

ہے۔ نوین گھریسی اور مذہبی جماعتوں کا اجتماع حکمرانوں کے لئے دباؤ میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ اپریل مئی میں حکومت مخالف مظاہرے اور تحریکیں سامنے آ سکتی ہیں تاہم حکومت کی جانب سے کسی نرمی کی توقع نہ رکھی جائے۔ قدرتی آفات یا سمندری طوفان کی وجہ سے اپریل تا جون شمال مشرقی اور جنوب مغربی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مریخ زحل مشتری پلوٹو اور کیتو نویں گھر جنوب مغربی ساحلی پٹی پر آباد شہروں کو قدرتی آفات سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 2020 کا بجٹ قدرے بہتر ہوگا تاہم نئی ٹیکس اصلاحات اور مالیاتی قوانین سامنے آئیں گے۔ ممکن ہے کہ کاروباری طبقہ کی جانب سے دباؤ برقرار رہے تاہم تبدیلیاں لانا ناگزیر ہوگی۔ زراعت سے واسطہ افراد کے لئے اچھا بجٹ ہوگا اجناس کی قیمت خرید میں اضافہ کیا جائے گا۔ کپاس انگور مکئی گندم اور خشک میوہ جات کی پیداوار میں اضافہ کے ساتھ ٹیکسٹائل کی صنعت میں بہتری آئے گی۔ تھیش اور آرٹس میں اضافہ ہوگا جبکہ کپڑا ملبوسات خوشبو سازی اور سفارت میں ریل اور ہوائی سفارت میں بہتری سامنے آئے گی۔ جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں سینٹ ٹیکسٹائل ادویات آئل لوہا اور جنرل اسٹیم کمپنیوں کے حصص میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انٹرنیشنل کی صنعت میڈیا اور فلم سازی کو مراعات کے ساتھ میڈیا پارٹنر اور سخت قوانین کا اطلاق اور ذرائع ابلاغ کو منفی اور سنسنی خیز افواہوں اور خبروں سے روکنے کے قوانین سامنے آئیں گے، کھیلوں کو فروغ دینے کے ساتھ خواتین کی فلاح و بہبود اور صحت کے معاملات پر توجہ دی جائے گی جبکہ انٹرنیٹ اور دیگر روابط کو بہتر بنانے کے لئے موبائل کمپنیز اور اطلاعاتی عامہ میں بہتریاں لائی جائیں گی۔

موسم مرطوب اور درمیانہ رہے گا۔ برفباری زیادہ ہوگی اور اسکے ساتھ بارشیں معمول کے مطابق اور زراعت کی مناسبت سے اچھی موسمی بارشیں ہونگی۔ مون سون کی بارشیں جولائی کے وسط میں شروع ہو جائیں گی جبکہ اس سال سندھ کے شمال مشرقی حصوں میں زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے اسکے ساتھ طوفان باد و باران معمولات زندگی متاثر کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں اس سال خاطر خواہ برفباری اور بارشیں خشک

مہراں بک سٹور بندر روڈ لاڑکانہ سندھ

نودلایت دی ہٹی ریل بازار عارف والا

اسلامی کتب خانہ ساگر سندھ

Download from Googleplay-IOsplaystore  
Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot .

**ایران** ایران عالمی سطح پر اپنے ہم خیال دوستوں اور پڑوسی ممالک کی حمایت حاصل کر لے گا جبکہ عالمی سطح پر روس چین اور پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک کی حمایت ایران پر کسی بھی ممکنہ امریکی جارحیت کے امکانات نا ہونے کے برابر ہونگے۔ عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے معاشی طور پر ایران کے حالات بہتر ہونگے جبکہ امریکی ممالک کی پابندیوں کو خاطر میں نالا تے ہوئے کئی ایک ممالک ایران کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط استوار کریں گے۔ انڈیا کے ساتھ ایران کے روابط میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ ایران مخالف ممالک کی وجہ سے یہاں مقیم ہے جبکہ ایرانی حکومت دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ معاملات میں نمایاں بہتری لائے گی۔ سرحدی معاملات میں ایران پاکستان سرحد کو دونوں ممالک رضامندی سے دہشت گردوں سے پاک کرنے کے معاہدوں پر کام کریں گے۔ معاشی طور پر ایران کی کرنسی مضبوط ہوگی اور ایران کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، تیل کی پیداوار میں ایران نئے ذخائر کی جانب پیش رفت کرے گا جبکہ ایران کی جانب سے دفاعی تجربات جون جولائی میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر قدغن لگانے کی کوششیں ناکام ہونگی اور اسکے ساتھ ہی عالمی سطح پر ایران پر لگی پابندیوں کو یکسر نظر انداز کرنے کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ ترکی کے ساتھ ایرانی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا ممکن ہے شام میں ایران اور ترکی مل کر داعش اور دیگر اسلام دشمن گروپوں کی جانب پیش رفت کریں۔ نوروژ میں زہرہ مرخ اور زل کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے ایران کے حالات قدرے بہتر رہیں گے تاہم ایران کو قدرتی آفات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران کی دیگر سرحدیں جو عراق اور سعودیہ سے ملتی ہیں ان سرحدوں پر ایران کی جانب سے سخت سرحدی قوانین سامنے آئیں گے جب کہ افغان سرحد پر ایران کی جانب سے بندش لگائے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی اپریل میں ایران کی جانب سے فوجی قوت میں اضافہ یا ہتھیاروں کے تجربات سامنے آ سکتے ہیں۔ راہوکا داخلہ تیسرے گھر میں مئی کے بعد سرحدی کاروائیوں میں اضافہ کی صورت حال پیدا کر سکتا ہے۔

**عراق** عراق میں حکومتی رسد کشی عروج پر رہے گی حکومت مخالف سرگرمیوں میں اضافہ عراق میں خراب حالات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ امریکی آشر باد پر عرب ممالک کی مداخلت سامنے آنے اور مقامات مقدسہ کے راستے بند یا پریشان کن حالات پیدا کرنے کی مٹنی

سالی میں معاون ثابت ہوگی۔ جبکہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال معمول کے مطابق بہتر رہے گی۔

**بھارت** اندرونی حالات انڈیا میں خراب ہونے کا خدشہ ہے اقلیتوں کی جانب سے ہندو ازم کی نفی اور عدم توازن انڈیا میں اقلیتوں کو ایک محاذ پر اکٹھا کر سکتا ہے۔ نویں گھر میں چار ستاروں کا اجتماع عالمی سطح پر انڈیا کے عزائم کا پردہ چاک ہونے اور انڈیا کو اقوام عالم میں جواب دہی کا سامنا ہوگا بھارت روایتی طور پر اپنے قریبی چھوٹے ممالک پر دباؤ جاری رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا بنگلہ دیش نیپال بھوٹان برما اور سری لنکا کو اپنے زیر اثر لانے کی کوششوں میں تیزی لائے گا در پردہ بھارت جنوبی ایشیاء میں سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے جو کہ ناکام ہونگے۔ انڈین کرنسی رو بہ زوال ہوگی۔ اندرونی مداخلت کے واقعات عالمی سطح پر بھارت کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اسلحہ کی خریداری اور میزائل تجربات کی خبریں منظر عام پر رہیں گی جبکہ کشمیر میں سختیاں اور آرمی کی موجودگی بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام عالم کی جانب سے دباؤ کا سامنا بھارت کو ہوگا۔ قدرتی آفات میں بھارت کی انتہائی جنوبی علاقے بہار اور نیپال کی سرحدی پہاڑوں پر قدرتی آفات یا برفباری کثیر جانی مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات مشروط سطح پر قدرے بہتر ہو سکتے ہیں جبکہ بھارت پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں حائل کرتا ہوا سی پیک اور بلوچستان کے ساتھ افغانستان میں پاکستان مخالف تنظیموں اور دہشت گردوں کی معاونت میں بے نقاب ہوگا۔ مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اپوزیشن کا دباؤ اور خالصہ تحریک متحرک ہونے کی وجہ سے مودی سرکار کو اندرونی معاملات میں دباؤ کا سامنا ہوگا۔ فصلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے جبکہ بھارت کی ایکسپورٹ کو چند پابندیوں کا سامنا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ مٹنی پرو پیگنڈا اور غلط افواہیں بھارتی میڈیا کے لئے جگ ہنسانی کا باعث بنے گا۔ بھارتی عزائم کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں بھارت کو سختیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کی تقسیم کی خلاف ورزیاں سامنے آئیں گی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے بھارت کی سیاسی اور دہشت گرد RSS جماعت کو بین الاقوامی سطح پر پابندی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جبکہ داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کو بھارت کی جانب سے مالی معاونت کے ثبوت سامنے آنے کے امکانات واضح نظر آتے ہیں۔

سرحدی پٹیوں میں فوجی آپریشن دہشت گرد گروپوں کے خلاف کیا جائے۔ بین الاقوامی سطح پر شام کے خلاف جاری پابندیوں میں امریکہ کو ناکامیوں کا سامنا ہوگا خصوصاً روس اور ترکی کی جانب سے بین الاقوامی پابندیوں کو رد کرتے ہوئے شام کی حمایت اور فوجی مدد کی جائے گی۔ معاشی طور پر شام کو مشکلات کا سامنا ہے تاہم ستاروں کی نوعیت عارضی طور پر شام کی مالی حالت میں بہتری لائے گی۔ تیل کی پیداوار میں اضافہ شام کی معاشی حالات میں بہتری لائیگا جبکہ شام میں حکومت مخالف گروپوں کو مذاکرات پر لانے کی کوششیں کی جائیں گی تاہم حالات و واقعات اندرونی خلفشار میں کمی کی کوئی نوید نا سنائیں گے۔ شامی افواج میں تقویت اور اضافہ ہوگا۔ حماس سے رکتہ حلب اور دیگر علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائیوں میں شام کی جانب سے اضافہ ہوگا جبکہ لبنان اسرائیل کی سرحدی پٹیاں انتشار کا شکار رہیں گی۔ خدائے متعال بی بی زینب سلام اللہ کے مزار اقدس اور دیگر مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے اور اہل بیت اطہار کے مزارات اور مقامات مقدسہ کی تحفات کرے۔ آمین

### سعودی عرب

سعودی عرب نوروں کے زائچے کے حوالہ سے دیکھا جائے تو لبرل ازم کی جانب بڑھے گا۔ خواتین سے متعلق سخت قوانین میں نرمی کے ساتھ نئے قوانین متعارف کرائے جانے کے امکانات ہیں۔ میڈیا اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کے لحاظ سے مثبت کام کئے جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سعودیہ بین الاقوامی چینلز کی نشریات انٹرنیٹ اور دیگر پابندیوں میں نرمی کرے۔ تاہم پڑوسی ممالک کے ساتھ عرب و عجم کا تضاد باقی رہے گا۔ سعودی حکمرانوں اور حکومتی شاہی خاندانوں میں اختلافات سامنے آسکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ شاہی خاندان میں سے کسی خاتون کو مرکزی عہدے پر لائے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ دسویں گھر میں چار ستاروں کا اجتماع شاہی خاندان کی جانب سے ہم خیال عرب ممالک کو ملا کر کوئی نیا اتحاد یا فوجی قوت سامنے آسکتی ہے۔ سعودی مالی حالات میں بہتری آئیگی تاہم جنگی کیفیات اور پڑوسی ممالک کے ساتھ فوجی معاملات اور امریکی مداخلت سعودیہ کے بجٹ کو غیر متوازن بنا سکتی ہے۔ یمن بحرین اور ایران کے ساتھ عراق میں سعودی مداخلت بجٹ کو غیر مناسب کر سکتی ہے۔ نئے ٹیکسز کا اطلاق تارکین وطن کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ یمن کی جانب سے سعودی تنصیبات پر حملے مالی و جانی نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ اور میڈیا پر پابندیاں عائد کئے جانے کے امکانات ہیں۔

کاروائیاں منظر عام پر آئیں گی۔ عراقی معیشت کا بیشتر حصہ زائرین اور سیاحت پر منحصر ہے جبکہ امریکی اور مغربی پابندیوں میں عراق خلاف ورزیوں کی جانب جائے گا۔ عراقی معیشت میں بہتری آئے گی اسکے ساتھ ہی عراق میں حکومت مخالف گروپوں کے ساتھ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں خصوصاً شام کی سرحدی پٹیوں سے موصل تکریت اور بغداد تک دہشت گرد کاروائیوں میں اضافہ معاملات سنگین کر سکتا ہے۔ ایران کی معاونت اور دیگر مجاہد گروپوں کی معاونت سے عراق داخلی معاملات پر قابو پالے گا۔ دسویں گھر کا مالک اچھی پوزیشن میں اور دوسرے گھر کا مالک زہرہ عراقی معیشت میں استحکام اور حکومت کی مضبوطی کی جانب اشارہ کرتے ہیں راہو کا چوتھے گھر مئی تک اور مئی کے بعد تیسرے گھر میں راہو کا داخلہ عراقی عوام میں انتشار پیدا کرنے کی کوششیں اور اسکے ساتھ ہی جون تا دسمبر عراق سعودیہ سرحدی پٹی پر جھڑپوں میں اضافہ اور انتشار کی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے۔ قدرتی آفات بارشیں برفباری اور زلزلے جنوبی اور شمالی علاقوں میں جانی و مالی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حکومتی سطح پر مالی معاملات اور بے روزگاری کے خاتمہ کی کوششیں اور نئے منصوبے جاری کئے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں جبکہ تباہ حال علاقوں میں عراق کی جانب سے تعمیر نو کے کاموں میں تیزی سامنے آئے گی۔ ممکن ہے کہ عراقی حکومت میں مغربی اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے تبدیلیوں کی کوشش کی جائے اور شیعہ مخالف لوگوں کو سامنے لایا جائے اندرونی حالات کشیدہ کر کے ایسے حالات پیدا کئے جانے کی ناکام کوششیں ہو سکتی ہیں۔ ایران شام کی حمایت اور حزب اللہ کی معاونت سے اندرونی معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سیکورٹی معاملات پر عراقی حکومت کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ خصوصاً زائرین کی آمد کے سلسلوں کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔

### شام

شام کے حالات میں بہتری کے امکانات ہیں خصوصاً لبنان اسرائیل کی سرحدی پٹیوں پر دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں تیزی سامنے آسکتی ہے۔ ترکی روس ایران کی حمایت اور شامی افواج کے ساتھ مل کر شام میں جاری خانہ جنگی پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے، شام پر جاری پابندیوں میں کمی کا کوئی خاص امکان نہیں تاہم بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانے کی کوششیں اور شام میں عرب نواز حکومت لانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ اردن کے ساتھ شام کے تعلقات میں خرابیاں سامنے آسکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ شام کی جانب سے اردن کی



## نوروز کی شرعی حیثیت

**احکام نوروز** مورخہ 20 مارچ 2020 مطابق 24 رجب

المربح بروز جمعۃ المبارک 1441 ہجری 7 چیت 2076 بکری بوقت صبح 8 بجکر 49 منٹ 29 سکینڈ (پاکستان سٹیٹنڈرڈ ٹائم) مطابق دارالحکومت اسلام آباد (73 درجہ 04 دقیقہ مشرقی) (33 درجہ 43 دقیقہ شمالی) پاکستان کے موجودہ وقت ٹیس در برج حمل کے صفر درجہ پر تجویز ہوگا عید نوروز شمسی کیلنڈر کے حساب سے منائی جاتی ہے۔ نوروز 20 یا 21 مارچ کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے۔ وہ علم نجوم اور حرکت سیارگان ہے۔ نیادان اس لئے کہ شمس برج حمل میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ سب روایات گردش ایام سے متعلق ہیں جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ 18 ذوالحجہ 10 ہجری چونکہ اتفاقاً 21 مارچ کو آگیا۔ اس لیے اس جشن کو دہرمانانے کے لیے دونوں تاریخوں کو عید نوروز سے معنون کر دیا گیا۔ ہم جو اعمال بجالاتے ہیں وہ 20 یا 21 مارچ کو شمس کے برج حمل میں داخل ہونے کے نہیں ہیں بلکہ عید غدیر کے ہیں۔ شمسی کیلنڈر کی ایک سو برس مارچ سے بہت سے اور تہوار بھی مربوط ہیں۔ مگر سال ہائے وقوع میں فرق ہے۔ اعمال کی کتب مفتاح الجنان، تہذیب العوام وغیرہ میں اس تاریخ کے جو اعمال آپ پڑھیں گے۔ وہ نوروز سے متعلق نہیں ہیں بلکہ عید نوروز سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ واقعات ایک نئے دن سے متعلق ہیں۔ اس لیے یاد خدا میں تشکر کے طور پر اعمال بجالائے جاتے ہیں۔ آئمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات اور اعمال سے ثابت ہے۔ کہ اس دن کو آل محمد نے اپنا دن فرمایا ہے۔ (1) اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندوں سے عہد لیا ہے کہ اس کی واحدیت کے ساتھ عبادت کریں۔ (2) یہ پہلا دن ہے کہ آفتاب کی پہلی کرن زمین پر پڑی۔ (3) حضرت نوح کی کشتی کا کنارے لگنا۔ (4) رجعت آئمہ طاہرین اور حضرت علی کی خلافت ظاہرہ (5) حضرت محمد پر نزول وحی کا آغاز ہونا۔ (6) حضرت ابراہیم کا کافروں کے بتوں کو توڑنا۔ (7) حضرت علی کا خوارج پر فتح پانا۔ (8) حضرت علی کا ظہیر کعبہ کا عمل بجالانا وغیرہ۔ عید نوروز کے اعمال مومنین اپنے تہواروں کی یاد میں مناتے ہیں۔ یہ اعمال، نوافل، دعائیں اور نمازیں تجویز آفتاب سے متعلق نہیں بلکہ متذکرہ بالا اسلامی تہواروں سے مربوط ہیں۔ جن کی یاد ماننا باعث تقویت ایمان ہے۔

مداخلت کا امکان نہیں ہے۔ قدرتی آفات خصوصاً سمندری طوفان اور برف باری سے کئی ایک امریکی ریاستیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ قدرتی آفات و سمندری طوفان مالی و جانی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکہ پاک تعلقات میں بہتری آئے گی اسکے ساتھ ہی فوجی آلات و سامان پر لگی پابندیوں میں نرمی کا اطلاق پاکستان پر ہونے کے امکانات ہیں۔

پاک سعودیہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا اسکے ساتھ ہی نئے منصوبوں میں سعودی حکومت سرمایہ کاری کرے گی۔ مالی بے ضابطگیاں اور کرپشن پر حکومت کی جانب سے سختیاں کی جائیں گی۔ شاہی خاندان میں بھی کچھ نئے اسکینڈلز سامنے آسکتے ہیں۔ زر مبادلہ کی کمی اور بڑھتے ہوئے جنگی اخراجات سعودی کرنسی کو رو بہ زوال کریں گے۔ سعودی عرب پر عالمی ذرائع ابلاغ کا دباؤ بڑھے گا۔ صحافت کے شعبہ میں نئی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ موسمی اور قدرتی آفات سعودیہ میں جانی مالی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں خصوصاً اکتوبر تا جنوری اور مئی جون اہم ہو سکتے ہیں حکومتی سطح پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔

## امریکہ

امریکہ کی جانب سے پڑوسی ممالک کولمبیا وینزویلا اور دیگر ممالک کے ساتھ سرحدی تنازعے سامنے آسکتے ہیں خصوصاً میکسیکو کے ساتھ سرحدی باڑھ اور دیگر علاقوں میں سرحدی پابندیاں امریکہ کے پڑوسی تعلقات خراب کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ پالیسیاں امریکی عوام اور دیگر دنیا کے لئے خطرناک ہوگی خصوصاً چین کے ساتھ امریکہ کا بڑھتا ہوا تجارتی معاملہ پوری دنیا کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ گولڈ کی بے تحاشہ خریداری امریکی کرنسی کے کم ہونے اور مالی خسارے میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹرمپ کو امریکی کانگریس کی جانب سے محاسبے کی تحریک کا سامنا ہوگا جبکہ اپوزیشن کی جانب سے ٹرمپ کے کئی منصوبوں میں اختلاف سامنے آسکتا ہے۔ زہرہ کی مضبوطی اپوزیشن کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی ایک طرفہ پالیسیوں سے انکار اور فوجی کارروائیوں سے اختلاف امریکہ کے دنیا میں بڑھتے اثر و رسوخ میں کمی کا باعث بنے گا۔ ٹیکسز میں اضافہ، غیر ملکی تارکین وطن کے لئے نئے قوانین اور امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں امریکی عوام میں ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تیل کی پیداوار میں کمی اور قدرتی محاصل میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی اقوام عالم میں مداخلت خصوصاً یہود سعودی حمایت امریکہ کے بجٹ کو وقتی طور پر سہارا دے سکتی ہے تاہم گرتی ہوئی معیشت کے پیش نظر امریکہ ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ کرنے کے لئے قوانین اور پالیسیوں میں تبدیلیاں لا سکتا ہے، اسٹاک مارکیٹس کی کاشکار ہوگی جبکہ امریکی عوام میں روزگار کی کمی کی وجہ سے حکومت مشکلات میں آسکتی ہے۔ ایران عراق شام یمن بحرین میں براہ راست عرب ممالک کی ایما پر امریکہ صرف معیشت کو سہارا دیتا نظر آتا ہے کسی نئی جنگ میں امریکہ کی براہ راست

قاری منیر  
حسین محمدی  
0300-4352315

# سال 2020 مرد 4 کی حکومت

السلام علیکم! سب مل کر دعا کریں کہ حجت خدا کا جلد ظہور ہو۔ یاد رکھیں علم الاعداد ایک قدیم ترین علم ہے اور اس کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ یہ ایک عظیم الشان علم ہے۔ زمین پر پیدا ہونے والی اربوں کھربوں مخلوق کا حساب صرف نواعداد پر مشتمل ہے۔ یہ عدد انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں اس کا جواب ماہرین علم الاعداد نے صدیوں پر محیط مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ پیش کر کے دیا ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ پروردگار نے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی عدد کے ماتحت رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ و احصیٰ کل شیء عدداً۔ والدین اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو تحفہ دیتے ہیں وہ نام ہوتا ہے۔ لہذا اچھے نام کے ساتھ عدد بھی تاریخ پیدائش کے مطابق ہونا چاہیے۔ عدد چار کے نام اس طرح کے نہیں گے جس طرح محمد علی (جناح)، ذوالفقار علی (بھٹو) عمران خان، محمد رضا۔ ان کا ستارہ شمس برج اسد، پتھر نیلم اور پکھراج رنگ زرد دیتا ہے۔ اتوار کا دن اور اپریل کا مہینہ بہتر ہے۔ اب آئیے عدد چار کی خصوصیات پڑھیں۔ ایسے لوگ عمومی طور پر بھولے بھالے مگر چست ہوتے ہیں۔ مزاج میں سادگی ہوتی ہے۔ دوسروں کی بھلائی میں حصہ لیتے ہیں۔ حساس ہوتے ہیں کسی کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ دوست بنانے کو کوشش کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں انہیں ایک بھی دوست میسر نہیں آتا۔ ان کی ذات سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ لوگ صحیح معنوں میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں دوسروں کی فریب کاری کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں پکانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی رجحانات نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ملاقات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ان سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ غصہ اگر آ بھی جائے تو دل کو صاف کر لیتے ہیں۔ کوئی غلطی کر بیٹھیں تو تلافی میں دیر نہیں کرتے۔ افسر بن جائیں تو نرم دلی کی وجہ سے سفارش کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں روک ٹوک کم کرتے ہیں وفادار ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں۔ اس عدد کی خواتین زیادہ چالاک نہیں ہوتیں ہیں غصہ کم ہوتا ہے۔ ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہوتیں اور ایسی عورتیں اپنا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اگر ان کی ناقدری کی جائے تو ان کا دل جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ اس عدد کے لوگ خوش طبع، خوش اخلاق اور خوش مزاج ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ مستحکم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ مستقل مزاج ہوتے ہیں اور کام کرنے کی دھن ہوتی ہے۔ خلوص ایسے لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا نبھانہ، دودھ، چار عدد اور نو سے اچھا ہوتا ہے۔ تین اور آٹھ سے مشکل ہوتا ہے۔ تمام مشکلات کے حل اور پریشانیاں دفع ہونے کے لیے اور خاص طور پر چار عدد والوں کے لیے مخصوص عمل ہاشمید 319 بار روزانہ 22 دن تک پڑھیں۔ اس کے بعد یا پو 202 بار 13 دن تک پڑھیں۔ اس کے بعد یا حصی 31 دن تک پڑھیں اول و آخر درود شریف 13 مرتبہ۔

9	8	7	6	5	4	3	2	1
ط	ز	ح	ط	ح	ز	ط	ح	ط
ص	ف	ص	ف	ص	ف	ص	ف	ص
ظ	ض	ظ	ض	ظ	ض	ظ	ض	ظ

$$\frac{2}{4} = 11 = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 8 \\ \hline 1 & 8 \\ \hline \end{array}$$

$$2 = 20 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 4 & 4 & 8 & 4 \\ \hline \end{array}$$

قارئین سے گزارش ہے کہ بنیاد امامیہ جنتری بیگم و آغا ثار احمد، زوجہ آغا انصار حسین، آغا شکیل رضا غزالی، سید محمد رضا زیدی، سید اطہر حسن زیدی و دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمادیں۔

نقش دفع سحر و جادو نظر بد گردش نجومست کے لئے خاص نقش اور ہر قسم کے روحانی مسائل و جسمانی بیماریوں کے حل کے لیے رابطہ کریں اور زانچہ بنوانے کے لیے قاری منیر حسین محمدی 238 سر سید سٹریٹ الحمد کالونی نیلم بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور 0300-4352315

قارئین امامیہ جنتری کے لیے: روغن شفاء ہزاروں مرتبہ سورہ فاتحہ، چہار قل، و دیگر قرآنی آیات دم کیا ہوا۔ 0346 2489941  
برائے شفا بیماری، نظر بد و سحری اثرات، ہون پر فی سبیل اللہ منگوائیں۔ (علی احمد کاشف) (روحانیت حجت)

## شجرہ طیہ چہارہ معصومین علیہم السلام

(مصدقہ ادارہ شیعہ مجلس علمائے پاکستان)

اسمائے معصومین علیہم السلام	مشہور لقب	تاریخ و سنہ میلاد مسعود	تاریخ و سنہ شہادت	سبب شہادت	مدفن	مادر گرامی	مدت حیات
پیغمبر اسلام حضرت محمد	مصطفیٰ	۱۲ ربیع الاول ۱۰ عام الفیل جمعہ ۱۱ مئی ۵۷۰ء	۲۸ صفر المظفر ۱۱ھ دوشنبہ ۳۰ مئی ۶۳۱ء	زہر - یہودیہ	مدینہ منورہ	حضرت آمنہ خاتون	۶۳ سال
ام المومنین جناب فاطمہ	زہرا	۱۲ جمادی الآخر سن ۵ بعثت جمعہ ۸ اپریل ۶۱۴ء	۳ جمادی الآخر ۱۱ھ دوشنبہ ۲۷ اگست ۶۳۱ء	افقار دن درو پہلو شکن	جنت البقیع	حضرت خدیجہ الکبریٰ	۱۸ سال ۱۵ ماہ ۹ ایوم
ابوالائمہ حضرت علی علیہ السلام	امیر المومنین	۳۰ رجب المرجب سن ۳۰ عام الفیل ۱۱ اکتوبر ۵۹۸ء	۲۱ رمضان ۴۰ھ پنجشنبہ ۳۱ جنوری ۶۶۱ء	ضربت ابن ملجم	نجف اشرف	حضرت فاطمہ بنت اسد	۶۳ سال
حضرت امام حسن علیہ السلام	مجتبیٰ	۱۵ رمضان المبارک ۴ھ جمعہ ۲ مارچ ۶۲۵ء	۲۸ صفر المظفر ۵۰ھ جمعہ ۳۰ مارچ ۶۷۰ء	زہر جعدہ بنت اشعث	جنت البقیع	حضرت فاطمہ زہرا	۴۷ سال
حضرت امام حسین علیہ السلام	سید الشہداء	۳ شعبان المعظم ۴ھ سہ شنبہ ۱۰ جنوری ۶۲۶ء	۱۰ محرم الحرام ۱۱ھ جمعہ ۱۲ اکتوبر ۶۸۰ء	خنجر شمر لعین	کربلائے معلیٰ	حضرت فاطمہ زہرا	۵۷ سال
حضرت امام علی علیہ السلام	زین العابدین	۱۵ جمادی الاول ۳۸ھ جمعہ ۱۱ اکتوبر ۶۵۸ء	۲۵ محرم الحرام ۹۵ھ پنجشنبہ ۱۳ اکتوبر ۶۶۱ء	زہر ولید بن عبدالملک	جنت البقیع	حضرت شہر بانو	۵۷ سال
حضرت امام محمد علیہ السلام	باقر	کیم رجب المرجب ۵۷ھ شنبہ ۱۱ مئی ۶۷۰ء	۷ ذی الحجہ ۱۱۲ھ سہ شنبہ ۳۱ جنوری ۶۳۳ء	زہر ابراہیم بن عبدالملک	جنت البقیع	فاطمہ بنت امام حسن	۵۷ سال
حضرت امام جعفر علیہ السلام	صادق	۱۲ ربیع الاول ۸۳ھ چهار شنبہ ۱۲ اپریل ۶۷۲ء	۱۵ شوال المکرم ۱۲۸ھ سہ شنبہ ۷ دسمبر ۶۷۵ء	زہر منصور دوایتی	جنت البقیع	حضرت ام فروہ	۶۵ سال
حضرت امام موسیٰ علیہ السلام	کاظم	۷ صفر المظفر ۱۲۸ھ شنبہ ۱۵ نومبر ۷۷۵ء	۲۵ رجب المرجب ۱۸۳ھ شنبہ ۱۴ ستمبر ۷۹۹ء	زہر بارون رشید عباسی	کاظمین	حمیدہ خاتون	۵۵ سال
حضرت امام علی علیہ السلام	رضا	۱۱ ذیقعدہ ۱۲۸ھ شنبہ ۱۳ اگست ۷۷۶ء	۲۳ ذی قعدہ ۲۰۳ھ یکشنبہ ۲۶ مئی ۸۱۹ء	زہر مامون رشید عباسی	مشہد مقدس	نجمہ خاتون	۵۵ سال
حضرت امام محمد علیہ السلام	تقی	۱۰ رجب المرجب ۱۹۵ھ سہ شنبہ ۱۲ اپریل ۸۱۱ء	۲۹ ذی قعدہ ۲۲۰ھ سہ شنبہ ۲۷ نومبر ۸۳۵ء	زہر معصم بالند	کاظمین	خیزران خاتون	۲۵ سال ۱۲ ماہ ۳ ایوم
حضرت امام علی علیہ السلام	نقی	۵ رجب المرجب ۲۱۲ھ سہ شنبہ ۱۱ نومبر ۸۲۹ء	۳ رجب المرجب ۲۵۲ھ یکشنبہ یکم جولائی ۸۶۸ء	زہر مخز بالند	سامرہ	سانہ خاتون	۴۰ سال
حضرت امام حسن علیہ السلام	عسکری	۱۰ ربیع الآخر ۲۳۲ھ پنجشنبہ ۱ نومبر ۸۴۶ء	۸ ربیع الاول ۳۶۰ھ پنجشنبہ ۲ جنوری ۸۷۴ء	زہر معتد بالند	سامرہ	حدیثہ خاتون	۲۸ سال ۵۶۲
حضرت امام محمد علیہ السلام	مہدی	۱۵ شعبان المعظم ۲۵۵ھ جمعہ یکم اگست ۸۷۹ء	بگم خدا با حیات ہیں نظروں سے پوشیدہ ہیں	بگم خدا زندہ ہیں	مقام غیبت سرادب سامرہ	زرجس خاتون	جائے غیبت سامرہ

04237155253 (مرحوم) علی خواجہ نوروز نوروز انصاری روڈ اسلام پورہ لاہور۔ پیران نوروز علی خواجہ مرحوم بمقام قبر نوروز انصاری روڈ اسلام پورہ لاہور۔ پیران نوروز علی خواجہ مرحوم 0300-5411734

اسلامی تقویم		عامیہ تقویم			استخراج و کوائف سیارگان			
ہجری	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک	
جمادی الاول	جمادی الاول	جمادی الاول	جمادی الاول	جمادی الاول	جمادی الاول	جمادی الاول	جمادی الاول	
۱۲۲۱	۱۲۲۱	۱۲۲۱	۱۲۲۱	۱۲۲۱	۱۲۲۱	۱۲۲۱	۱۲۲۱	
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	
۲۹	۳۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	
۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	
۳۱	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	
۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	
بروایت میلاد مسعود حضرت زینب د	نیک	۵	۰۷:۰۱	رشا	۱۱	۱۹	۱	بدھ
	نیک	۶	۰۹:۰۰	شرطین	۱۲	۲۰	۲	جمعرات
جگ موت ۵۸	نیک	۷	۱۰:۵۹	بطین	۱۳	۲۱	۳	جمعہ
سڑک کے لئے بد	نیک	۸	۱۲:۴۴	شریا	۱۴	۲۲	۴	ہفتہ
	نیک	۹	۱۴:۰۷	دیران	۱۵	۲۳	۵	اتوار
عرس صوفی بابا کونڈ	نیک	۱۰	۱۴:۵۷	حققہ	۱۶	۲۴	۶	پیر
	نیک	۱۱	۱۵:۱۱	ھنچہ	۱۷	۲۵	۷	منگل
	نیک	۱۲	۱۴:۴۶	زراعہ	۱۸	۲۶	۸	بدھ
احتمال شہادت بی بی فاطمہ الزہراء ۱۱ھ	نیک	۱۳	۱۳:۴۳	شرہ	۱۹	۲۷	۹	جمعرات
جزوی چاند گرہن	نیک	۱۴	۱۲:۰۷	طرفہ	۲۰	۲۸	۱۰	جمعہ
میلاد مسعود امام زین العابدین ۳۰ھ	نیک	۱۵	۱۰:۰۲	جسہ	۲۱	۲۹	۱۱	ہفتہ
قبر کے لئے نیک	نیک	۱۶	۰۷:۳۷	زیرا	۲۲	۳۰	۱۲	اتوار
جگ حمل ۳۶	نیک	۱۷	۰۴:۵۷	صرفہ	۲۳	۳۱	۱۳	پیر
	نیک	۱۸	۰۲:۱۰	عوا	۲۴	۲	۱۴	منگل
	نیک	۱۹	۲۳:۲۴	ساک	۲۵	۳	۱۵	بدھ
قبر کے لئے نیک	نیک	۲۰	۲۰:۴۳	غفرہ	۲۶	۴	۱۶	جمعرات
	نیک	۲۱	۱۸:۱۴	زبانہ	۲۷	۵	۱۷	جمعہ
قمر در عقرب شروع 23:20	نیک	۲۲	۱۶:۰۱	کیل	۲۸	۶	۱۸	ہفتہ
	نیک	۲۳	۱۴:۰۶	قلب	۲۹	۷	۱۹	اتوار
	نیک	۲۴	۱۲:۳۲	شولہ	۳۰	۸	۲۰	پیر
قمر در عقرب ختم 03:41	نیک	۲۵	۱۱:۱۹	نخام	۱	۹	۲۱	منگل
	نیک	۲۶	۱۰:۲۸	بلدہ	۲	۱۰	۲۲	بدھ
کلاخ و سڑک کے لئے بد	نیک	۲۷	۱۰:۰۰	زواج	۳	۱۱	۲۳	جمعرات
	نیک	۲۸	۰۹:۵۴	بلع	۴	۱۲	۲۴	جمعہ
	نیک	۲۹	۱۰:۱۰	سعود	۵	۱۳	۲۵	ہفتہ
کلاخ کے لئے بد	نیک	۳۰	۱۰:۴۹	اخصیہ	۶	۱۴	۲۶	اتوار
کلاخ کے لئے بد	نیک	۳۱	۱۱:۵۰	مقدم	۷	۱۵	۲۷	پیر
عرس سلطان باہو گڑھ ہمارا	نیک	۲	۱۳:۱۳	موخر	۸	۱۶	۲۸	منگل
	نیک	۳	۱۴:۵۵	رشا	۹	۱۷	۲۹	بدھ
شہادت بی بی فاطمہ الزہراء ۵ھ	نیک	۴	۱۶:۵۰	شرطین	۱۰	۱۸	۳۰	جمعرات
سڑک کے لئے بد	نیک	۵	۱۸:۵۲	بطین	۱۱	۱۹	۳۱	جمعہ
عرس خادمہ شہناز بی بی	نیک	۶	۲۰:۵۱	شریا	۱۲	۲۰		

13 جب مش مولود کبھی تک تحصیل دل و جگر متفقہ ہوگا۔ ذاکر افغان حسین سہمی 0307 3394931 + ایمرہ انوار اکرام 26 جب الرجب بمقام امام باگلا گامیہ کرسال (پکوال) بانئ مجلس خیریتا بہت حسین گامی 0300-5290020

# کیفیات قمر 2020

بصرف قمر (30-0) درجہ ثور حصص قمر (30-0) درجہ حوت

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
09:00	02 جنوری	16:50	29 جنوری	04 جنوری	07 جنوری	21:15	07 جنوری
23:47	25 فروری	04:44	27 جنوری	03 فروری	05:28	01 فروری	01 فروری
05:58	24 مارچ	11:37	23 فروری	02 مارچ	12:30	28 فروری	28 فروری
12:00	20 اپریل	17:33	21 مارچ	29 مارچ	18:37	26 مارچ	26 مارچ
18:36	17 مئی	06:24	15 مئی	25 اپریل	00:36	23 اپریل	23 اپریل
02:03	14 جون	14:31	11 جون	22 مئی	07:10	20 مئی	20 مئی
10:06	11 جولائی	23:12	08 جولائی	19 جون	14:35	16 جون	16 جون
18:04	07 اگست	07:27	05 اگست	16 جولائی	22:34	13 جولائی	13 جولائی
01:21	04 ستمبر	14:34	01 ستمبر	09 اگست	12:06	28 اگست	28 اگست
07:47	01 اکتوبر	20:34	28 ستمبر	02 ستمبر	13:43	06 ستمبر	06 ستمبر
13:45	28 اکتوبر	02:18	26 اکتوبر	06 اکتوبر	20:12	03 اکتوبر	03 اکتوبر
20:05	24 نومبر	09:06	22 نومبر	02 نومبر	02:19	31 اکتوبر	31 اکتوبر
03:32	22 دسمبر	17:39	19 دسمبر	29 نومبر	08:43	27 نومبر	27 نومبر
				27 دسمبر	15:55	24 دسمبر	24 دسمبر

ہبوط قمر (30-0) درجہ عقرب اوج قمر (30-0) درجہ سنبلہ

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
03:41	20 جنوری	23:20	17 جنوری	13 جنوری	15 جنوری	19:06	13 جنوری
09:07	16 فروری	05:37	14 فروری	10 فروری	12 فروری	04:39	10 فروری
16:09	14 مارچ	14:28	12 مارچ	08 مارچ	10 مارچ	15:47	08 مارچ
01:35	11 اپریل	01:17	09 اپریل	05 اپریل	07 اپریل	02:18	05 اپریل
12:15	08 مئی	12:05	06 مئی	02 مئی	04 مئی	10:35	02 مئی
22:17	04 جون	21:05	02 جون	29 مئی	31 مئی	16:40	29 مئی
06:21	02 جولائی	03:47	30 جون	25 جون	28 جون	22:05	25 جون
12:25	29 جولائی	09:12	27 جولائی	23 جولائی	25 جولائی	04:40	23 جولائی
17:49	25 اگست	15:16	23 اگست	19 اگست	21 اگست	13:20	19 اگست
00:31	22 ستمبر	23:33	19 ستمبر	15 ستمبر	17 ستمبر	23:37	15 ستمبر
09:43	19 اکتوبر	10:05	17 اکتوبر	13 اکتوبر	15 اکتوبر	09:56	13 اکتوبر
20:47	15 نومبر	21:19	13 نومبر	09 نومبر	11 نومبر	18:30	09 نومبر
07:39	13 دسمبر	06:58	11 دسمبر	07 دسمبر	09 دسمبر	00:46	07 دسمبر

فرج قمر (30-0) درجہ جوزا نرغ قمر (30-0) درجہ سرطان

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
13:43	09 جنوری	07:11	07 جنوری	09 جنوری	11 جنوری	13:43	09 جنوری
00:03	06 فروری	16:29	03 فروری	06 فروری	08 فروری	00:03	06 فروری
09:25	04 مارچ	00:21	02 مارچ	04 مارچ	06 مارچ	09:25	04 مارچ
16:43	31 مارچ	06:38	29 مارچ	31 مارچ	02 اپریل	16:43	31 مارچ
22:28	27 اپریل	12:20	25 اپریل	27 اپریل	30 اپریل	22:28	27 اپریل
04:09	25 مئی	18:36	22 مئی	25 مئی	27 مئی	04:09	25 مئی
11:02	21 جون	02:00	19 جون	21 جون	23 جون	11:02	21 جون
19:24	18 جولائی	10:19	16 جولائی	18 جولائی	21 جولائی	19:24	18 جولائی
04:35	15 اگست	18:46	12 اگست	15 اگست	17 اگست	04:35	15 اگست
13:23	11 ستمبر	02:27	09 ستمبر	11 ستمبر	13 ستمبر	13:23	11 ستمبر
20:45	08 اکتوبر	09:03	06 اکتوبر	08 اکتوبر	11 اکتوبر	20:45	08 اکتوبر
02:45	05 نومبر	15:00	02 نومبر	05 نومبر	07 نومبر	02:45	05 نومبر
08:33	02 دسمبر	21:16	29 دسمبر	02 دسمبر	04 دسمبر	08:33	02 دسمبر
15:28	29 دسمبر	04:32	27 دسمبر	29 دسمبر	31 دسمبر	15:28	29 دسمبر

**نوٹ:** مارکیٹ میں قدیم اور مشہور اسلامی کتب تحفہ العلوم، تہذیب الاسلام، نوح البلاغہ، صحیفہ کاملہ، امامیہ ہفت روزہ وغیرہ کے جعلی ایڈیشن شائع اور فروخت کے جا رہے ہیں۔ خریدتے وقت اطمینان کریں۔ شکریہ

# اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

تاریخ	لاہور		کراچی	
	طلوع صبح	زوال اشراق	طلوع اشراق	غروب اشراق
01	05:36	07:03	07:16	05:55
02	05:36	07:03	07:16	05:55
03	05:36	07:03	07:17	05:56
04	05:36	07:03	07:17	05:56
05	05:36	07:04	07:17	05:57
06	05:36	07:04	07:17	05:58
07	05:36	07:04	07:18	05:59
08	05:36	07:04	07:18	05:59
09	05:36	07:04	07:18	06:00
10	05:36	07:04	07:18	06:01
11	05:36	07:03	07:18	06:02
12	05:36	07:03	07:18	06:02
13	05:36	07:03	07:18	06:03
14	05:36	07:03	07:18	06:04
15	05:36	07:03	07:18	06:05
16	05:37	07:03	07:18	06:05
17	05:37	07:02	07:18	06:06
18	05:37	07:02	07:18	06:07
19	05:37	07:02	07:18	06:08
20	05:37	07:02	07:18	06:08
21	05:37	07:02	07:18	06:09
22	05:37	07:01	07:18	06:10
23	05:36	07:01	07:17	06:11
24	05:36	07:01	07:17	06:11
25	05:35	07:00	07:17	06:12
26	05:35	07:00	07:17	06:13
27	05:34	06:59	07:16	06:14
28	05:34	06:59	07:16	06:14
29	05:32	06:58	07:15	06:15
30	05:32	06:58	07:15	06:15
31	05:32	06:57	07:14	06:16

**ہدایات حضرت امام رضاؑ**  
اس ماہ میں ہنرم پیدا ہوتا ہے۔ گرم پانی کے چند گھونٹ پینا مفید ہے۔ دن کے اولین حصہ میں مالش مفید ہے۔ گرم بنزیاں اور پودینا استعمال کریں۔

## لوح حروف مقطعات قرآنی برائے حصول مال و دولت عزت، دفع سحر و بندش وغیرہ

تیار کردہ پروفیسر علامہ حافظ تصدق حسین ماہر علوم روحانی مکان 33-F عقب جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور۔  
رضی مہدی: 0321-4422348 ارضی مہدی: 0321-4491346

تاریخی مجلس عزاداری شہادت حضرت نبی قاسمؑ از ہر اسلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی شب بمقام گلستان زہرا ایف ڈیو۔ مخائب۔ منگل حیدر مہدی 0321 8430095 2020

0344-4514572 تاریخ مجلس عزاداری شہادت حضرت نبی قاسمؑ از ہر اسلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی شب بمقام گلستان زہرا ایف ڈیو۔ مخائب۔ منگل حیدر مہدی 0321 8430095 2020

عامیہ تقویم ماہ فروری 2020 عیسوی		جمادی الثانی   جب المرجب   ۱۴۴۱ ہجری		اسلامی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان		عمومی تقویم	
ایام	عیسوی	ہجری	نیک	نیک	سیارگان	قمر	قمر	شمسی	شمسی
29 فروری	1941	۱۴۴۱	۶	۷	سیارگان	قمر	قمر	1941	2076
29 فروری	1941	۱۴۴۱	۶	۷	سیارگان	قمر	قمر	1941	2076
ہفتہ	1	۶	نیک	۶		22:35	05:28	13	20
اتوار	2	۷	نیک	۷		23:55	06:28	14	21
پیر	3	۸	نیک	۸	مطارد زوجت 16:37		16:29	15	22
منگل	4	۹	نیک	۹		00:40		16	23
بدھ	5	۱۰	نیک	۱۰		00:43		17	24
جمعرات	6	۱۱	نصراکبر	۱۱		00:03	00:03	18	25
جمعہ	7	۱۲	نصراکبر	۱۲		22:39		19	26
ہفتہ	8	۱۳	نصراکبر	۱۳	شہادت ام المومنین والہ حضرت مہاجر	20:34		20	27
اتوار	9	۱۴	نیک	۱۴		17:56	03:45	21	28
پیر	10	۱۵	نیک	۱۵		14:51		22	29
منگل	11	۱۶	نصراکبر	۱۶	قہیر مکان کے لئے نیک	11:30	04:39	23	30
بدھ	12	۱۷	نصراکبر	۱۷	قرض لینے دینے کے لئے بد	08:02		24	31
جمعرات	13	۱۸	نصراکبر	۱۸	شہادت قاضی نور اللہ شوہتری	04:37	04:37	25	2
جمعہ	14	۱۹	نصراکبر	۱۹	میرزا علی شاہ شریف	01:23		26	3
ہفتہ	15	۲۰	نصراکبر	۲۰	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	22:30	05:37	27	4
اتوار	16	۲۱	نصراکبر	۲۱	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	20:02		28	5
پیر	17	۲۲	نصراکبر	۲۲	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	18:06	09:07	29	6
منگل	18	۲۳	نصراکبر	۲۳	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	16:43		30	7
بدھ	19	۲۴	نصراکبر	۲۴	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	15:54	15:37	31	8
جمعرات	20	۲۵	نصراکبر	۲۵	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	15:37		2	9
جمعہ	21	۲۶	نصراکبر	۲۶	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	15:48		3	10
ہفتہ	22	۲۷	نصراکبر	۲۷	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	16:25		4	11
اتوار	23	۲۸	نصراکبر	۲۸	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	17:22		5	12
پیر	24	۲۹	نصراکبر	۲۹	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	18:38		6	13
منگل	25	۳۰	نصراکبر	۳۰	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	20:09		7	14
بدھ	26	۳۱	نصراکبر	۳۱	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	21:53		8	15
جمعرات	27	۱	نصراکبر	۱	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	23:47		9	16
جمعہ	28	۲	نصراکبر	۲	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	01:48		10	17
ہفتہ	29	۳	نصراکبر	۳	میلاد مسعود بی بی فاطمہ الزہراء	03:50		11	18

تقریب تاریخی مجلس عزاداری شہادت حضرت نبی قاسمؑ از ہر اسلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی شب بمقام گلستان زہرا ایف ڈیو۔ مخائب۔ منگل حیدر مہدی 0321 8430095 2020

سالانہ مجلس عزم 4 بجائی الٹائی۔ بمقام: سید انوار الحق مجاہد۔ تیس چاندنی گلی، ڈاک سید زین الدین، لاہور۔ 03009476110

2020-03-15-4188673


# کیفیات قمر 2020

وبال قمر (30-0 درجہ جدی) طرح قمر (30-0 درجہ قوس)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
22 جنوری	10:00	20 جنوری	03:41	24 جنوری	18:20	22 جنوری	10:00
18 فروری	15:37	16 فروری	09:07	21 فروری	00:42	18 فروری	15:37
16 مارچ	21:25	14 مارچ	16:09	19 مارچ	06:16	16 مارچ	21:25
13 اپریل	05:05	11 اپریل	01:35	15 اپریل	12:37	13 اپریل	05:05
10 مئی	14:38	08 مئی	12:15	12 مئی	20:38	10 مئی	14:38
07 جون	00:44	04 جون	22:17	09 جون	05:54	07 جون	00:44
04 جولائی	09:48	02 جولائی	06:21	06 جولائی	15:08	04 جولائی	09:48
29 اگست	16:59	27 اگست	12:25	02 اگست	23:11	29 اگست	16:59
25 ستمبر	22:37	23 ستمبر	17:49	30 ستمبر	05:37	25 ستمبر	22:37
22 اکتوبر	04:16	20 اکتوبر	00:31	26 اکتوبر	11:08	22 اکتوبر	04:16
19 نومبر	11:43	17 نومبر	09:43	23 نومبر	17:17	19 نومبر	11:43
15 دسمبر	08:35	13 دسمبر	07:39	17 دسمبر	01:25	15 دسمبر	08:35
				17 دسمبر	11:27		

## رجال الغیب معلوم کرنے کا آسان طریقہ

نقوش لکھتے وقت یہ دیکھیں کہ رجال الغیب کس طرف ہیں۔ اگر یہ سامنے ہونگے تو کام میں رکاوٹ ہوگی۔ اس لیے جب عمل کے لیے بیٹھیں تو ایسی طرف منہ کریں کہ رجال الغیب آپ کی پشت پر ہوں۔ نیچے نقش میں سمت اور چاند کی تاریخیں درج ہیں۔



رجال الغیب سے عملی استغاثت حاصل کرنے کے لیے عمل سے پہلے درج ذیل دعا پڑھیں

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِجَالَ الْغَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا  
 أَرْوَاحِ الْمَقْدَسَةِ أَعْيُنُنِي وَأَنْظُرُوا إِلَيَّ بِنَظْرَةِ يَارُ قَبَاءُ  
 يَا بُحْتًا يَا بُدَالًا يَا أَوْتَادُ

استغفار کے بدلے نعمتیں حاصل کریں صراطِ الذین انعمت علیہم

س	ر	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
۱۸۰۷	۲۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰

استغفار کے بدلے نعمتیں حاصل کریں

س	ر	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
۱۸۰۷	۲۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

کراچی		لاہور		فروری	
غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	طلوع صبح	تاریخ
06:17	07:14	05:37	12:16	06:56	05:32 01
06:18	07:14	05:38	12:17	06:56	05:31 02
06:19	07:13	05:39	12:17	06:55	05:31 03
06:19	07:13	05:39	12:17	06:54	05:30 04
06:20	07:12	05:40	12:17	06:54	05:30 05
06:20	07:12	05:41	12:17	06:53	05:29 06
06:21	07:11	05:42	12:17	06:52	05:29 07
06:22	07:11	05:43	12:17	06:52	05:28 08
06:23	07:10	05:44	12:17	06:51	05:28 09
06:23	07:10	05:44	12:17	06:50	05:27 10
06:24	07:09	05:45	12:17	06:49	05:27 11
06:24	07:08	05:46	12:17	06:48	05:26 12
06:25	07:07	05:47	12:17	06:47	05:26 13
06:26	07:07	05:48	12:17	06:46	05:25 14
06:27	07:06	05:49	12:17	06:45	05:24 15
06:27	07:05	05:50	12:17	06:44	05:23 16
06:28	07:04	05:51	12:17	06:43	05:22 17
06:28	07:04	05:52	12:17	06:42	05:21 18
06:29	07:03	05:53	12:16	06:41	05:21 19
06:29	07:02	05:54	12:16	06:40	05:20 20
06:30	07:01	05:55	12:16	06:39	05:19 21
06:30	07:01	05:55	12:16	06:38	05:18 22
06:31	07:00	05:56	12:16	06:37	05:17 23
06:31	06:59	05:57	12:16	06:36	05:16 24
06:32	06:58	05:58	12:16	06:35	05:15 25
06:32	06:57	05:58	12:16	06:34	05:14 26
06:33	06:56	05:59	12:16	06:33	05:13 27
06:33	06:55	05:59	12:16	06:32	05:12 28

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام  
 ما فروری میں شذی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔  
 پودینہ، ادروک اور لہسن کا استعمال مفید ہے۔

## مشکلات کے حل کے لیے

ہر مشکل کے حل کے لیے درود کی ایک تسبیح امام عالی مقام حضرت امام حسین کو ہدیہ کریں۔ پھر ایک تسبیح پر السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ پڑھیں کچھ ہی دنوں میں حاجت پوری ہوگی۔ ان شاء اللہ  
 ہر شب جمعہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ بلند کیا جاتا ہے کسی بھی مشکل کے لیے بلا ہدیہ دعا کے لیے رابطہ فرمائیں یا مسجد کریں۔

سیدہ منزہ رضوی 0300-4436508, 0321-4786903

اجنب المرجب شعبان المعظم ۱۴۴۱ ہجری اسلامی

امامیہ تقویم ماہ مارچ 2020 عیسوی

یادداشت	نیک	نیک	نیک
میلاد مسعود امام علی نقی ۲۳ھ	۵	۶	۷
میلاد مسعود شہزادہ علی اصغر	۹	۱۰	۱۱
میلاد مسعود امام محمد نقی ۹۵ھ	۱۰	۱۱	۱۲
میلاد مسعود امام جعفر صادق علیہ السلام	۲۲	۲۳	۲۴
میلاد مسعود امام حسین علیہ السلام	۲	۳	۴
میلاد مسعود حضرت عباس علیہ السلام	۲	۳	۴
میلاد مسعود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام	۲	۳	۴

سناریگان	قصر	قصر	عمومی تقویم	ایام	
فی البروج	فی المنازل	فی البروج	1941	2076	2020
۱۶:۰۷ عطار در وقت	07:27	00:21	12	19	1
08:07 زہر شور	08:43	09:25	13	20	2
	09:25	09:25	14	21	3
	09:25	09:25	15	22	4
	08:40	14:28	16	23	5
	07:08	14:28	17	24	6
	04:53		18	25	7
	02:00	15:47	19	26	8
	22:37		20	27	9
	18:54		21	28	10
	15:03		22	29	11
	11:13		23	30	12
	07:36		24	31	13
	04:21		25		14
	01:38		26	2	15
	23:32		27	3	16
	22:07		28	4	17
	21:25		29	5	18
	21:24		30	6	19
	21:58		30	6	19
	23:01		7	7	20
	00:27		2	8	21
	02:08		3	9	22
	04:00		4	10	23
	05:58		5	11	24
	07:58		6	12	25
	09:58		7	13	26
	11:52		8	14	27
	13:37		9	15	28
	15:05		10	16	29
	16:10		11	17	30
	16:43		12	18	31



## اوقات شرف و سقوط سیارگان

### عطارد

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
بند	31 مارچ	04:54	31 مارچ	23:43
خفیف	29 اپریل	23:43	30 اپریل	11:16
شرف	27 اگست	16:14	28 اگست	05:32
اون	01 اکتوبر	06:14	02 اکتوبر	06:47
اون	14 نومبر	13:35	15 نومبر	08:07

### زہرہ

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
شرف	04 فروری	15:38	05 فروری	11:56
اون	28 جولائی	09:16	29 جولائی	14:56
خفیف	24 اکتوبر	23:15	25 اکتوبر	19:08

### شمس

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
خفیف	10 جنوری	00:43	11 جنوری	00:16
شرف	07 اپریل	13:49	08 اپریل	14:15
اون	11 جولائی	00:57	12 جولائی	02:08
بند	12 اکتوبر	02:04	13 اکتوبر	02:19

### مریخ

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
شرف	26 مارچ	17:07	28 مارچ	03:39
خفیف	25 اپریل	22:47	27 اپریل	09:29

## نماز وحشت قبر

میت کے دفن کی رات اس کیلئے دو (2) رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جسے نماز وحشت قبر کہتے ہیں۔ یہ نماز میت کیلئے قبر میں پہلی رات کے خوف کو دور کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے اور دفن میت کی پہلی ہی رات میں مغرب کی نماز کے بعد سے لیکر طلوع فجر تک پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ میت پر قبر میں پہلی رات سے زیادہ سخت گھڑی اور نہیں ہوتی ہے۔

**طریقہ نماز:** پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ (یعنی سورہ الحمد) کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ قدر

(یعنی انا انزلناہ) پڑھی جائے۔ سلام پڑھنے کے بعد کہو! (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهَا اِلٰی قَبْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) (فلاں بن فلاں کی جگہ پر میت اور اس کے باپ کا نام لے)

بس اللہ تعالیٰ اسی وقت اس میت کی قبر پر 1000 ملائکہ بھیجتے ملتے دیکر بھیجتا ہے اور اسکی قبر کو قیامت تک وسیع کرتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو بیشمار نیکیاں عطا کرتا ہے

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

تاریخ	لاہور		کراچی	
	طلوع فجر	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	غروب آفتاب
1	05:10	06:30	06:00	06:54
2	05:09	06:29	06:01	06:54
3	05:08	06:28	06:01	06:53
4	05:07	06:27	06:02	06:52
5	05:06	06:26	06:02	06:51
6	05:05	06:25	06:03	06:50
7	05:04	06:24	06:04	06:49
8	05:03	06:23	06:05	06:48
9	05:02	06:22	06:06	06:47
10	05:00	06:21	06:07	06:46
11	04:59	06:19	06:07	06:45
12	04:58	06:18	06:08	06:44
13	04:57	06:17	06:09	06:43
14	04:56	06:16	06:10	06:42
15	04:54	06:14	06:10	06:41
16	04:53	06:13	06:11	06:40
17	04:52	06:12	06:12	06:39
18	04:51	06:10	06:13	06:38
19	04:50	06:09	06:14	06:37
20	04:48	06:08	06:14	06:36
21	04:47	06:06	06:15	06:35
22	04:46	06:05	06:16	06:34
23	04:44	06:03	06:16	06:33
24	04:43	06:02	06:17	06:32
25	04:41	06:01	06:18	06:31
26	04:40	06:00	06:18	06:30
27	04:39	05:58	06:18	06:29
28	04:38	05:57	06:19	06:27
29	04:36	05:56	06:20	06:26
30	04:35	05:55	06:20	06:25
31	04:33	05:54	06:21	06:24

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
اس ماہ میں چاند پرند کا گوشت کم استعمال کریں۔ خشک میوہ جات بہن پیاز کا استعمال زیادہ کریں۔ سیر اور ورزش بہت مفید ہے۔

**قدیمی سالانہ مجلس عزائم**  
**ذکر امام موسیٰ کاظم**  
بمقام مرکزی امام بارگاہ ہلاک 4 چیمپوٹنی ساہیوال  
24 رجب  
برطابق چاند  
صبح تاشام

**خاکپائے اہلبیت** سید اختر علی شاہ و پسران  
0300-8485399

مجلس عزائم 10 محرم بروز جمعہ کے بجائے بمقام امام بارگاہ و سادات مہاجرین بھوان روڈ کھوال۔ سیرم بھادران: 0333-5576119

25 محرم الحرام سالانہ مجلس عزائم ساہیوال ضلع جہلم۔ جانی ڈاکر سید کاظم عباس گامگی ● ہر سال منزلہ مطر کا پیرا اتوار چہلم نواب کراچی 9 بجے عظیم کاروان حسین جمنڈ و سیدال تحصیل دوش راد پورٹی۔

## امامیہ تقویم ماہ اپریل 2020 عیسوی

استخراج و کوائف سیارگان

مصابیح الابرار صغیر

عامی تقویم

ایام	2020	2077	1942	شمس	میسوی	بکر	میسوی
اپریل	جست	جست	جست				
بدھ	1	19	13				
جمعرات	2	20	14	اسد	11:26		
جمعہ	3	21	15	زہرہ	14:21		22:10
ہفتہ	4	22	16	صرفہ	12:08		
اتوار	5	23	17	عوا	09:18	سنبلہ	02:18
پیر	6	24	18	سماک	05:57		
منگل	7	25	19	میزان	02:16		
بدھ	8	26	20	اکیل	18:32		
جمعرات	9	27	21	قلب	14:51	عقرب	01:17
جمعہ	10	28	22	شولہ	11:32		
ہفتہ	11	29	23	قوس	08:43	قوس	01:35
اتوار	12	30	24	بلدہ	06:32		
پیر	13	31	25	ذابح	05:05	جدی	05:05
منگل	14		26	بلع	04:24		
بدھ	15	2	27	سعود	04:27	دلو	12:37
جمعرات	16	3	28	اخبیہ	05:10		
جمعہ	17	4	29	مقدم	06:25	حوت	23:29
ہفتہ	18	5	30	موخر	08:05		
اتوار	19	6		رشا	09:59		19:45
پیر	20	7	2	شرطین	12:00	حمل	12:00
منگل	21	8	3	بطین	14:02		
بدھ	22	9	4	شریا	15:59		
جمعرات	23	10	5	دبران	17:47	ثور	00:36
جمعہ	24	11	6	ہققہ	19:24		
ہفتہ	25	12	7	ھنوعہ	20:45	جوزا	12:20
اتوار	26	13	8	زراعہ	21:48		
پیر	27	14	9	نثرہ	22:28	سرطان	22:28
منگل	28	15	10	طرفہ	22:40		00:53
بدھ	29	16	11	جبہ	22:20		
جمعرات	30	17	12	زہرہ	21:26	اسد	06:06

## شعبان المعظم | رمضان المبارک | ۱۴۴۱ ہجری

اسلامی تقویم

ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام

یادداشت	نیک	نفس	شعبان
میلاد مسعود شہزادہ قاسم ابن امام حسنؑ	نیک		۷
سفر کے لئے بد	نیک		۸
	نیک		۹
	نیک		۱۰
میلاد مسعود شہزادہ علی اکبرؑ	نیک		۱۱
	نیک		۱۲
یوم عرفہ	نیک		۱۳
شب براءت (دن گزرنے کے بعد)	نفس اکبر		۱۴
میلاد مسعود حضرت صاحب المصراۃؑ	نیک		۱۵
تغیر کے لئے نیک	نفس		۱۶
قرض لینے دینے کے لئے بد	میانہ		۱۷
وفات حضرت حسین ابنی روحؑ	نیک		۱۸
	نیک		۱۹
تغیر کے لئے نیک	نفس اکبر		۲۰
	نفس		۲۱
	نیک		۲۲
	نیک		۲۳
	نفس		۲۴
	نفس		۲۵
وفات علامہ اقبالؒ	نیک		۲۶
	نیک		۲۷
کلاخ کے لئے بد	نیک		۲۸
کلاخ کے لئے بد	نیک		۲۹
کلاخ کے لئے بد	نیک		۳۰
غزوہ تبوک ۹ھ	نیک	رمضان	
صحیفہ ابراہیم نازل ہوا	نیک		۲
امام رضاؑ کی ولی عہدی کا آغاز	نیک		۳
	نفس		۴
سفر کے لئے بد	نیک		۵
	نفس		۶
نزول تورات	نیک		۷

تعمیر و عمارت کے ایام میں خوشی کی کوئی تقریب مثلاً منگنی، نکاح، شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے

0333-5462077  
 حضرت شہزادہ علی اکبرؑ کی ولادت 10 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 12 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 13 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 14 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 15 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 16 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 17 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 18 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 19 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 20 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 21 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 22 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 23 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 24 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 25 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 26 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 27 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 28 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 29 شعبان امام حسینؑ کی ولادت 30 شعبان امام حسینؑ کی ولادت

## سیارگان درمنازل فلک 2020

### زہرہ

منازل	تواريخ	اوقات	منازل	تواريخ	اوقات
مقدم	06 جنوری	22:41	سرف	25 ستمبر	15:55
مؤخر	17 جنوری	12:31	عوا	06 اکتوبر	17:44
رشا	28 جنوری	04:56	ساک	17 اکتوبر	14:11
شرطین	08 فروری	01:02	ظفرہ	28 اکتوبر	06:41
بلین	19 فروری	02:25	زبانہ	07 نومبر	20:06
تریا	01 مارچ	11:03	کبیل	18 نومبر	07:05
دبران	13 مارچ	06:44	قلب	28 نومبر	16:26
ہقعہ	25 مارچ	20:15	شولہ	09 دسمبر	00:30
ہقعہ	08 اپریل	19:47	نعام	19 دسمبر	07:40
زرانہ	27 اپریل	01:21	بلدہ	29 دسمبر	14:21
نثرہ	07 اگست	20:21	زانح	08 جنوری	20:41
طرفہ	21 اگست	04:25	بلدہ	19 جنوری	02:49
چہ	02 ستمبر	12:57	سعود	29 جنوری	09:00
زیرہ	14 ستمبر	07:13			

### شمس

منازل	تواريخ	اوقات	منازل	تواريخ	اوقات
بلدہ	04 جنوری	00:03	زیرہ	31 جولائی	12:53
سعود	16 جنوری	14:54	سرف	13 اگست	22:57
اضیہ	29 جنوری	06:06	عوا	27 اگست	07:23
مقدم	10 فروری	22:21	ساک	09 ستمبر	14:06
مؤخر	23 فروری	15:58	ظفرہ	22 ستمبر	18:31
رشا	07 مارچ	11:19	زبانہ	05 اکتوبر	20:46
شرطین	20 مارچ	08:49	کبیل	18 اکتوبر	20:35
بلین	02 اپریل	08:27	قلب	31 اکتوبر	18:11
تریا	15 اپریل	10:34	شولہ	13 نومبر	13:43
دبران	28 اپریل	14:50	نعام	26 نومبر	07:24
ہقعہ	11 مئی	21:25	بلدہ	08 دسمبر	23:48
ہقعہ	25 مئی	05:46	زانح	21 دسمبر	15:02
زرانہ	07 جون	15:44	بلدہ	03 جنوری	05:56
نثرہ	21 جون	02:44	سعود	15 جنوری	20:40
طرفہ	04 جولائی	14:17	اضیہ	28 جنوری	11:58
چہ	18 جولائی	01:53			

### مریخ

منازل	تواريخ	اوقات	منازل	تواريخ	اوقات
نعام	09 جنوری	23:10	مؤخر	19 مئی	16:17
بلدہ	28 جنوری	21:48	رشا	07 جون	22:54
زانح	16 فروری	16:33	شرطین	28 جون	06:45
بلدہ	06 مارچ	07:53	بلین	21 جولائی	01:02
سعود	24 مارچ	20:43	تریا	22 اگست	09:01
اضیہ	12 اپریل	08:41	دبران	24 جنوری	15:28
مقدم	30 اپریل	21:51			

امامیہ جنتی (رجسٹرڈ) کاپی رائٹ ایکٹ نمبر 9573 کے تحت رجسٹرڈ ہے

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

تاریخ	لاہور			کراچی		
	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	04:32	05:52	12:07	06:21	06:23	06:49
2	04:30	05:51	12:07	06:22	06:22	06:49
3	04:29	05:49	12:06	06:22	06:21	06:49
4	04:27	05:48	12:06	06:23	06:20	06:49
5	04:26	05:47	12:06	06:24	06:19	06:50
6	04:24	05:46	12:06	06:25	06:18	06:50
7	04:23	05:45	12:05	06:26	06:17	06:51
8	04:21	05:43	12:05	06:26	06:16	06:51
9	04:19	05:42	12:05	06:27	06:15	06:52
10	04:18	05:41	12:05	06:28	06:14	06:52
11	04:16	05:39	12:04	06:28	06:13	06:53
12	04:15	05:38	12:04	06:29	06:13	06:53
13	04:13	05:37	12:04	06:29	06:12	06:54
14	04:12	05:36	12:04	06:30	06:11	06:54
15	04:10	05:35	12:03	06:30	06:10	06:55
16	04:09	05:34	12:03	06:31	06:09	06:55
17	04:08	05:33	12:03	06:32	06:08	06:55
18	04:06	05:32	12:03	06:32	06:07	06:55
19	04:05	05:31	12:02	06:33	06:06	06:56
20	04:04	05:30	12:02	06:34	06:05	06:56
21	04:02	05:29	12:02	06:34	06:04	06:57
22	04:01	05:28	12:02	06:35	06:04	06:57
23	03:59	05:26	12:01	06:36	06:03	06:58
24	03:58	05:25	12:01	06:36	06:02	06:58
25	03:57	05:24	12:01	06:37	06:01	06:59
26	03:55	05:23	12:01	06:38	06:00	06:59
27	03:54	05:22	12:01	06:39	05:59	07:00
28	03:53	05:21	12:00	06:39	05:59	07:00
29	03:52	05:20	12:00	06:40	05:58	07:01
30	03:51	05:19	12:00	06:41	05:57	07:01

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
 اس ماہ میں زیادہ نمکین اشیاء، بڑا گوشت اور بھینس کا دودھ استعمال نہ کریں۔ دن کے اول حصہ میں غسل مفید ہے۔

## سالانہ مجلس عزاء

ہر سال اپریل کا تیسرا اتوار

بمقام: کربلا گمے شاہ لاہور۔

مذنبان: ملک شجر حسین اعوان اینڈ برادرز۔ نیوگارڈن ٹاؤن لاہور۔

0300-4262165, 0333-4210919

سالانہ مجلس عزاء حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان شام 6 بجے مقام مرکزی امام گاہ، قمر آباد، لاہور۔ 14 شعبان اظہار کلمی ● 14 شعبان اظہار کلمی 8 بجے شب مجلس عزاء حضرت خدیجہ ماجدہ ام امام گاہ، شاہراہ گلبرگ، فیصل آباد۔ 0308-4952031

## امامیہ تقویم ماہ منی 2020 عیسوی

استخراج و کوائف سیارگان

عمومی تقویم

ایانہ

31 منی

جمعه

ہفتہ

اتوار

ہر

منگل

بدھ

جمعه

ہفتہ

اتوار

ہر

منگل

بدھ

جمعه

ہفتہ

اتوار

ہر

منگل

بدھ

جمعه

ہفتہ

اتوار

ہر

منگل

بدھ

جمعه

ہفتہ

اتوار

## امضان المبارک | اشوال المکرم | ۲۰۲۰ | ہجری

اسلامی تقویم

نیک

نقص

نقص

نیک

نیک

نقص

نیک

نقص

نیک

نیک

نقص

نقص

نقص

نقص

نقص

نیک

نیک

نقص

نقص

نیک

نیک

نیک

نیک

نیک

نقص

نیک

نقص

نقص

نقص

نیک

# سیارگان در منازل فلک 2020

## عطارد

منازل	تواريخ	اوقات	منازل	تواريخ	اوقات
بلعہ	06 جنوری	12:57	زبرہ	09 اگست	16:57
سعود	14 جنوری	09:58	صرفہ	15 اگست	23:51
اضیہ	22 جنوری	00:35	عوا	22 اگست	11:21
مقدم	29 جنوری	12:02	ساک	29 اگست	10:21
موتخر	06 فروری	13:20	غفرہ	06 ستمبر	00:46
رشا	02 اپریل	14:53	زبانہ	14 ستمبر	10:07
شرطین	11 اپریل	09:48	اکیل	23 ستمبر	22:22
بطین	19 اپریل	01:05	قلب	06 اکتوبر	12:07
شریا	25 اپریل	21:25	شولہ	26 نومبر	12:29
دبران	02 مئی	04:03	لحاکم	04 دسمبر	18:45
مقتدہ	08 مئی	03:16	بلدہ	13 دسمبر	00:06
بصعہ	14 مئی	04:08	ذاریع	21 دسمبر	04:07
ذرائعہ	20 مئی	19:40	بلعہ	29 دسمبر	05:06
نثرہ	28 مئی	23:09	سعود	06 جنوری 2021	02:21
طرفہ	11 جون	07:16	اضیہ	13 جنوری 2021	23:40
جبہ	03 اگست	00:36	مقدم	22 جنوری 2021	23:23

## مشتری

منازل	تواريخ	اوقات	منازل	تواريخ	اوقات
بلعہ	28 جنوری	11:56	اضیہ	25 جنوری 2021	22:42
سعود	13 اپریل	05:45			

## زحل

منازل	تواريخ	اوقات	منازل	تواريخ	اوقات
سعود	07 فروری	01:56	دبران	01 جون	10:31

## پلوٹو

منازل	تواريخ	اوقات	منازل	تواريخ	اوقات
پلوٹو سا سال 22 جون 2021 پر ہے گا			رشا	03 فروری	04:19

## طریقہ نذر، نیاز معصومین

جس چیز پر نذر دینی ہو اسکو قبلہ رخ رکھیں اور خود بھی قبلہ رو رہیں پہلے تین مرتبہ درود پڑھیں پھر ہاتھ اٹھا کر بہ خلوص نیت تین مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور جتنی بھی سورتیں پڑھنا چاہیں اور یہ کہیں جو کچھ تلاوت کیا ہے وہ آئمہ معصومین شہداء کی خدمت بابرکت میں ہدیہ نذر ہو خصوصاً جن امام کی نذر دینی ہے انکا اسم گرامی لے۔

### طریقہ فاتحہ عام مومنین

اول و آخر تین، تین مرتبہ درود، درمیان میں ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ پھر یوں کہیں کہ ان سورتوں کو ثواب آئمہ معصومین کی خدمت میں ہدیہ ہو اور جو ثواب ملے وہ فلاں بن فلاں کی روح کو پہنچے۔ آمین

# اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

منشی		لاہور			کراچی	
بارخ	طلوع صبر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	عروبہ آفتاب	طلوع آفتاب	عروبہ آفتاب
1	03:50	05:18	12:00	06:41	05:56	07:02
2	03:49	05:17	12:00	06:42	05:56	07:02
3	03:48	05:16	12:00	06:43	05:55	07:03
4	03:47	05:15	12:00	06:43	05:54	07:03
5	03:46	05:15	12:00	06:44	05:53	07:04
6	03:45	05:14	12:00	06:45	05:53	07:04
7	03:43	05:13	12:00	06:45	05:52	07:05
8	03:42	05:12	11:59	06:46	05:52	07:05
9	03:41	05:11	11:59	06:47	05:51	07:06
10	03:40	05:10	11:59	06:48	05:51	07:06
11	03:39	05:09	11:59	06:48	05:50	07:07
12	03:38	05:09	11:59	06:49	05:50	07:07
13	03:37	05:08	11:59	06:49	05:49	07:08
14	03:36	05:07	11:59	06:50	05:49	07:08
15	03:35	05:07	11:59	06:51	05:48	07:09
16	03:34	05:06	11:59	06:52	05:48	07:09
17	03:33	05:05	11:59	06:52	05:47	07:10
18	03:32	05:05	11:59	06:53	05:47	07:10
19	03:31	05:04	11:59	06:54	05:46	07:11
20	03:30	05:04	11:59	06:54	05:46	07:11
21	03:29	05:03	11:59	06:55	05:45	07:12
22	03:28	05:03	11:59	06:56	05:45	07:12
23	03:27	05:02	12:00	06:57	05:44	07:13
24	03:27	05:02	12:00	06:57	05:44	07:13
25	03:26	05:01	12:00	06:58	05:44	07:14
26	03:25	05:01	12:00	06:59	05:44	07:14
27	03:25	05:01	12:00	06:59	05:43	07:15
28	03:24	05:00	12:00	07:00	05:43	07:15
29	03:23	05:00	12:00	07:00	05:43	07:16
30	03:22	04:59	12:00	07:01	05:43	07:16
31	03:22	04:59	12:00	07:01	05:42	07:17

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
ماہ مئی میں غذا میں سرکہ کا استعمال کریں۔ تیل کی بات اور عطر سوگنٹا منید ہے۔ ورزش سے اجزا کریں۔

## تعویذ سے بو اسیر و مرگی کا مکمل خاتمہ

فی سبیل اللہ تعویذ منگوانے کے لیے مریض کا نام اور والدہ کا نام واپسی لفاظ میں لکھ کر بھیج دیں۔ انشاء اللہ بہت جلد شفا ہوگی۔

**غلام باقر عابد سپر**  
بستی بہلول سپر اڈا میراں شاہ نزد قائم  
0301-7696585  
بھروانہ تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ۔  
0312-1011512

برسال 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1

عامیہ تقویم ماہ جون 2020 عیسوی		شوال المکرم		ذیقعدہ ۱۴۴۱ ہجری		یادداشت	
عمومی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان		اسلامی تقویم		یادداشت	
ایام	یسوی	شمس	قمر	نیک	نیک	نیک	نیک
30 جون	2020	1942	2077	۱۴۴۱	۱۴۴۱	۱۴۴۱	۱۴۴۱
جنت	جوزا	فی البروج	فی المنازل	شوال	نص	نص	نص
بیر	1	13	18	۸	نیک	۲۴	۱۳
منگل	2	14	19	۹	نیک	۲۵	۱۴
بدھ	3	15	20	۱۰	نیک	۲۶	۱۵
جمعرات	4	16	21	۱۱	نیک	۲۷	۱۶
جمعہ	5	17	22	۱۲	نیک	۲۸	۱۷
ہفتہ	6	18	23	۱۳	نص	۲۹	۱۸
اتوار	7	19	24	۱۴	نیک	۳۰	۱۹
بیر	8	20	25	۱۵	نص	۳۱	۲۰
منگل	9	21	26	۱۶	نص	۱	۲۱
بدھ	10	22	27	۱۷	نص	۲	۲۲
جمعرات	11	23	28	۱۸	نیک	۳	۲۳
جمعہ	12	24	29	۱۹	نیک	۴	۲۴
ہفتہ	13	25	30	۲۰	نص	۵	۲۵
اتوار	14	26	31	۲۱	نص	۶	۲۶
بیر	15	27	1	۲۲	نیک	۷	۲۷
منگل	16	28	2	۲۳	نیک	۸	۲۸
بدھ	17	29	3	۲۴	نص	۹	۲۹
جمعرات	18	30	4	۲۵	نص	۱۰	۳۰
جمعہ	19	31	5	۲۶	نیک	۱۱	۱
ہفتہ	20	1	6	۲۷	نیک	۱۲	۲
اتوار	21	2	7	۲۸	نیک	۱۳	۳
بیر	22	3	8	۲۹	نص	۱۴	۴
منگل	23	4	9	۳۰	نص	۱۵	۵
بدھ	24	5	10	۳۱	نیک	۱۶	۶
جمعرات	25	6	11	۱	نص	۱۷	۷
جمعہ	26	7	12	۲	نیک	۱۸	۸
ہفتہ	27	8	13	۳	نص	۱۹	۹
اتوار	28	9	14	۴	نیک	۲۰	۱۰
بیر	29	10	15	۵	نص	۲۱	۱۱
منگل	30	11	16	۶	نص	۲۲	۱۲

ہر قمری ماہ میں ۲۵، ۲۳، ۲۱، ۱۶، ۱۳، ۵، ۳ تاریخیں شمس ہوتی ہیں۔ البتہ ان ایام میں سے کسی تاریخ میں معصوم کا میلاد مسعود یا اسلامی عید ہو تو نحوست زائل ہو جاتی ہے۔

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

لاہور		کراچی	
تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	03:21	04:59	12:01
2	03:21	04:59	12:01
3	03:20	04:58	12:01
4	03:20	04:58	12:01
5	03:20	04:58	12:01
6	03:20	04:57	12:01
7	03:20	04:57	12:02
8	03:20	04:57	12:02
9	03:19	04:57	12:02
10	03:19	04:57	12:02
11	03:19	04:57	12:02
12	03:19	04:57	12:03
13	03:19	04:57	12:03
14	03:19	04:57	12:03
15	03:19	04:57	12:03
16	03:19	04:57	12:03
17	03:19	04:58	12:03
18	03:19	04:58	12:04
19	03:19	04:58	12:04
20	03:19	04:58	12:04
21	03:19	04:58	12:04
22	03:19	04:58	12:05
23	03:19	04:59	12:05
24	03:19	04:59	12:05
25	03:20	04:59	12:05
26	03:20	04:59	12:06
27	03:20	05:00	12:06
28	03:20	05:00	12:06
29	03:21	05:00	12:06
30	03:21	05:00	12:06

## حالت شرف اوج حضيض و ہیبوط سیارگان برائے سال 2020

شمس			
حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام
حضيض (مفرط 30 درجہ برین جہی)			
وہمال (مفرط 30 درجہ برین دلو)	20 جنوری	19:55	20 جنوری
نہروف (مفرط 30 درجہ برین حمل)	20 مارچ	08:49	19 فروری
طلوع (مفرط 30 درجہ برین جوزا)	19 اپریل	17:45	20 مئی
اوج (مفرط 30 درجہ برین سرطان)	21 جون	02:44	22 جولائی
نہوف (مفرط 30 درجہ برین اسد)	22 جولائی	13:37	22 اگست
ہیبوط (مفرط 30 درجہ برین میزان)	22 ستمبر	18:31	23 اکتوبر
فروج (مفرط 30 درجہ برین قوس)	22 نومبر	01:40	21 دسمبر

عطارد			
حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام
ہیبوط (مفرط 30 درجہ برین حوت)	03 فروری	16:37	11 اپریل
فروج (مفرط 30 درجہ برین حمل)	11 اپریل	09:48	28 اپریل
حضيض (مفرط 30 درجہ برین ثور)	28 اپریل	00:53	12 مئی
نہوف (مفرط 30 درجہ برین جوزا)	12 مئی	02:58	28 مئی
طلوع (مفرط 30 درجہ برین سنبلہ)	20 اگست	06:30	06 ستمبر
اوج (مفرط 30 درجہ برین میزان)	06 ستمبر	00:46	27 ستمبر
نہوف (مفرط 30 درجہ برین عقرب)	27 ستمبر	12:41	02 دسمبر
وہمال (مفرط 30 درجہ برین قوس)	02 دسمبر	00:51	21 دسمبر

زہرہ			
حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام
نہروف (مفرط 30 درجہ برین حوت)	13 جنوری	23:39	08 فروری
وہمال (مفرط 30 درجہ برین حمل)	08 فروری	01:02	05 مارچ
نہوف (مفرط 30 درجہ برین ثور)	05 مارچ	08:07	03 اپریل
اوج (مفرط 30 درجہ برین جوزا)	03 اپریل	22:10	07 اگست
فروج (مفرط 30 درجہ برین اسد)	06 ستمبر	12:21	03 اکتوبر
ہیبوط (مفرط 30 درجہ برین سنبلہ)	03 اکتوبر	01:48	28 اکتوبر
نہوف (مفرط 30 درجہ برین میزان)	28 اکتوبر	06:41	21 نومبر
وہمال (مفرط 30 درجہ برین عقرب)	21 نومبر	18:22	15 دسمبر
حضيض (مفرط 30 درجہ برین قوس)	15 دسمبر	21:21	08 جنوری

مریخ			
حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام
نہروف (مفرط 30 درجہ برین جہی)	16 فروری	16:33	31 مارچ
حضيض (مفرط 30 درجہ برین دلو)	31 مارچ	00:43	13 مئی
طلوع (مفرط 30 درجہ برین حوت)	13 مئی	09:17	28 جون
نہوف (مفرط 30 درجہ برین حمل)	28 جون	06:45	07 جنوری

زحل			
حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام
نہوف (مفرط 30 درجہ برین دلو)	22 مارچ	08:58	07 مارچ

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
 اس ماہ میں زیادہ محنت سے گریز کریں، چربی، گوشت، مسور کی دال سے پرہیز کریں۔ سبزیاں، تازہ پھل، میوے، پھلی، مرغابی کھائیں۔

**تعوذ برائے غلوب**  
 روح ذیل کلمات مع بسم اللہ لکھ کر گلے میں ڈالیں تو نظر بد کا اثر دور ہو جائے گا۔  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ وَالتَّامَّةِ اَنْتَ اِلٰهِيْ الْحَقُّ اِنِّیْ كُنْتُ مِنْ شَرِّ النَّسَاْمَةِ وَالتَّامَّةِ وَتَمَّ عَیْنِیْ لَآ اَمَّةَ وَتَمَّ مِنْ شَرِّیْ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مروی ہے کہ نظر بد کے لیے 3 مرتبہ کہے  
 مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

17 ستمبر کی مجلس عز و اشہد ذوالجناح بمقام کمال دیال تحصیل کراچی شریک شائع راولپنڈی۔ بابی ممتاز حسین مرحوم + سلاطین میونسپل ہسپتال کراچی کالونی عز و اشہد ذوالجناح 0323 9997214

امامیہ تقویم ماہ جولائی 2020 عیسوی		ذیقعدہ		ذی الحجہ		2020	
عمومی تقویم		اسرافاج و کوائف سیارگان		اسلامی تقویم		ہجری	
ایام	2020	2077	1942	قمر	قمر	سیارگان	فی البروج
31	جولائی	ہاڑ	سرطان	فی البروج	فی المنازل	فی البروج	فی البروج
بدھ	1	17	11	شولہ	15:51		
جمعرات	2	18	12	تیس	06:21	04:37	جلد بھری
جمعہ	3	19	13	بلدہ	11:35		
ہفتہ	4	20	14	جدی	09:48	09:48	جہد
اتوار	5	21	15	بلغ	08:22		
پير	6	22	16	دلو	15:08	15:08	سعود
منگل	7	23	17	اضفیعہ	06:51		
بدھ	8	24	18	حوت	23:12	06:53	مقدم
جمعرات	9	25	19	موخر	07:28		
جمعہ	10	26	20	رشا	08:34		
ہفتہ	11	27	21	شرطین	10:06	10:06	حمل
اتوار	12	28	22	بطین	11:56		
پير	13	29	23	ثور	22:34	13:55	شیرا
منگل	14	30	24	دبران	15:49		
بدھ	15	31	25	ھقعدہ	17:27		
جمعرات	16	1	26	جوزا	10:19	18:40	ھمدہ
جمعہ	17	2	27	ذراع	19:20		
ہفتہ	18	3	28	نثرہ	19:24	19:24	سرطان
اتوار	19	4	29	طرفہ	18:52		
پير	20	5	30	جبہ	17:45		
منگل	21	6	31	زہرہ	16:09	01:16	اسد
بدھ	22	7	1	صرفہ	14:09	13:37	شہر اسد
جمعرات	23	8	2	عوا	11:53	04:40	سنبلہ
جمعہ	24	9	3	سماک	09:25		
ہفتہ	25	10	4	غفرہ	06:54	06:54	میزان
اتوار	26	11	5	زبانہ	04:23		
پير	27	12	6	کبک	01:58	09:12	عقرب
منگل	28	13	7	شولہ	23:43		
بدھ	29	14	8	تیس	12:25	12:25	قوس
جمعرات	30	15	9	بلدہ	18:16		
جمعہ	31	16	10	جہد	16:58	16:58	جدی

ذیقعدہ	ذی الحجہ	ہجری	عیسوی
9	نیکا	11	میلاد مسعود امام علی رضا
10	نصر اکبر	12	میلاد مسعود امام علی رضا
11	نیکا	13	میلاد مسعود امام علی رضا
12	نیکا	14	میلاد مسعود امام علی رضا
13	نخس	15	میلاد مسعود امام علی رضا
14	نیکا	16	میلاد مسعود امام علی رضا
15	نیکا	17	میلاد مسعود امام علی رضا
16	نخس	18	میلاد مسعود امام علی رضا
17	نیکا	19	میلاد مسعود امام علی رضا
18	نخس	20	میلاد مسعود امام علی رضا
19	نیکا	21	میلاد مسعود امام علی رضا
20	نخس	22	میلاد مسعود امام علی رضا
21	نیکا	23	میلاد مسعود امام علی رضا
22	نخس	24	میلاد مسعود امام علی رضا
23	نخس	25	میلاد مسعود امام علی رضا
24	نیکا	26	میلاد مسعود امام علی رضا
25	نیکا	27	میلاد مسعود امام علی رضا
26	نخس	28	میلاد مسعود امام علی رضا
27	نیکا	29	میلاد مسعود امام علی رضا
28	نخس	30	میلاد مسعود امام علی رضا
29	نیکا	31	میلاد مسعود امام علی رضا
30	نخس	1	میلاد مسعود امام علی رضا
31	نیکا	2	میلاد مسعود امام علی رضا



### حالت شرف اوج حضيض و هبوط سیارگان برائے سال 2020

#### مشتری

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
هبوط (مغرب 30 درجہ جہد)	02 دسمبر	23:20	19 دسمبر	18:07

#### راہو کیست

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
طلوع (مغرب 30 درجہ جہد)	05 مئی	10:48	18 جنوری	23:50

#### بلوچ

#### یورانس

یورانس سالہا میں ٹورس میں گردش کرے گا | بلوچ سالہا میں جدی میں گردش کرے گا

#### نیپچون

نیپچون سالہا میں حوت میں گردش کرے گا

### رجعت و استقامت سیارگان 2020

سیارگان	کیفیات	تواریخ	اوقات	درجات و دقائق
یورانس	مستقیم	11 جنوری	06:49	02 درجہ 39 منٹ برج ثور
عطارد	راجع	17 فروری	05:54	12 درجہ 53 منٹ برج حوت
عطارد	مستقیم	10 مارچ	08:49	28 درجہ 13 منٹ برج دلو
پلوٹو	راجع	25 اپریل	23:54	25 درجہ 00 منٹ برج جدی
زحل	راجع	11 مئی	09:09	01 درجہ 57 منٹ برج دلو
زہرہ	راجع	13 مئی	11:46	21 درجہ 50 منٹ برج جوزا
مشتری	راجع	14 مئی	19:32	27 درجہ 14 منٹ برج جدی
عطارد	راجع	18 جون	09:58	14 درجہ 46 منٹ برج سرطان
نیپچون	راجع	23 جون	09:33	20 درجہ 58 منٹ برج حوت
زہرہ	مستقیم	25 جون	11:48	05 درجہ 20 منٹ برج جوزا
عطارد	مستقیم	12 جولائی	13:25	05 درجہ 30 منٹ برج سرطان
یورانس	راجع	15 اگست	19:27	10 درجہ 42 منٹ برج ثور
مرخ	راجع	10 ستمبر	03:22	28 درجہ 09 منٹ برج حمل
مشتری	مستقیم	13 ستمبر	05:42	17 درجہ 24 منٹ برج جدی
زحل	مستقیم	29 ستمبر	10:12	25 درجہ 20 منٹ برج جدی
پلوٹو	مستقیم	04 اکتوبر	18:33	22 درجہ 29 منٹ برج جدی
عطارد	راجع	14 اکتوبر	06:05	11 درجہ 40 منٹ برج عقرب
عطارد	مستقیم	03 نومبر	22:50	25 درجہ 54 منٹ برج میزان
مرخ	مستقیم	14 نومبر	05:35	15 درجہ 14 منٹ برج حمل
نیپچون	مستقیم	29 نومبر	05:37	18 درجہ 10 منٹ برج حوت

والدین کے لیے  
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا  
رحمت کی دعا

### اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

تاریخ	لاہور		کراچی	
	طلوع فجر	طلوع اذان	عروب اذان	طلوع اذان
1	03:22	05:01	07:11	05:46
2	03:23	05:01	07:11	05:46
3	03:23	05:02	07:11	05:46
4	03:24	05:02	07:11	05:46
5	03:24	05:03	07:11	05:47
6	03:25	05:03	07:11	05:47
7	03:26	05:04	07:11	05:48
8	03:27	05:04	07:11	05:48
9	03:27	05:05	07:10	05:49
10	03:28	05:05	07:10	05:49
11	03:28	05:06	07:10	05:49
12	03:29	05:06	07:10	05:49
13	03:29	05:07	07:10	05:50
14	03:30	05:07	07:09	05:50
15	03:31	05:08	07:09	05:51
16	03:32	05:09	07:09	05:51
17	03:33	05:09	07:09	05:52
18	03:34	05:10	07:08	05:52
19	03:35	05:10	07:08	05:53
20	03:35	05:11	07:08	05:53
21	03:36	05:11	07:07	05:54
22	03:37	05:12	07:06	05:54
23	03:37	05:12	07:06	05:55
24	03:38	05:13	07:05	05:55
25	03:39	05:13	07:05	05:56
26	03:40	05:14	07:04	05:56
27	03:41	05:15	07:03	05:57
28	03:42	05:16	07:02	05:57
29	03:43	05:17	07:02	05:58
30	03:44	05:17	07:01	05:58
31	03:45	05:18	07:00	05:59

ہدایات حضرت  
امام رضا علیہ السلام  
نہار منہ تھوڑا تھوڑا کر کے شہنشاہ پانی پینا، لطیف اور  
زود چشم غذا نہیں کھانا اور پھولوں کا سونگھنا مفید ہے۔

### مجلس شب عاشور و اذان علی اکبر

مخصوص انداز میں اذان علی اکبر علیہ السلام پڑھی جائے گی  
★ اذان کے وقت شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی اور زنجیروں کا ماتم ہوگا۔

0301  
دعا گو: سید مقبول حسین نقوی 8404890

مالدیٹس 11 مارچ 2020ء بمقام: عدالت صلح مجسم۔ پانی پور مدثر شاہ

مالدیٹس 18 مارچ 2020ء بمقام: چک بندہ صلح مجسم۔ پانی پور مدثر شاہ

امامیہ تقویم ماہ اگست 2020 عیسوی

ذی الحج   محرم الحرام ۱۴۴۲ ہجری				اساتیراج و کوانف سیرگان			عمومی تقویم		
تاریخ	نیک	نقص	تاریخ	قمر	قمر	شمس	شمس	شمس	
یادداشت	تاریخ	نیک	تاریخ	فی البروج	فی المنزل	فی البروج	1942	2077	2020
عید الاضحیٰ (تعطیل)	۱۱	نیک		15:59 بلع			11	17	1
شہادت محمد و اہل بیت فرزندان امیر مسلم	۱۲	نیک		15:19 سعود	23:11 دلونہ		12	18	2
	۱۳	نقص		15:02 اخیہ			13	19	3
	۱۴	نیک		15:09 مقدم			14	20	4
	۱۵	نیک		15:41 موخر	07:27 حوت		15	21	5
قیبر مکان کے لئے نیک	۱۶	نقص		16:40 رشا			16	22	6
قرض لینے دینے کے لئے بد	۱۷	میانہ		18:04 شریطین	18:04 حمل		17	23	7
عید غدیر - اعلان ولادت مولانا علی	۱۸	نیک		19:49 بطین			18	24	8
شب رخصتی ہی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا	۱۹	نیک		21:47 شریا			19	25	9
قیبر مکان کے لئے نیک	۲۰	نقص		23:49 دبران	06:28 ثور		20	26	10
	۲۱	نقص					21	27	11
	۲۲	نیک		01:41 ہقوعہ	18:46 جوزا		22	28	12
	۲۳	نیک		03:13 ہنوعہ			23	29	13
عید مبارک	۲۴	نیک		04:14 ذراعہ			24	30	14
زول سورۃ الملئی (سورۃ دہر)	۲۵	نقص		04:35 نشرہ	04:35 سرطان		25	31	15
کحاج و سفر کے لئے بد	۲۶	نیک		04:14 طرفہ			26	31	16
	۲۷	نیک		03:09 جنبہ	10:38 اسد		27	2	17
	۲۸	نقص		01:25 زبرہ	23:07 میزان		28	3	18
کحاج کے لئے بد	۲۹	نیک		20:23 عوا	13:20 سنبلہ		29	4	19
کحاج کے لئے بد	۳۰	نیک		17:23 سہاک			30	5	20
محرم	۱	نقص		14:16 غفرہ	14:16 میزان		31	6	21
حضرت امام حسین کی کریلا آمد	۲	نقص		11:09 زبانبہ			7	7	22
سز کے لئے بد	۳	نقص		08:12 اکیل	15:16 عقرب		2	8	23
	۴	نقص		05:30 قلب			3	9	24
	۵	نقص		03:09 شولہ	17:49 قوس		4	10	25
تقریباً 30 ہزار بڑی فوج کربلا میں آئی	۶	نقص		01:13 ہنگامہ			5	11	26
نافلہ حسین پر پانی بندھا	۷	نقص		22:37 ذابح	22:37 جدی		6	12	27
سز کے لئے بد	۸	نقص		21:56 بلع			7	13	28
شب عاشور	۹	نقص		21:38 سعود			8	14	29
شہادت امام حسین - یوم عاشور	۱۰	نقص		21:42 اخیہ	05:37 دلونہ		9	15	30
روانگی اسیران کربلا بطرف کوفہ	۱۱	نقص		22:06 مقدم			10	16	31

۳۱ اگست ۲۰۲۰ ... 37159601 فون نمبر ...

# شمسی و قمری گرہن 2020

غلام رضا عسکری اعوان 0333-7014915

## جزوی قمری گرہن

سال کا پہلا جزوی قمری گرہن 10 جنوری 2020 بروز جمعہ المبارک اور ہفتہ کی درمیانی رات کو ہوگا۔ برج سرطان کے 20.00.13 درجہ پر یہ گرہن لگے گا۔ گرہن کا آغاز 07:44PM:10 رات کو ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج رات 02:10.02AM پر ہوگا اور گرہن کا اختتام 11 جنوری نصف رات 02:12:19AM پر ہوگا۔ آسٹریلیا، بلجیم، جاپان، انڈیا، مصر، پرتگال، انڈونیشیا، ہنگری، اٹلی، ترکی، اسپین، یونان، برطانیہ، فرانس، چین، ساؤتھ افریقہ، روس اور روس کی مسلم ریاستوں ترکمانستان، آذربائیجان، ازبکستان، بنگلہ دیش سمیت پاکستان کے علاقوں میں دیکھا جاسکے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 4 گھنٹے 5 منٹ ہوگا۔

## جزوی قمری گرہن

سال کا دوسرا جزوی قمری گرہن 5 اور 6 جون کی درمیانی شب کو ہوگا۔ برج قوس کے 15.34.02 درجہ پر یہ گرہن لگے گا۔ گرہن کا آغاز 05.06.2020 کی رات 10:45:51PM پر ہوگا۔ گرہن کا نقطہ عروج 6 جون نصف شب 12:24:55AM پر ہوگا۔ گرہن کا اختتام 6 جون نصف شب کے بعد 02:45:03AM پر ہوگا۔ پاکستان کے اکثر علاقوں میں یہ گرہن دیکھا جاسکے گا۔ ساؤتھ افریقہ، برما، نیواگرا، انڈیا، تھائی لینڈ، مصر، ہنگری، آسٹریلیا، انڈونیشیا، روس، ترکی، یونان، اٹلی، جاپان، چین، اسپین، فرانس، بلجیم اور برطانیہ میں اکثر مقامات پر دیکھا جاسکے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے کا ہوگا۔

## جزوی شمسی گرہن

سال کا پہلا جزوی شمسی گرہن 21 جون 2020 کو ہوگا۔ یہ گرہن برج سرطان کے 00.21.23 پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز 08:45:51AM کو صبح 09:45:47AM پر نظر آنا شروع ہوگا۔ گرہن کا انتہائی نقطہ عروج 11:40:04AM تک ہوگا۔ گرہن کا نظر آنا 01:32:17PM تک رہے گا جبکہ گرہن کا اختتام 02:34:00PM تک ہوگا۔ گرہن کا کچھ حصہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں دیکھا جاسکے گا جبکہ سب سے زیادہ گرہن کا حصہ حیدرآباد، سکھر سے لے کر جریم، یارخان، صادق آباد میں دیکھا جاسکے گا۔

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

کراچی		لاہور		اگست		
عروب آفتاب	طلوع آفتاب	عروب آفتاب	زوال آفتاب	طلوع فجر	طلوع صبح	تاریخ
07:17	05:59	07:00	12:09	05:19	03:46	1
07:17	05:59	06:59	12:09	05:19	03:47	2
07:16	06:00	06:58	12:09	05:20	03:47	3
07:15	06:00	06:57	12:09	05:21	03:48	4
07:14	06:01	06:56	12:09	05:22	03:49	5
07:14	06:01	06:55	12:09	05:22	03:50	6
07:13	06:02	06:54	12:09	05:23	03:51	7
07:13	06:02	06:53	12:09	05:24	03:52	8
07:12	06:03	06:52	12:08	05:25	03:53	9
07:11	06:03	06:51	12:08	05:25	03:54	10
07:10	06:04	06:50	12:08	05:26	03:55	11
07:09	06:04	06:49	12:08	05:26	03:56	12
07:09	06:05	06:48	12:08	05:27	03:57	13
07:08	06:05	06:47	12:08	05:28	03:58	14
07:07	06:05	06:47	12:07	05:28	03:58	15
07:06	06:05	06:46	12:07	05:29	03:59	16
07:05	06:06	06:45	12:07	05:29	04:00	17
07:05	06:06	06:44	12:07	05:30	04:01	18
07:04	06:07	06:43	12:07	05:30	04:02	19
07:03	06:07	06:42	12:06	05:31	04:03	20
07:02	06:08	06:41	12:06	05:31	04:04	21
07:01	06:08	06:40	12:06	05:32	04:05	22
07:00	06:09	06:38	12:06	05:33	04:06	23
06:59	06:09	06:37	12:05	05:33	04:07	24
06:58	06:10	06:36	12:05	05:34	04:08	25
06:57	06:10	06:35	12:05	05:34	04:09	26
06:56	06:10	06:34	12:05	05:35	04:10	27
06:55	06:10	06:33	12:04	05:35	04:10	28
06:54	06:11	06:32	12:04	05:36	04:11	29
06:53	06:11	06:30	12:04	05:37	04:12	30
06:52	06:12	06:29	12:03	05:37	04:13	31

ہدایات حضرت  
امام رضا علیہ السلام  
اس ماہ میں جناب لینا مفید ہے۔ کثرت سے گوشت یا  
حلوہ کھانا، بلا عذر غسل کرنا سخت کیلئے مضر ہے۔

شب بیداری ماتم ہی ماتم  
چوتھی سالانہ بمقام مندرائ والہ تحصیل ڈسکہ سیالکوٹ  
21 محرم الحرام بعد نماز مغربین تا مرضی امام زمانہؑ  
حاجی اشفاق جعفری زوار اشتیاق جعفری (جنف اشرف عراق)  
بیسراں ماہر محمد اشرف منہاس مرحوم (کویت والہ)  
0304-4158919

12 محرم بوقت 5 بجے شام نہ سو ماتم شہداء کربلا بمقام میرک سیال دربار سید چراغ پاک۔ منجانب: دختران سیدنا در سلطان، تحصیل شوروکٹ ضلع جھنگ

9 روز بروز اسلام آباد، پاکستان کے لیے: 0301-4268871 منشی محمد رفیق اعجازی، اسلام آباد، پاکستان۔ آٹا، چاول، مٹر، ماش، جوار، گندم، کھجور، کدو، پھل، سبزی، دوا، کھانا، کپڑا، کتب، دستاویز، وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے: 0301-4268871 منشی محمد رفیق اعجازی، اسلام آباد، پاکستان۔

قدیمی سالانہ مجلس عزاداریت فرخ امام مظلوم 15 محرم 7 بجے شب بمقام قمر بنی ہاشم زلدوری بلڈنگ اسلام پورہ لاہور فریڈل شاہ 0334-4273800 2020

**امامیہ تقویم ماہ ستمبر 2020 عیسوی**

عمومی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان	
عیسوی	قمری	شمسی	مطالع اہل ہر مفسر
2020	2077	1942	
ستمبر	سیدون	شعبان	
30			
منگل	1	17	11
بدھ	2	18	12
جمعرات	3	19	13
جمعہ	4	20	14
ہفتہ	5	21	15
اتوار	6	22	16
پیر	7	23	17
منگل	8	24	18
بدھ	9	25	19
جمعرات	10	26	20
جمعہ	11	27	21
ہفتہ	12	28	22
اتوار	13	29	23
پیر	14	30	24
منگل	15	1	25
بدھ	16	2	26
جمعرات	17	3	27
جمعہ	18	4	28
ہفتہ	19	5	29
اتوار	20	6	30
پیر	21	7	31
منگل	22	8	
بدھ	23	9	2
جمعرات	24	10	3
جمعہ	25	11	4
ہفتہ	26	12	5
اتوار	27	13	6
پیر	28	14	7
منگل	29	15	8
بدھ	30	16	9

**محرم الحرام | صفر المظفر ۱۴۴۲ | اہل حرم (بیکر سرور)**

اسلامی تقویم		اسلامی معلومات	
ہجری	شمسی	نیک	نیک
۱۴۴۲	۱۴۴۲	ولادت و شجاعت معصومین منعم السلام	یادداشت
محرم	نص	اسلامی معلومات	یادداشت
۱۲	نیک	سوئم شہداء کربلا	
۱۳	نص		
۱۴	نص		
۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	
۱۶	نص	تحویل قبلہ جناب کعبہ	
۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد۔ اصحاب کربلا پر نزول عذاب	
۱۸	نیک		
۱۹	نیک		
۲۰	میانہ	وفات حضرت بلال مؤذن	
۲۱	نص		
۲۲	نص		
۲۳	نیک		
۲۴	نص		
۲۵	نص	شہادت امام زین العابدین ۹۵ھ	وفات جناب نعتیہ ۹۵ھ
۲۶	نیک	کاخ و سز کے لئے بد	
۲۷	نیک	شہادت میثم تمار صاحب رسول، ۶۰ھ	
۲۸	نیک	کاخ کے لئے بد	
۲۹	نیک	کاخ کے لئے بد	
۳۰	نص	داخلہ اہل حرم دربار یزید ملعون	۲۳:۳۳ قمر در عترب شروع
۱	نیک	شہادت حضرت زید شہید	جنگ صفین
۲	نص		۱۳ھ میں پیمانہ اللہ ممان
۳	نیک	سز کے لئے بد	۰۰:۳۱ قمر در عترب ختم
۴	نص		
۵	نص		
۶	نیک		
۷	نیک	میلاد مسعود امام موسی کاظم ۱۲۸ھ	
۸	نیک	سز کے لئے بد	
۹	نیک	شہادت حضرت عمار بن یاسر ۳۷ھ	جنگ نہروان
۱۰	نص		
۱۱	نیک	وفات حضرت اویس قرنی ۳۷ھ	لیڈہ الحمر ۳۷ھ
۱۲	نیک		

امامہ جنتی میں تمام آزمائش و امتحانات کا خاتمہ نیک نیتی سے شایع کے ساتھ ہونے کی امید ہے۔ اگر کسی شخص کو آزمائش کے غیر حقیقی ہونے اور لین دین کا ادارہ دہما دار نصیب ہے

2 صفر المظفر مجلس عزاداریت فرخ امام مظلوم 10 شعبان 10 شہان شہن ولدات شہزادہ علی اکبر برکات علیہ السلام صفر 12 شہان شہن صاحب الزمان جید روز اسلام پورہ لاہور۔

**اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی**

نمبر	لاہور			کراچی		
	طلوع فجر	طلوع اذان	زوال اذان	عروب اذان	طلوع اذان	عروب اذان
1	04:14	05:37	12:03	06:28	06:12	06:51
2	04:15	05:38	12:03	06:27	06:12	06:50
3	04:15	05:39	12:02	06:26	06:13	06:49
4	04:16	05:39	12:02	06:24	06:13	06:48
5	04:17	05:40	12:02	06:23	06:14	06:47
6	04:18	05:41	12:01	06:22	06:14	06:46
7	04:18	05:42	12:01	06:20	06:14	06:45
8	04:19	05:43	12:01	06:19	06:14	06:44
9	04:20	05:43	12:00	06:18	06:15	06:43
10	04:21	05:44	12:00	06:16	06:15	06:42
11	04:22	05:44	12:00	06:15	06:16	06:41
12	04:23	05:45	11:59	06:14	06:16	06:40
13	04:23	05:45	11:59	06:13	06:17	06:39
14	04:24	05:46	11:59	06:11	06:17	06:38
15	04:24	05:46	11:58	06:10	06:17	06:37
16	04:25	05:47	11:58	06:08	06:17	06:35
17	04:26	05:48	11:58	06:07	06:18	06:34
18	04:26	05:49	11:57	06:06	06:18	06:33
19	04:27	05:50	11:57	06:05	06:19	06:32
20	04:28	05:51	11:56	06:04	06:19	06:31
21	04:29	05:51	11:56	06:02	06:19	06:30
22	04:30	05:52	11:56	06:01	06:19	06:29
23	04:30	05:52	11:55	05:59	06:20	06:28
24	04:31	05:53	11:55	05:58	06:20	06:27
25	04:32	05:53	11:55	05:57	06:21	06:26
26	04:32	05:54	11:54	05:55	06:21	06:25
27	04:33	05:54	11:54	05:54	06:22	06:24
28	04:33	05:55	11:54	05:53	06:22	06:23
29	04:34	05:55	11:53	05:51	06:22	06:22
30	04:34	05:56	11:53	05:50	06:22	06:20

جبکہ پاکستان کے دیگر حصوں میں گرہن کا کم حصہ دکھائی دینگا۔ کانگو افریقہ سے گرہن کا آغاز ہوگا جو کہ چین کے سمندری علاقوں میں جا کر ختم ہوگا۔ گرہن پاکستان انڈیا افریقہ ایتھوپیا چین میں زیادہ واضح ہوگا جبکہ افریقہ سوڈان اریٹریا یمن عمان عرب امارات نیپال بھوٹان چین ہانگ کانگ تائیوان میں انتہائی کم جزوی گرہن دکھائی دے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے 49 منٹ ہوگا۔

**جزوی قمری گرہن**

سال کا تیسرا جزوی قمری گرہن 5 جولائی 2020 کو ہوگا۔ یہ گرہن فلکیاتی اعتبار سے برج جدی کے 13.37.47 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز 08:07:23AM پر ہوگا جبکہ انتہائی نقطہ عروج 09:29:51AM پر ہوگا گرہن کا اختتام 10:52:21AM پر ہوگا۔ دن ہونے کی وجہ سے پاکستان اور ایشیاء کے اکثر ممالک میں نظر نہی آئیگا۔ برطانیہ پیرس الجیر برازیل، نیوا گرامیکو چلی امریکہ ویزویلیا کینیڈا پرتگال پیرو کیوبا ساؤتھ افریقہ موراکو اسپین گونسے مالا اور ارجنٹائن میں نظر آئے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 3 گھنٹے 45 منٹ ہوگا۔

**جزوی قمری گرہن**

سال کا چوتھا جزوی قمری گرہن 30 نومبر 2020 کو ہوگا۔ فلکیاتی اعتبار سے یہ گرہن برج جوزا کے 08.38.01 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز دن کے وقت 12:32:22PM پر ہوگا انتہائی نقطہ عروج دوپہر کے 14:42:53PM پر ہوگا جب کہ اختتام گرہن 16:53:22PM سے پہلے کے بعد تک ہوگا دن ہونے کی وجہ سے یہ گرہن پاکستان میں نظر نہی آئیگا۔ جبکہ چلی، فلپائن، ویزویلیا، امریکہ، کینیڈا آسٹریلیا پیرو تائیوان گونسے مالا ہانگ کانگ جنوبی کوریا جاپان آئی لینڈ میکسیکو نیوزی لینڈ پیورٹو ریکو، اور چائنا کیوبا میں نظر آئیگا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے 21 منٹ ہوگا۔

**مکمل شمسی گرہن**

سال کا دوسرا مکمل شمسی گرہن 13 دسمبر 2020 کو ہوگا۔ فلکیاتی اعتبار سے یہ گرہن برج قوس کے 23.08.14 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز 06:33:55PM پر ہوگا۔ جبکہ 07:32:34PM پر گرہن نظر آنا شروع ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج 09:13:28PM پر ہوگا اور اختتام گرہن 1:53:03PM پر ہوگا۔ ٹیوکوا اور ولیریکا چلی کے علاقوں میں مکمل گرہن کا نظارہ کیا جاسکے گا جبکہ پولینیشیا پیرو چلی پیرو گونسے فاک لینڈ انٹارکٹیکا برازیل ساؤتھ جارجیا انگولا نمیبیا ساؤتھ افریقہ اور سینٹ ہیلینا میں گرہن کا 70% سے 90% تک حصہ دیکھا جاسکے گا۔ پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں یہ گرہن نظر نہیں آئیگا۔ گرہن کا کل دورانیہ 6 گھنٹے 20 منٹ ہوگا

**برکاتِ حضرت امام رضاؑ**  
رات کو پانی پینا صحت کے لئے مفید ہے۔ ساگ، پودینہ، اورک سے پرہیز کریں۔ صبح کے وقت پانی پینا اور سیر اور ورزش مفید ہے۔

**تنبیہ برائے حاملہ خواتین**

گرہن کے اوقات میں گھر کے اندر چت لیٹی رہیں۔ چھڑی اور قبچی کا استعمال نہ کریں پیٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں۔ گرہن کے اوقات میں صدقہ اور نماز آیات ضرور ادا کریں۔ صدقہ حسب استطاعت ٹونڈ چاول کسی مستحق کو دیں۔ 1 کلو باجرہ گھر سے باہر پرندوں کو ڈالیں۔  
**خصوصی نوٹ:** تمام گرہن چاہے دنیا کی کسی خطے میں حل شادت کھتے ہیں

29 مئی 2019ء سے 29 مئی 2020ء تک جاری رہنے والی تمام خبریں، تقریریں، اور دیگر مواد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اسے منسوخ نہیں کیا جائے گا۔  
0300-4377967

امامیہ تقویم ماہ اکتوبر 2020 عیسوی		صفر المظفر   ربیع الاول ۱۴۴۲   ہجری		عمومی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان	
ایام	عیسوی	ہجری	اسلامی تقویم	قمر	قمر	قمر	سیارگان
31	2020	۱۲۴۲	صفر	قمر	قمر	قمر	سیارگان
اکتوبر	1942	۱۲۴۲	نیک	قمر	قمر	قمر	سیارگان
میزان	2077	۱۲۴۲	نیک	قمر	قمر	قمر	سیارگان
میزان	2077	۱۲۴۲	نیک	قمر	قمر	قمر	سیارگان
جمرات	10 17 1	۱۳	نیک	۰۷:۴۷	۰۷:۴۷	۰۷:۴۷	شیرین
جمعہ	11 18 2	۱۴	نیک	۰۹:۳۴	۰۹:۳۴	۰۹:۳۴	بطین
ہفتہ	12 19 3	۱۵	نیک	۱۱:۳۱	۱۱:۳۱	۱۱:۳۱	شیرا
اتوار	13 20 4	۱۶	نیک	۱۳:۳۶	۱۳:۳۶	۱۳:۳۶	دبران
پیر	14 21 5	۱۷	نیک	۱۵:۴۲	۱۵:۴۲	۱۵:۴۲	ہقہ
منگل	15 22 6	۱۸	نیک	۱۷:۴۱	۱۷:۴۱	۱۷:۴۱	ہنوعہ
بدھ	16 23 7	۱۹	نیک	۱۹:۲۶	۱۹:۲۶	۱۹:۲۶	زارعہ
جمرات	17 24 8	۲۰	نیک	۲۰:۴۵	۲۰:۴۵	۲۰:۴۵	نثرہ
جمعہ	18 25 9	۲۱	نیک	۲۱:۳۰	۲۱:۳۰	۲۱:۳۰	طرفہ
ہفتہ	19 26 10	۲۲	نیک	۲۱:۳۳	۲۱:۳۳	۲۱:۳۳	جبہ
اتوار	20 27 11	۲۳	نیک	۲۰:۵۰	۲۰:۵۰	۲۰:۵۰	زہرہ
پیر	21 28 12	۲۴	نیک	۱۹:۲۰	۱۹:۲۰	۱۹:۲۰	صرفہ
منگل	22 29 13	۲۵	نیک	۱۷:۰۶	۱۷:۰۶	۱۷:۰۶	عوا
بدھ	23 30 14	۲۶	نیک	۱۴:۱۵	۱۴:۱۵	۱۴:۱۵	سماک
جمرات	24 31 15	۲۷	نیک	۱۰:۵۴	۱۰:۵۴	۱۰:۵۴	غفرہ
جمعہ	25 2 16	۲۸	نیک	۰۷:۱۳	۰۷:۱۳	۰۷:۱۳	زیانہ
ہفتہ	26 3 17	۲۹	نیک	۰۳:۲۲	۰۳:۲۲	۰۳:۲۲	تکب
اتوار	27 4 18	۳۰	نیک	۱۹:۵۶	۱۹:۵۶	۱۹:۵۶	شولہ
پیر	28 5 19	۱	نیک	۱۶:۴۰	۱۶:۴۰	۱۶:۴۰	تعام
منگل	29 6 20	۲	نیک	۱۳:۵۴	۱۳:۵۴	۱۳:۵۴	بلدہ
بدھ	30 7 21	۳	نیک	۱۱:۴۳	۱۱:۴۳	۱۱:۴۳	ذابح
جمرات	31 8 22	۴	نیک	۱۰:۱۳	۱۰:۱۳	۱۰:۱۳	بلع
جمعہ	9 9 23	۵	نیک	۰۹:۲۴	۰۹:۲۴	۰۹:۲۴	سعود
ہفتہ	2 10 24	۶	نیک	۰۹:۱۵	۰۹:۱۵	۰۹:۱۵	اخبیہ
اتوار	3 11 25	۷	نیک	۰۹:۴۲	۰۹:۴۲	۰۹:۴۲	مقدم
پیر	4 12 26	۸	نیک	۱۰:۴۱	۱۰:۴۱	۱۰:۴۱	موخر
منگل	5 13 27	۹	نیک	۱۲:۰۴	۱۲:۰۴	۱۲:۰۴	رشا
بدھ	6 14 28	۱۰	نیک	۱۳:۴۵	۱۳:۴۵	۱۳:۴۵	شرین
جمرات	7 15 29	۱۱	نیک	۱۵:۳۸	۱۵:۳۸	۱۵:۳۸	بطین
جمعہ	8 16 30	۱۲	نیک	۱۷:۳۸	۱۷:۳۸	۱۷:۳۸	شیرا
ہفتہ	9 17 31	۱۳	نیک	۱۹:۴۱	۱۹:۴۱	۱۹:۴۱	دبران

0332-5548788 تاریخ مجلس دشیر تائوت امام رضا 17 صفر 11 بجے شب امام بارگاہ ہفتا سنی اسلام پورہ لاہور۔ اختتام مجلس مفتی سید امام رضا شامل کریں۔ انجمن غلامان غریب لاہور۔

## نماز آیات

چاند سورج گرہن، زلزلہ سرخ سیاہ آندھی اور دیگر حوادث آسمانی کے وقت پڑھنے کی نماز

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

سابقہ	لاہور			کراچی		
	طلوع صبح	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	عروب آفتاب	طلوع آفتاب	عروب آفتاب
1	04:35	05:57	11:53	05:49	06:23	06:19
2	04:36	05:57	11:53	05:48	06:23	06:18
3	04:36	05:58	11:52	05:47	06:24	06:17
4	04:37	05:58	11:52	05:45	06:24	06:16
5	04:38	05:59	11:52	05:44	06:25	06:15
6	04:38	06:00	11:51	05:43	06:25	06:14
7	04:39	06:00	11:51	05:41	06:26	06:13
8	04:40	06:01	11:51	05:40	06:26	06:12
9	04:40	06:02	11:50	05:39	06:27	06:11
10	04:41	06:02	11:50	05:37	06:27	06:10
11	04:42	06:03	11:50	05:36	06:27	06:09
12	04:42	06:03	11:49	05:35	06:27	06:09
13	04:43	06:04	11:49	05:34	06:28	06:08
14	04:44	06:05	11:49	05:33	06:28	06:07
15	04:44	06:05	11:49	05:32	06:29	06:06
16	04:45	06:06	11:49	05:31	06:29	06:05
17	04:45	06:07	11:48	05:29	06:30	06:04
18	04:46	06:08	11:48	05:28	06:30	06:03
19	04:46	06:09	11:48	05:27	06:31	06:02
20	04:47	06:10	11:48	05:26	06:31	06:01
21	04:48	06:11	11:48	05:25	06:32	06:00
22	04:48	06:11	11:47	05:24	06:32	06:00
23	04:49	06:12	11:47	05:23	06:33	05:59
24	04:50	06:13	11:47	05:22	06:33	05:58
25	04:50	06:14	11:47	05:21	06:34	05:57
26	04:51	06:15	11:47	05:20	06:35	05:57
27	04:52	06:15	11:47	05:19	06:36	05:56
28	04:52	06:16	11:47	05:18	06:36	05:55
29	04:53	06:17	11:47	05:17	06:37	05:54
30	04:54	06:18	11:47	05:16	06:37	05:54
31	04:54	06:18	11:47	05:15	06:38	05:53

**طریقہ:** پہلے نیت کرے کہ نماز آیات پڑھتا ہوں (دور رکعت) واجب قرینہ اہل اللہ۔ اس کے بعد تکبیر الاحرام کہے اور سورۃ الحمد اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع کرے۔ پھر کھڑا ہو اور مثل سابق الحمد اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع کرے۔ اسی طرح پانچ رکوع کرنے کے بعد دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت بھی بجالاتے۔ اور ہر دوسرے رکوع سے قبل قنوت پڑھے اور تشہد و سلام پڑھ کر نماز ختم کرے۔ اس طرح اس نماز کی پہلی رکعت میں ۵ رکوع اور ۲ قنوت (دوسرے اور چوتھے رکوع سے قبل) اور دوسری رکعت میں ۵ رکوع اور ۳ قنوت (پہلے، تیسرے اور پانچویں رکوع سے قبل) ہو جائیں گے۔ اس نماز میں کل ۱۰ رکوع اور ۵ قنوت ہوتے ہیں۔ پانچویں اور دسویں رکوع کے بعد (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہے۔ ہر رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے لیکن پانچویں اور دسویں رکوع کے بعد نہیں۔ الحمد اور سورہ کا باواز بلند پڑھنا مستحب ہے۔

## نماز شکرانہ پروردگار

یہ نماز دور رکعت ہے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔

**طریقہ:** پہلی رکعت میں سورۃ الحمد ایک بار، سورہ توحید ایک بار، رکوع و سجود میں چند بار الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْرًا وَ حَمْدًا حَمْدًا دوسری رکعت میں سورۃ الحمد ایک بار، سورہ کافرون ایک بار، رکوع و سجود میں یہ دعا چند بار اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اسْتَجَابَ دُعَائِي وَاَعْطَانِي مَسْئَلَتِي وَقَضَى حَاجَتِي (مسبح، کلمی، مستدرک) **نقصیات:** اس نماز کے پڑھنے سے خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔

سعد و نوحس ایام ہفتہ بنا براہ حدیث معصومین علیہم السلام

ایام	نوحس	نایاباں	سز	سزایا	دوسروں کے لیے
ہفتہ	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک
اتوار	نیک	نیک	نیک	نیک	سازگرنیچن خیر مکان کے لیے نیک
پیر	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک
منگل	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک
بدھ	نیک	نیک	نیک	نیک	بدگرنیچن خیر مکان کے لیے نیک
جمعرات	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک
جمعہ	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
چربی اور مصالحہ دار گوشت اچار پختی سے پرہیز چاہیے۔  
پانی کم پینا چاہیے۔ ورزش مفید ہے۔

مجلس عزلا  
بلسلہ شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام

مقام امام بارگاہ مسافرہ شام اتوکے اعوان بانا پور لاہور  
بانی مجلس ملک محمد یعقوب اعوان  
0300-8849325, 03004508392

امامیہ تقویم ماہ نومبر 2020 عیسوی | ربیع الاول | ربیع الثانی ۱۴۴۲ | ربیع الثانی کا (۱۰) روز

عمومی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان		
ایام	یسوی	ہجری	شمس	قمر
2020	1942	1442	مرکز	شمس
30 نومبر	ترب	نیکی	منازل	فی البروج
اتوار	18	10	21:42	ہق
پہ	19	11	23:37	ہنہ
منگل	20	12	15:00	جوزا III
بدھ	21	13	01:20	زراعہ
جمعرات	22	14	02:45	شہ
جمعہ	23	15	03:46	طرفہ
ہفتہ	24	16	04:16	چہ
اتوار	25	17	04:10	زہرہ
پہ	26	18	03:23	صرفہ
منگل	27	19	01:56	سگوا
بدھ	28	20	23:50	سگ
جمعرات	29	21	21:09	میزان
جمعہ	30	22	18:00	زبانہ
ہفتہ	31	23	14:31	اکیل
اتوار	2	24	10:51	قلب
پہ	3	25	07:10	شولہ
منگل	4	26	03:37	نعائم
بدھ	5	27	00:22	بلحا
جمعرات	6	28	21:34	بلحا
جمعہ	7	29	19:21	بلحا
جمعرات	8	30	17:47	سعود
جمعہ	9	31	16:56	اخچیہ
ہفتہ	10	18:22	16:48	مقدم
اتوار	11	09:06	17:21	موزر
پہ	12	02	18:29	رشا
منگل	13	03	20:05	شرطین
بدھ	14	04	21:58	بطین
جمعرات	15	05		
جمعہ	16	06	00:01	شریا
ہفتہ	17	07	02:05	دبران
اتوار	18	08	04:03	ہق
پہ	19	09	05:50	ہنہ

اصلی امامیہ جتنری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں



## استخراج ساعت

درویش خضر عباس بیاسی اگر کسی بات کی بھنڈائی تو ہمراہ جوابی الفاظ کے (ملت) پر چسکتے ہیں۔  
سہائیل: 0333-6474494 قاضی پرورد پریس چکی تحصیل وطن راجن پور

آپ نے جس روز کی ساعت معلوم کرنی ہو تو طلوع آفتاب سے غروب تک جتنے گھنٹے ہوں ان کو 12 پر تقسیم کر دیں ایک ستارہ کی ساعت معلوم ہو جائے گی اور یاد رکھیں اگر دن چھوٹے ہوں گے تو ساعت کا وقت بھی کم ہو جائیگا اور اگر دن بڑے ہوں گے تو ساعت کا وقت بھی بڑھ جائے گا۔

### جدول ساعت دن

دن	پہلا گھنٹہ	دوم گھنٹہ	سوم گھنٹہ	چوتھا گھنٹہ	پانچواں گھنٹہ	چھٹا گھنٹہ	ساتواں گھنٹہ	آٹھواں گھنٹہ	نواں گھنٹہ	دسواں گھنٹہ	گیارہواں گھنٹہ	بارہواں گھنٹہ
جمعہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری
ہفتہ	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ
اتوار	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل
سہوار	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش
منگل	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر
بدھ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ
ہفت	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد

### جدول ساعت رات

دن	پہلا گھنٹہ	دوم گھنٹہ	سوم گھنٹہ	چوتھا گھنٹہ	پانچواں گھنٹہ	چھٹا گھنٹہ	ساتواں گھنٹہ	آٹھواں گھنٹہ	نواں گھنٹہ	دسواں گھنٹہ	گیارہواں گھنٹہ	بارہواں گھنٹہ
جمعہ	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش
ہفتہ	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر
اتوار	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ
سہوار	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد
منگل	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری
بدھ	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ
ہفت	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشری	مرخ	مش	زہرہ	عطارد	قمر	زحل

### برائے زیادتی رزق

بعد از نماز آیت کی تلاوت موجب وسعت و برکت رزق ہے۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۱۱﴾

اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے جس کو چاہتی روزی چاہتا ہے و تپا ہے وہ طاقت والا زبردست ہے

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

نومبر	لاہور		کراچی	
	طلوع صبح	زوال اصباح	طلوع آفتاب	عروب آفتاب
1	04:56	06:19	06:39	05:52
2	04:57	06:19	06:39	05:52
3	04:57	06:20	06:40	05:51
4	04:58	06:21	06:40	05:51
5	04:58	06:22	06:41	05:50
6	04:59	06:23	06:41	05:50
7	05:00	06:23	06:42	05:49
8	05:00	06:24	06:43	05:49
9	05:01	06:25	06:44	05:48
10	05:01	06:26	06:44	05:48
11	05:02	06:27	06:45	05:47
12	05:03	06:28	06:45	05:47
13	05:04	06:29	06:46	05:46
14	05:05	06:30	06:47	05:46
15	05:06	06:31	06:48	05:45
16	05:07	06:32	06:48	05:45
17	05:08	06:33	06:49	05:44
18	05:09	06:33	06:49	05:44
19	05:09	06:34	06:50	05:44
20	05:10	06:35	06:51	05:44
21	05:11	06:36	06:52	05:43
22	05:12	06:37	06:52	05:43
23	05:12	06:37	06:53	05:43
24	05:13	06:38	06:54	05:43
25	05:14	06:39	06:55	05:43
26	05:15	06:40	06:55	05:43
27	05:16	06:41	06:56	05:43
28	05:16	06:42	06:57	05:43
29	05:17	06:42	06:58	05:42
30	05:17	06:43	06:58	05:42

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام  
رات کو پانی پینا صحت کے لئے مفید ہے۔ غسل میں کمی چاہیے۔ ساگ پوینے اور ک سے پرہیز، نہار منہ ایک گھنٹہ پانی پینا مفید ہے

**سالانہ مجلس عزاء امام حسین**  
13 ویں  
سالانہ برسی برائے بلندری درجات  
بشیر احمد زرگر مرحوم (قطر والے)  
11 اپریل بروز ہفتہ 2020 مرکزی امام بارگاہ درتول اڈہ پوریاں سیالکوٹ  
ملک بھر کے علماء کرام و ذاکرین خطاب فرمائیں گے  
**خاکپانے اہلبیت** زوار حاجی عام رضا و پسران قطر والے

اورانی مجلس 24 رجب سالانہ مجلس عزادانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بمقام امام بارگاہ دارالعلوم امیرکالونی شاہدراہور، شہر رضا کاظمی 0334-4042440 2020

اسلامی تقویم		عامیہ تقویم ماہ دسمبر 2020 عیسوی			استخراج و کوائف سیارگان			عمومی تقویم		ایام	
ہجری	نیک	نقص	رجح الملائک	سیارگان	قمر فی المنازل	قمر فی الجروج	شمس	قمر	2020	2077	1942
یادداشت	اسلامی معلومات			فی الجروج	فی المنازل	فی الجروج	تہن	شکر	31		
بازگاری الازل کا (* دیکھ کر آپ روانہ فرزند یا پاجامی دیکھیں سورہ اسزل کی تلاوت کریں۔	نیک	نیک	۱۵		زارعہ 07:21		10	18	1	منگل	
	نقص	نقص	۱۶	00:51	نشرہ 08:33	سرطان 08:33	11	19	2	بدھ	
	میانہ	نیک	۱۷		طرفہ 09:23		12	20	3	جمعرات	
	نیک	نیک	۱۸		جبہ 09:50	اسدراہ 17:53	13	21	4	جمعہ	
	نیک	نیک	۱۹		زہرہ 09:49		14	22	5	ہفتہ	
	میانہ	نقص	۲۰		صرفہ 09:21		15	23	6	اتوار	
	نقص	نقص	۲۱		عوا 08:24	سنبلہ 00:46	16	24	7	پہ	
وفات حضرت موسیٰ سید ۲۰۲۶	نیک	نیک	۲۲		ساک 06:57		17	25	8	منگل	
	نیک	نقص	۲۳		غفرہ 05:01	میزان 05:01	18	26	9	بدھ	
	نقص	نقص	۲۴		زیادہ 02:40 انیل 23:57		19	27	10	جمعرات	
06:58 قمر در عترب شروع	نقص	نقص	۲۵		قلب 20:57	عترب 06:58	20	28	11	جمعہ	
	نیک	نیک	۲۶		شولہ 17:47		21	29	12	ہفتہ	
07:39 قمر در عترب ختم	نیک	نیک	۲۷		نعام 14:35	قوس 07:39	22	30	13	اتوار	
	نقص	نقص	۲۸		بلدہ 11:28		23	31	14	پہ	
	نیک	نیک	۲۹	21:21	ذابح 08:35	جدی 08:35	24	2	15	منگل	
	نیک	نیک	۳۰		بلع 06:03		25	3	16	بدھ	
	نیک	نقص	۱	10:04	سعود 04:00	دلو 11:27	26	4	17	جمعرات	
	نیک	نقص	۲		احضیہ 02:33		27	5	18	جمعہ	
عرس کن الزین سلطان	نقص	نقص	۳	18:07	مقدم 01:46	حوت 17:39	28	6	19	ہفتہ	
	نیک	نقص	۴		موخر 01:42		29	7	20	اتوار	
	نیک	نقص	۵	04:07	رشا 02:19		30	8	21	پہ	
	نیک	نقص	۶		شرطین 03:32	حمل 03:32	2	9	22	منگل	
جگ موتہ ۵۸	نیک	نقص	۷		بطین 05:14		3	10	23	بدھ	
	نیک	نقص	۸		ثریا 07:13	ثور 15:55	4	11	24	جمعرات	
ساگرہ قاسمہ عظیم	نیک	نقص	۹		دبران 09:19		5	12	25	جمعہ	
عرس صوبی بابا کونہ	نقص	نقص	۱۰		حقیقہ 11:20		6	13	26	ہفتہ	
	نقص	نقص	۱۱		ھمدہ 13:06	جوزا 04:32	7	14	27	اتوار	
	نیک	نقص	۱۲		زارعہ 14:30		8	15	28	پہ	
	نقص	نقص	۱۳		نشرہ 15:28	سرطان 15:28	9	16	29	منگل	
عرس پیر یعقوب ساہو	نیک	نقص	۱۴		طرفہ 15:59		10	17	30	بدھ	
	نیک	نقص	۱۵		جبہ 16:03	اسدراہ 23:58	11	18	31	جمعرات	

درد و تپ کی مجلس 28/7/2020 صفر بمقام مرکزی امام بارگاہ قمر شاہراہ سادات بدلیہ۔ بانی سید محمد امجد علی رضوی + 27 رجب سالائیس کراچی شہیدان حضرت امام سونگام۔ مقام برصغیر حضرت برائی امام محمد سید مرزا عباس 0322-5141214

**مختصر فضائل رمضان المبارک**

تلاوت قرآن پاک کا اس ماہ میں بہت ثواب ہے سحری کھانا سنت ہے کھجور نیم گرم پانی، بھینٹن پانی سے روزہ افطار کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔

**دُعائے افطار:** اِزْهَرْتَ اِمَامِ سَوْنٰى كَاغَمُّمُ  
اَللّٰهُمَّ لَكَ صَدَقْتُمْ وَعَلَى رِزْقِكَ  
اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ

**بطلات روزہ**

کھانا پینا، جماع کرنا، غبار غلیظ کا حلق، ٹمٹا جانا، پورے سر کا غوطہ دینا، جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کی اذان تک رہنا۔

**روزہ کا کفارہ**

دو مہینوں کے پے درپے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ زیادہ ضعیف، یا بیمار شخص کیلئے روزہ واجب نہیں ہے لیکن ہر دن کیلئے 14 چھنا تک گندم یا جو تفریح کو دینا ہوگا۔

**احکامِ منظرہ**

مقدار منظرہ 3 کلو ہے۔ تمام ان افراد کی طرف سے ہے جن کے کھانے پینے کے مصارف اس کے ذمہ ہیں۔ یہاں تک کہ چاند نکلنے سے قبل کوئی مہمان آجائے۔ یا عید گاہ جانے سے قبل کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جاسکتا ہے لیکن غیر سید کا سید کو نہیں۔ فطرہ ضروری ہے کہ زوال سے قبل ادا کرے۔ مکمل اعمال تحفۃ العوام مقبول جدید میں درج ہیں۔

**اوقاتِ سحر و افطار - مختصر**

رمضان المبارک (1441ھ)		لاہور	
اپریل	رمضان المبارک	سحر	افطار
25	01	03:47	06:50
26	02	03:45	06:51
27	03	03:44	06:51
28	04	03:43	06:52
29	05	03:42	06:52
30	06	03:41	06:53
01 مئی	07	03:40	06:54
02 مئی	08	03:39	06:54
03 مئی	09	03:38	06:55
04 مئی	10	03:37	06:56
05 مئی	11	03:36	06:56
06 مئی	12	03:35	06:57
07 مئی	13	03:33	06:58
08 مئی	14	03:32	06:58
09 مئی	15	03:31	06:59
10 مئی	16	03:30	07:00
11 مئی	17	03:29	07:01
12 مئی	18	03:28	07:01
13 مئی	19	03:27	07:02
14 مئی	20	03:26	07:02
15 مئی	21	03:25	07:03
16 مئی	22	03:24	07:04
17 مئی	23	03:23	07:05
18 مئی	24	03:22	07:05
19 مئی	25	03:21	07:06
20 مئی	26	03:20	07:07
21 مئی	27	03:19	07:07
22 مئی	28	03:18	07:08
23 مئی	29	03:17	07:09
24 مئی	30	03:17	07:10

**نوٹ:** فتویٰ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت 10 منٹ قبل اور انقضاء سحر 10 منٹ بعد ہے۔

**مصنف:** مولانا سید نوید امجدی صاحب۔ چیئرمین جامع مسجد صاحب الزمان اسلام پورہ لاہور۔  
مفتاح الجنان (باقیات صالحات)  
ترجمہ علامہ حافظ ریاض حسین نجفی  
عام - 500/- جی بی ایڈیشن - 900/-  
جی بی ایڈیشن مع مگس - 1400/-

**اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی**

تاریخ	لاہور			کراچی		
	طلوع فجر	طلوع آفتاب	عروب آفتاب	عروب آفتاب	طلوع آفتاب	عروب آفتاب
1	05:18	06:44	04:59	06:59	05:43	04:59
2	05:19	06:45	04:59	07:00	05:43	04:59
3	05:20	06:46	04:59	07:01	05:43	04:59
4	05:20	06:47	04:59	07:01	05:43	04:59
5	05:21	06:48	04:59	07:02	05:43	04:59
6	05:22	06:48	04:59	07:02	05:43	04:59
7	05:22	06:49	04:59	07:03	05:43	04:59
8	05:23	06:50	04:59	07:04	05:43	04:59
9	05:24	06:50	04:59	07:05	05:44	04:59
10	05:24	06:51	04:59	07:05	05:44	04:59
11	05:25	06:51	04:59	07:06	05:44	04:59
12	05:26	06:52	04:59	07:06	05:44	04:59
13	05:26	06:52	05:00	07:07	05:45	04:59
14	05:27	06:53	05:00	07:07	05:45	04:59
15	05:27	06:53	05:01	07:08	05:46	04:59
16	05:28	06:54	05:01	07:09	05:46	04:59
17	05:29	06:55	05:02	07:10	05:46	04:59
18	05:30	06:56	05:02	07:10	05:46	04:59
19	05:30	06:56	05:03	07:11	05:47	04:59
20	05:31	06:57	05:04	07:11	05:47	04:59
21	05:31	06:58	05:04	07:12	05:48	04:59
22	05:32	06:59	05:05	07:12	05:48	04:59
23	05:33	06:59	05:05	07:13	05:49	04:59
24	05:33	07:00	05:06	07:13	05:49	04:59
25	05:34	07:00	05:06	07:14	05:50	04:59
26	05:34	07:01	05:07	07:14	05:50	04:59
27	05:34	07:01	05:07	07:15	05:51	04:59
28	05:35	07:02	05:08	07:15	05:52	04:59
29	05:35	07:02	05:08	07:15	05:53	04:59
30	05:35	07:03	05:09	07:15	05:53	04:59
31	05:36	07:03	05:09	07:16	05:54	04:59

**ہدایاتِ حضرت امام رضاؑ**  
لطفِ غذا، چھوٹا گوشت، نیم برشت، انڈا، جھلی کا شورہ۔  
مفید ہے۔ لہسن اور پیاز کا استعمال مفید ہے۔

**تحفۃ العوام** مقبول جدید مباحثہ  
مطابق فتاویٰ مجتہدین عظام  
**مولف:** مولانا سید منظور حسین نقوی  
**مطابق فتاویٰ مجتہدین عظام**  
عام جلد 5/1 700/-، جلد 5/2 900/-  
آئمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے اصول  
عام کاغذ - 600/- سفید کاغذ - 750/-

**امامیہ تقویم ماہ دسمبر 2019 عیسوی** مطابق ربیع الثانی / جمادی الاول 1441 ہجری  
**امامیہ تقویم ماہ جنوری 2021 عیسوی** مطابق جمادی الاول / جمادی الثانی 1442 ہجری

ایام 31	دسمبر 2019	ربیع الثانی	نیک نحص	یادداشت	ایام 31	جنوری 2021	جمادی الاول	نیک نحص	یادداشت
اتوار	1	۴	نیک	سز کے لئے بد	جمعہ	1	۱۶	محس	قبیر مکان کے لئے نیک
ہر	2	۵	محس		ہفتہ	2	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد
منگل	3	۶	نیک		اتوار	3	۱۸	نیک	
بدھ	4	۷	نیک	سز کے لئے بد	ہر	4	۱۹	نیک	
جمعرات	5	۸	نیک		منگل	5	۲۰	میانہ	قبیر کے لئے نیک
جمعہ	6	۹	نیک		بدھ	6	۲۱	محس	
ہفتہ	7	۱۰	نیک	میلاد مسعود امام حسن عسکریؑ	جمعرات	7	۲۲	نیک	قمر در عقرب ابتدا 13/53
اتوار	8	۱۱	محس اکبر	بڑی گیارہویں شریف	جمعہ	8	۲۳	نیک	
ہر	9	۱۲	نیک	ناراض ہوئی سائے	ہفتہ	9	۲۴	محس	قمر در عقرب اختتام 16/15
منگل	10	۱۳	محس	کوڑھ میں قیام حضرت عمارؓ	اتوار	10	۲۵	محس	
بدھ	11	۱۴	نیک		ہر	11	۲۶	نیک	کلاخ سز کے لئے بد
جمعرات	12	۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	منگل	12	۲۷	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد
جمعہ	13	۱۶	محس	قبیر کے لئے نیک	بدھ	13	۲۸	محس اکبر	
ہفتہ	14	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	جمعرات	14	۲۹	نیک	کلاخ کے لئے بد
اتوار	15	۱۸	نیک	سز کے لئے بد	جمعہ	15	۳۰	محس اکبر	
ہر	16	۱۹	نیک		ہفتہ	16	۱	نیک	
منگل	17	۲۰	میانہ	قبیر مکان کے لئے نیک	اتوار	17	۲	محس	شہادت ام البنین و ام سلمہ الزہراءؓ
بدھ	18	۲۱	محس		ہر	18	۳	نیک	سز کے لئے بد
جمعرات	19	۲۲	نیک	وفات حضرت موسیٰؑ	منگل	19	۴	محس	
جمعہ	20	۲۳	نیک		بدھ	20	۵	نیک	
ہفتہ	21	۲۴	محس	قمر در عقرب ابتدا 17/57	جمعرات	21	۶	نیک	
اتوار	22	۲۵	محس		جمعہ	22	۷	نیک	سز کے لئے بد
ہر	23	۲۶	نیک	قمر در عقرب اختتام 21/54	ہفتہ	23	۸	نیک	
منگل	24	۲۷	نیک		اتوار	24	۹	نیک	خجک جمل ۳۷
بدھ	25	۲۸	محس اکبر		ہر	25	۱۰	محس اکبر	
جمعرات	26	۲۹	نیک	کلاخ کے لئے بد جزوی سورج گرہن	منگل	26	۱۱	محس اکبر	
جمعہ	27	۳۰	نیک	کلاخ کے لئے بد	بدھ	27	۱۲	محس اکبر	
ہفتہ	28	جمادی الاول	نیک		جمعرات	28	۱۳	محس	شہادت ام البنین و ام سلمہ حضرت عباسؓ
اتوار	29	۲	نیک		جمعہ	29	۱۴	نیک	
ہر	30	۳	محس	سز کے لئے بد	ہفتہ	30	۱۵	نیک	قبیر مکان کے لئے نیک
منگل	31	۴	نیک		اتوار	31	۱۶	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد

سالانہ مجلس عزائم 13/53 قمر در عقرب ابتدا اور 21/54 قمر در عقرب اختتام: سید غلام محمد قریشی مدظلہ العالی

14 فروری 2021 یکم رجب قمر در عقرب ابتدا 3 فروری 2021: 19-14: اختتام قمر در عقرب 5 فروری 2021: 16-22

غلام رضاعسکری اعوان  
0333-7014915

# نظرات قمر و سیارگان 2020

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
11 فروری	قمر حیت ذم	22:36	11 فروری	قمر حیت مرغ	23:25	12 فروری	قمر مقابلہ زہرہ	13:06
13 فروری	قمر حیت مشرق	06:53	13 فروری	قمر حیت خمس	20:16	13 فروری	قمر حیت ذم	23:46
14 فروری	قمر مقابلہ پلو	19:20	14 فروری	قمر حیت مرغ	02:40	14 فروری	قمر مقابلہ پلو	10:53
15 فروری	قمر حیت پلو	11:24	15 فروری	قمر حیت عطارد	02:42	15 فروری	قمر حیت مشرق	09:51
16 فروری	قمر حیت پلو	22:20	16 فروری	قمر حیت پلو	03:17	16 فروری	قمر حیت پلو	03:19
17 فروری	قمر حیت پلو	04:05	17 فروری	قمر حیت پلو	08:09	17 فروری	قمر حیت پلو	16:48
18 فروری	قمر حیت پلو	14:03	18 فروری	قمر حیت پلو	18:16	18 فروری	قمر حیت پلو	21:44
19 فروری	قمر حیت پلو	17:08	19 فروری	قمر حیت پلو	14:56	19 فروری	قمر حیت پلو	00:49
20 فروری	قمر حیت پلو	01:05	20 فروری	قمر حیت پلو	13:06	20 فروری	قمر حیت پلو	19:18
21 فروری	قمر حیت پلو	07:13	21 فروری	قمر حیت پلو	09:08	21 فروری	قمر حیت پلو	21:29
22 فروری	قمر حیت پلو	05:39	22 فروری	قمر حیت پلو	23:25	22 فروری	قمر حیت پلو	00:45
23 فروری	قمر حیت پلو	18:28	23 فروری	قمر حیت پلو	11:57	23 فروری	قمر حیت پلو	19:11
24 فروری	قمر حیت پلو	13:32	24 فروری	قمر حیت پلو	14:21	24 فروری	قمر حیت پلو	22:05
25 فروری	قمر حیت پلو	00:45	25 فروری	قمر حیت پلو	11:57	25 فروری	قمر حیت پلو	19:11
26 فروری	قمر حیت پلو	13:32	26 فروری	قمر حیت پلو	14:21	26 فروری	قمر حیت پلو	22:05
27 فروری	قمر حیت پلو	22:05	27 فروری	قمر حیت پلو	18:35	27 فروری	قمر حیت پلو	11:57
28 فروری	قمر حیت پلو	00:45	28 فروری	قمر حیت پلو	13:32	28 فروری	قمر حیت پلو	14:21
29 فروری	قمر حیت پلو	03:20	29 فروری	قمر حیت پلو	06:08	29 فروری	قمر حیت پلو	12:49
30 فروری	قمر حیت پلو	09:12	30 فروری	قمر حیت پلو	12:49	30 فروری	قمر حیت پلو	19:54
31 فروری	قمر حیت پلو	17:11	31 فروری	قمر حیت پلو	16:10	31 فروری	قمر حیت پلو	19:24
01 جنوری	قمر حیت پلو	08:51	01 جنوری	قمر حیت پلو	11:13	01 جنوری	قمر حیت پلو	11:55
02 جنوری	قمر حیت پلو	11:40	02 جنوری	قمر حیت پلو	13:45	02 جنوری	قمر حیت پلو	11:16
03 جنوری	قمر حیت پلو	15:42	03 جنوری	قمر حیت پلو	17:38	03 جنوری	قمر حیت پلو	20:09
04 جنوری	قمر حیت پلو	17:38	04 جنوری	قمر حیت پلو	23:31	04 جنوری	قمر حیت پلو	17:58
05 جنوری	قمر حیت پلو	20:37	05 جنوری	قمر حیت پلو	04:49	05 جنوری	قمر حیت پلو	11:09
06 جنوری	قمر حیت پلو	06:18	06 جنوری	قمر حیت پلو	08:25	06 جنوری	قمر حیت پلو	09:11
07 جنوری	قمر حیت پلو	12:20	07 جنوری	قمر حیت پلو	17:45	07 جنوری	قمر حیت پلو	06:41
08 جنوری	قمر حیت پلو	20:18	08 جنوری	قمر حیت پلو	04:13	08 جنوری	قمر حیت پلو	03:53
09 جنوری	قمر حیت پلو	02:37	09 جنوری	قمر حیت پلو	16:18	09 جنوری	قمر حیت پلو	07:24
10 جنوری	قمر حیت پلو	05:14	10 جنوری	قمر حیت پلو	15:17	10 جنوری	قمر حیت پلو	05:31
11 جنوری	قمر حیت پلو	14:07	11 جنوری	قمر حیت پلو	02:21	11 جنوری	قمر حیت پلو	16:27
12 جنوری	قمر حیت پلو	16:07	12 جنوری	قمر حیت پلو	18:20	12 جنوری	قمر حیت پلو	21:19
13 جنوری	قمر حیت پلو	17:07	13 جنوری	قمر حیت پلو	14:39	13 جنوری	قمر حیت پلو	00:50
14 جنوری	قمر حیت پلو	12:05	14 جنوری	قمر حیت پلو	00:46	14 جنوری	قمر حیت پلو	10:07
15 جنوری	قمر حیت پلو	13:27	15 جنوری	قمر حیت پلو	09:45	15 جنوری	قمر حیت پلو	19:19
16 جنوری	قمر حیت پلو	03:15	16 جنوری	قمر حیت پلو	14:59	16 جنوری	قمر حیت پلو	06:59
17 جنوری	قمر حیت پلو	18:22	17 جنوری	قمر حیت پلو	07:44	17 جنوری	قمر حیت پلو	05:16
18 جنوری	قمر حیت پلو	04:59	18 جنوری	قمر حیت پلو	06:52	18 جنوری	قمر حیت پلو	02:13
19 جنوری	قمر حیت پلو	18:19	19 جنوری	قمر حیت پلو	17:19	19 جنوری	قمر حیت پلو	06:15
20 جنوری	قمر حیت پلو	00:21	20 جنوری	قمر حیت پلو	07:08	20 جنوری	قمر حیت پلو	17:02
21 جنوری	قمر حیت پلو	00:33	21 جنوری	قمر حیت پلو	05:18	21 جنوری	قمر حیت پلو	20:42
22 جنوری	قمر حیت پلو	04:43	22 جنوری	قمر حیت پلو	23:34	22 جنوری	قمر حیت پلو	03:59
23 جنوری	قمر حیت پلو	04:58	23 جنوری	قمر حیت پلو	02:41	23 جنوری	قمر حیت پلو	08:42
24 جنوری	قمر حیت پلو	21:42	24 جنوری	قمر حیت پلو	23:34	24 جنوری	قمر حیت پلو	12:33
25 جنوری	قمر حیت پلو	02:53	25 جنوری	قمر حیت پلو	00:06	25 جنوری	قمر حیت پلو	21:08
26 جنوری	قمر حیت پلو	18:41	26 جنوری	قمر حیت پلو	10:12	26 جنوری	قمر حیت پلو	09:30
27 جنوری	قمر حیت پلو	23:28	27 جنوری	قمر حیت پلو	06:13	27 جنوری	قمر حیت پلو	19:50
28 جنوری	قمر حیت پلو	06:59	28 جنوری	قمر حیت پلو	16:01	28 جنوری	قمر حیت پلو	08:29
29 جنوری	قمر حیت پلو	11:07	29 جنوری	قمر حیت پلو	14:33	29 جنوری	قمر حیت پلو	05:54
30 جنوری	قمر حیت پلو	22:27	30 جنوری	قمر حیت پلو	14:30	30 جنوری	قمر حیت پلو	18:35

3 عبادی الشان سالانہ کونسل برائے اہل علم و دانش شہید سیدتیبت بی بی عالمیہ اہل تبرک از پراہتا: حجاز حسین چنگری و محکمہ سہارا پبلشرز 0321-5513892

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
28 فروری	قرآن پلٹو	00:46	13 مارچ	قرآن بلذہرہ	04:10	29 مارچ	قرآن سرخ	04:04	12 اپریل	قرآن شمس	16:45
28 فروری	قرآن زل	08:24	13 مارچ	قرآن بھون	20:52	29 مارچ	قرآن زل	07:36	13 اپریل	قرآن عطار	10:59
28 فروری	قرآن پراس	19:49	13 مارچ	قرآن سرخ	19:59	30 مارچ	قرآن پراس	01:31	13 اپریل	قرآن پراس	15:36
28 فروری	قرآن عطار	20:51	14 مارچ	قرآن مشری	02:13	30 مارچ	قرآن عطار	07:57	14 اپریل	قرآن بھون	17:09
29 فروری	قرآن سرخ	05:55	14 مارچ	قرآن شمس	05:47	30 مارچ	قرآن بھون	20:10	15 اپریل	قرآن مشری	04:47
29 فروری	قرآن شمس	08:39	14 مارچ	قرآن پلٹو	06:53	<b>اپریل</b>			15 اپریل	قرآن پلٹو	03:01
<b>مابح</b>											
01 مارچ	قرآن مشری	03:11	14 مارچ	قرآن عطار	14:35	01 اپریل	قرآن پراس	02:23	15 اپریل	قرآن شمس	03:56
01 مارچ	قرآن بھون	00:50	16 مارچ	قرآن بھون	00:51	01 اپریل	قرآن شمس	15:21	15 اپریل	قرآن زل	15:20
01 مارچ	قرآن پلٹو	13:03	16 مارچ	قرآن شمس	14:34	02 اپریل	قرآن بھون	04:22	16 اپریل	قرآن پراس	00:08
01 مارچ	قرآن زل	20:52	16 مارچ	قرآن عطار	21:48	02 اپریل	قرآن مشری	13:48	16 اپریل	قرآن بلذہرہ	08:28
02 مارچ	قرآن عطار	04:04	17 مارچ	قرآن پراس	05:32	02 اپریل	قرآن پلٹو	14:20	16 اپریل	قرآن سرخ	10:41
03 مارچ	قرآن شمس	00:57	17 مارچ	قرآن بلذہرہ	22:30	02 اپریل	قرآن زہرہ	21:48	17 اپریل	قرآن شمس	19:34
03 مارچ	قرآن بھون	11:24	18 مارچ	قرآن بھون	08:36	03 اپریل	قرآن سرخ	03:13	18 اپریل	قرآن پراس	11:46
04 مارچ	قرآن زہرہ	07:19	18 مارچ	قرآن سرخ	13:32	03 اپریل	قرآن زل	00:48	18 اپریل	قرآن زہرہ	23:57
04 مارچ	قرآن عطار	09:44	18 مارچ	قرآن مشری	15:46	03 اپریل	قرآن پراس	08:39	19 اپریل	قرآن بھون	15:31
04 مارچ	قرآن پراس	16:25	18 مارچ	قرآن پلٹو	19:53	04 اپریل	قرآن شمس	00:28	20 اپریل	قرآن مشری	04:30
05 مارچ	قرآن بلذہرہ	07:24	19 مارچ	قرآن شمس	03:56	05 اپریل	قرآن زہرہ	04:07	20 اپریل	قرآن پلٹو	01:50
05 مارچ	قرآن شمس	12:49	19 مارچ	قرآن زل	05:47	05 اپریل	قرآن پراس	11:05	20 اپریل	قرآن زل	15:15
05 مارچ	قرآن بھون	18:14	19 مارچ	قرآن پراس	15:03	06 اپریل	قرآن بھون	09:37	21 اپریل	قرآن زہرہ	16:17
05 مارچ	قرآن مشری	21:55	20 مارچ	قرآن زہرہ	13:59	06 اپریل	قرآن عطار	14:48	21 اپریل	قرآن سرخ	18:34
06 مارچ	قرآن پلٹو	04:50	22 مارچ	قرآن عطار	01:38	06 اپریل	قرآن مشری	18:28	22 اپریل	قرآن عطار	01:05
06 مارچ	قرآن زل	12:11	22 مارچ	قرآن پراس	02:50	06 اپریل	قرآن پلٹو	18:14	22 اپریل	قرآن مشری	17:31
06 مارچ	قرآن زہرہ	17:00	23 مارچ	قرآن بھون	07:38	07 اپریل	قرآن زل	03:52	22 اپریل	قرآن پلٹو	14:31
06 مارچ	قرآن پراس	21:05	23 مارچ	قرآن زہرہ	07:35	07 اپریل	قرآن زہرہ	06:55	23 اپریل	قرآن زل	03:59
08 مارچ	قرآن عطار	13:12	23 مارچ	قرآن مشری	16:20	07 اپریل	قرآن سرخ	10:20	23 اپریل	قرآن شمس	07:25
08 مارچ	قرآن بلذہرہ	22:00	23 مارچ	قرآن سرخ	19:51	08 اپریل	قرآن شمس	07:34	23 اپریل	قرآن پراس	13:28
08 مارچ	قرآن پراس	22:10	23 مارچ	قرآن پلٹو	19:18	08 اپریل	قرآن مشری	17:49	24 اپریل	قرآن سرخ	10:30
09 مارچ	قرآن سرخ	15:47	24 مارچ	قرآن زل	06:14	08 اپریل	قرآن پلٹو	17:17	24 اپریل	قرآن بھون	16:37
09 مارچ	قرآن شمس	22:47	24 مارچ	قرآن شمس	14:28	09 اپریل	قرآن زل	03:02	25 اپریل	قرآن پلٹو	02:26
09 مارچ	قرآن بھون	20:56	26 مارچ	قرآن مشری	05:43	09 اپریل	قرآن پراس	10:09	25 اپریل	قرآن مشری	05:42
10 مارچ	قرآن مشری	01:07	26 مارچ	قرآن پلٹو	08:02	09 اپریل	قرآن سرخ	11:40	25 اپریل	قرآن زل	15:47
10 مارچ	قرآن پلٹو	06:23	26 مارچ	قرآن سرخ	12:16	10 اپریل	قرآن بھون	08:32	26 اپریل	قرآن زہرہ	21:38
10 مارچ	قرآن زل	13:32	26 مارچ	قرآن زل	19:15	10 اپریل	قرآن مشری	18:07	27 اپریل	قرآن سرخ	00:54
11 مارچ	قرآن سرخ	17:05	27 مارچ	قرآن پراس	04:28	10 اپریل	قرآن پلٹو	17:14	27 اپریل	قرآن بھون	03:31
12 مارچ	قرآن مشری	00:47	27 مارچ	قرآن عطار	14:03	11 اپریل	قرآن عطار	00:34	27 اپریل	قرآن عطار	21:59
12 مارچ	قرآن پلٹو	05:40	28 مارچ	قرآن بھون	09:01	11 اپریل	قرآن زل	03:36	28 اپریل	قرآن پراس	11:08
12 مارچ	قرآن عطار	11:57	28 مارچ	قرآن مشری	18:38	11 اپریل	قرآن بلذہرہ	12:27	28 اپریل	قرآن شمس	14:38
12 مارچ	قرآن زل	13:11	28 مارچ	قرآن زہرہ	19:20	11 اپریل	قرآن سرخ	15:02	29 اپریل	قرآن بھون	12:12
12 مارچ	قرآن پراس	21:13	28 مارچ	قرآن پلٹو	20:19	12 اپریل	قرآن بھون	10:53	29 اپریل	قرآن پلٹو	21:00

محل صرف حق کی عیرودی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ حضرت امام حسینؑ

2020

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
30 اپریل	قرتابلہ مشرقی	00:29	14 مئی	قرتابلہ ذہرہ	14:19	30 مئی	قرتابلہ ذہرہ	20:18	13 جون	قرتابلہ پلٹو	14:56
30 اپریل	قرتابلہ ذم	09:26	14 مئی	قرتابلہ مشرق	19:02	31 مئی	قرتابلہ نمکھون	04:13	14 جون	قرتابلہ ذم	04:12
30 اپریل	قرتابلہ مطارد	15:46	15 مئی	قرتابلہ سرخ	09:05	31 مئی	قرتابلہ مشرقی	14:16	14 جون	قرتابلہ ذہرہ	17:24
30 اپریل	قرتابلہ پراس	18:20	15 مئی	قرتابلہ مطارد	21:57	31 مئی	قرتابلہ پلٹو	10:46	15 جون	قرتابلہ مطارد	07:06
	منی		15 مئی	قرتابلہ پراس	21:40	31 مئی	قرتابلہ ذم	22:19	16 جون	قرتابلہ پلٹو	03:21
01 مئی	قرتابلہ مشرق	01:38	16 مئی	قرتابلہ نمکھون	23:33		جون		16 جون	قرتابلہ مشرقی	05:49
01 مئی	قرتابلہ ذہرہ	16:15	17 مئی	قرتابلہ ذہرہ	01:35	01 جون	قرتابلہ مطارد	02:15	16 جون	قرتابلہ مشرق	05:10
01 مئی	قرتابلہ سرخ	21:04	17 مئی	قرتابلہ پلٹو	08:14	01 جون	قرتابلہ مشرق	14:27	16 جون	قرتابلہ ذم	16:28
02 مئی	قرتابلہ پراس	22:18	17 مئی	قرتابلہ مشرق	12:12	01 جون	قرتابلہ ذہرہ	20:20	17 جون	قرتابلہ پراس	09:15
03 مئی	قرتابلہ مطارد	04:38	17 مئی	قرتابلہ مشرقی	12:59	02 جون	قرتابلہ پلٹو	12:22	17 جون	قرتابلہ مطارد	20:02
03 مئی	قرتابلہ مشرق	08:39	17 مئی	قرتابلہ ذم	22:28	02 جون	قرتابلہ مشرقی	15:39	18 جون	قرتابلہ نمکھون	08:18
03 مئی	قرتابلہ نمکھون	20:21	18 مئی	قرتابلہ مطارد	22:16	02 جون	قرتابلہ ذم	23:37	18 جون	قرتابلہ سرخ	14:16
03 مئی	قرتابلہ ذہرہ	20:05	19 مئی	قرتابلہ ذہرہ	13:16	03 جون	قرتابلہ مطارد	07:40	18 جون	قرتابلہ مشرقی	17:02
04 مئی	قرتابلہ پلٹو	04:00	19 مئی	قرتابلہ پلٹو	20:50	03 جون	قرتابلہ پراس	11:16	18 جون	قرتابلہ پلٹو	15:00
04 مئی	قرتابلہ مشرقی	07:24	20 مئی	قرتابلہ مشرقی	01:32	03 جون	قرتابلہ سرخ	20:44	19 جون	قرتابلہ ذم	03:34
04 مئی	قرتابلہ ذم	15:15	20 مئی	قرتابلہ ذم	10:57	04 جون	قرتابلہ نمکھون	07:14	19 جون	قرتابلہ ذہرہ	13:39
05 مئی	قرتابلہ ذہرہ	21:23	20 مئی	قرتابلہ سرخ	17:09	04 جون	قرتابلہ پلٹو	13:26	20 جون	قرتابلہ نمکھون	18:06
06 مئی	قرتابلہ سرخ	04:12	20 مئی	قرتابلہ پراس	23:06	04 جون	قرتابلہ مشرقی	16:36	21 جون	قرتابلہ سرخ	02:47
06 مئی	قرتابلہ پلٹو	04:04	22 مئی	قرتابلہ نمکھون	00:18	05 جون	قرتابلہ ذم	00:43	21 جون	قرتابلہ مشرق	11:41
06 مئی	قرتابلہ مشرقی	07:30	22 مئی	قرتابلہ پلٹو	08:28	05 جون	قرتابلہ ذہرہ	18:57	22 جون	قرتابلہ پراس	04:35
06 مئی	قرتابلہ ذم	15:09	22 مئی	قرتابلہ مشرقی	13:00	06 جون	قرتابلہ مشرق	00:12	22 جون	قرتابلہ مطارد	13:01
06 مئی	قرتابلہ پراس	23:31	22 مئی	قرتابلہ مشرق	22:38	06 جون	قرتابلہ سرخ	00:44	23 جون	قرتابلہ نمکھون	01:21
07 مئی	قرتابلہ مشرق	15:45	22 مئی	قرتابلہ ذم	22:11	06 جون	قرتابلہ نمکھون	09:10	23 جون	قرتابلہ مشرقی	08:28
07 مئی	قرتابلہ مطارد	21:30	23 مئی	قرتابلہ سرخ	07:43	07 جون	قرتابلہ مطارد	19:05	23 جون	قرتابلہ پلٹو	07:18
07 مئی	قرتابلہ نمکھون	20:39	24 مئی	قرتابلہ ذہرہ	08:14	07 جون	قرتابلہ پراس	16:08	23 جون	قرتابلہ سرخ	12:20
08 مئی	قرتابلہ پلٹو	04:02	24 مئی	قرتابلہ نمکھون	10:33	08 جون	قرتابلہ سرخ	07:06	23 جون	قرتابلہ ذم	18:30
08 مئی	قرتابلہ سرخ	06:32	24 مئی	قرتابلہ مطارد	16:09	08 جون	قرتابلہ نمکھون	13:25	24 جون	قرتابلہ ذہرہ	03:05
08 مئی	قرتابلہ مشرقی	07:38	25 مئی	قرتابلہ سرخ	19:57	08 جون	قرتابلہ مشرقی	23:05	24 جون	قرتابلہ پراس	10:34
08 مئی	قرتابلہ ذم	15:26	25 مئی	قرتابلہ پراس	19:33	08 جون	قرتابلہ پلٹو	20:00	26 جون	قرتابلہ ذہرہ	07:17
09 مئی	قرتابلہ نمکھون	22:13	26 مئی	قرتابلہ نمکھون	18:42	09 جون	قرتابلہ ذم	08:16	26 جون	قرتابلہ مشرق	06:33
10 مئی	قرتابلہ ذہرہ	00:13	27 مئی	قرتابلہ پلٹو	02:03	09 جون	قرتابلہ پراس	22:29	26 جون	قرتابلہ پراس	14:44
10 مئی	قرتابلہ سرخ	11:10	27 مئی	قرتابلہ مشرقی	06:06	10 جون	قرتابلہ ذہرہ	00:14	26 جون	قرتابلہ مطارد	19:17
11 مئی	قرتابلہ پراس	03:38	27 مئی	قرتابلہ ذم	14:42	10 جون	قرتابلہ مشرق	19:34	27 جون	قرتابلہ نمکھون	09:56
12 مئی	قرتابلہ نمکھون	03:04	28 مئی	قرتابلہ پراس	02:33	12 جون	قرتابلہ ذہرہ	07:34	27 جون	قرتابلہ مشرقی	15:50
12 مئی	قرتابلہ مشرق	05:23	28 مئی	قرتابلہ مشرق	00:02	12 جون	قرتابلہ پراس	08:20	27 جون	قرتابلہ پلٹو	15:24
12 مئی	قرتابلہ پلٹو	11:13	28 مئی	قرتابلہ ذہرہ	18:30	12 جون	قرتابلہ مطارد	17:06	28 جون	قرتابلہ سرخ	01:01
12 مئی	قرتابلہ مشرقی	15:29	29 مئی	قرتابلہ مطارد	18:32	13 جون	قرتابلہ سرخ	07:12	28 جون	قرتابلہ ذم	01:43
13 مئی	قرتابلہ ذم	00:17	30 مئی	قرتابلہ پراس	07:14	13 جون	قرتابلہ نمکھون	07:50	28 جون	قرتابلہ ذہرہ	10:33
13 مئی	قرتابلہ مطارد	00:06	30 مئی	قرتابلہ مشرق	08:29	13 جون	قرتابلہ مشرق	11:23	28 جون	قرتابلہ مشرق	13:15
13 مئی	قرتابلہ پراس	10:51	30 مئی	قرتابلہ سرخ	12:34	13 جون	قرتابلہ مشرقی	17:44	28 جون	قرتابلہ مطارد	20:13

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
29 جون	قرآن مشہور	18:01	14 جولائی	قرآن عطار	09:55	29 جولائی	قرآن پلٹو	01:05	14 اگست	قرآن شمس	13:32
29 جون	قرآن پلٹو	17:55	14 جولائی	قرآن پیرائس	19:13	29 جولائی	قرآن ذم	09:01	14 اگست	قرآن مرغ	16:19
30 جون	قرآن ذم	04:01	15 جولائی	قرآن مشہور	18:56	30 جولائی	قرآن شمس	00:46	15 اگست	قرآن زہرہ	18:26
30 جون	قرآن پیرائس	20:20	15 جولائی	قرآن نجھون	16:15	30 جولائی	قرآن مرغ	19:01	16 اگست	قرآن پیرائس	00:17
30 جون	قرآن شمس	19:19	15 جولائی	قرآن پلٹو	22:01	31 جولائی	قرآن نجھون	00:19	16 اگست	قرآن مشہور	14:32
30 جون	قرآن عطار	20:38	15 جولائی	قرآن شمس	21:49	31 جولائی	قرآن زہرہ	05:07	16 اگست	قرآن نجھون	17:28
	جولائی		16 جولائی	قرآن ذم	08:21					قرآن پلٹو	22:23
01 جولائی	قرآن نجھون	15:01	17 جولائی	قرآن مرغ	07:26	01 اگست	قرآن پیرائس	11:55	17 اگست	قرآن مرغ	00:31
01 جولائی	قرآن مشہور	20:05	17 جولائی	قرآن زہرہ	11:40	02 اگست	قرآن مرغ	02:22	17 اگست	قرآن ذم	04:58
01 جولائی	قرآن پلٹو	20:19	18 جولائی	قرآن نجھون	02:14	02 اگست	قرآن مشہور	04:57	18 اگست	قرآن پیرائس	05:01
02 جولائی	قرآن ذم	06:20	19 جولائی	قرآن عطار	09:18	02 اگست	قرآن نجھون	05:54	19 اگست	قرآن شمس	07:41
02 جولائی	قرآن مرغ	10:34	19 جولائی	قرآن مرغ	17:38	02 اگست	قرآن پلٹو	10:57	19 اگست	قرآن مرغ	04:50
02 جولائی	قرآن زہرہ	17:01	19 جولائی	قرآن پیرائس	14:24	02 اگست	قرآن عطار	13:52	19 اگست	قرآن عطار	10:38
03 جولائی	قرآن نجھون	18:05	20 جولائی	قرآن نجھون	09:00	02 اگست	قرآن ذم	18:59	20 اگست	قرآن پیرائس	06:51
04 جولائی	قرآن مرغ	16:27	20 جولائی	قرآن پلٹو	10:26	03 اگست	قرآن پیرائس	18:52	20 اگست	قرآن زہرہ	09:05
04 جولائی	قرآن عطار	23:12	20 جولائی	قرآن پلٹو	14:04	03 اگست	قرآن شمس	20:58	20 اگست	قرآن نجھون	22:15
05 جولائی	قرآن پیرائس	03:18	20 جولائی	قرآن شمس	22:32	04 اگست	قرآن مرغ	11:44	20 اگست	قرآن مشہور	19:13
05 جولائی	قرآن شمس	09:44	20 جولائی	قرآن ذم	22:54	05 اگست	قرآن زہرہ	02:45	21 اگست	قرآن پلٹو	02:47
05 جولائی	قرآن نجھون	22:43	21 جولائی	قرآن پیرائس	19:21	06 اگست	قرآن پیرائس	04:00	21 اگست	قرآن ذم	08:36
06 جولائی	قرآن مشہور	03:12	22 جولائی	قرآن مرغ	00:22	06 اگست	قرآن نجھون	23:11	22 اگست	قرآن زہرہ	13:25
06 جولائی	قرآن پلٹو	04:13	22 جولائی	قرآن زہرہ	05:27	06 اگست	قرآن مشہور	21:19	22 اگست	قرآن مشہور	19:45
06 جولائی	قرآن ذم	14:35	23 جولائی	قرآن پیرائس	22:16	07 اگست	قرآن پلٹو	04:37	23 اگست	قرآن پلٹو	03:33
07 جولائی	قرآن مرغ	00:36	23 جولائی	قرآن عطار	23:47	07 اگست	قرآن ذم	12:52	23 اگست	قرآن مرغ	08:35
07 جولائی	قرآن زہرہ	05:22	24 جولائی	قرآن زہرہ	10:45	07 اگست	قرآن زہرہ	17:53	23 اگست	قرآن ذم	09:19
07 جولائی	قرآن پیرائس	09:37	24 جولائی	قرآن نجھون	15:22	08 اگست	قرآن عطار	05:12	23 اگست	قرآن شمس	16:34
09 جولائی	قرآن عطار	10:34	24 جولائی	قرآن مشہور	15:56	09 اگست	قرآن شمس	03:48	24 اگست	قرآن عطار	03:41
09 جولائی	قرآن زہرہ	16:14	24 جولائی	قرآن پلٹو	20:05	09 اگست	قرآن مشہور	08:43	24 اگست	قرآن پیرائس	08:59
09 جولائی	قرآن پیرائس	18:49	25 جولائی	قرآن ذم	04:07	09 اگست	قرآن مرغ	13:35	24 اگست	قرآن زہرہ	18:51
10 جولائی	قرآن شمس	11:08	25 جولائی	قرآن شمس	11:32	09 اگست	قرآن پلٹو	16:37	24 اگست	قرآن مشہور	21:20
10 جولائی	قرآن نجھون	15:56	26 جولائی	قرآن مرغ	08:49	10 اگست	قرآن ذم	00:49	25 اگست	قرآن نجھون	00:47
10 جولائی	قرآن مشہور	19:46	26 جولائی	قرآن عطار	06:11	10 اگست	قرآن زہرہ	11:22	25 اگست	قرآن پلٹو	05:35
10 جولائی	قرآن پلٹو	21:51	26 جولائی	قرآن زہرہ	15:44	11 اگست	قرآن پیرائس	04:04	25 اگست	قرآن ذم	11:27
11 جولائی	قرآن ذم	08:48	26 جولائی	قرآن مشہور	17:41	11 اگست	قرآن عطار	06:11	25 اگست	قرآن شمس	22:57
11 جولائی	قرآن عطار	21:08	26 جولائی	قرآن پلٹو	22:12	11 اگست	قرآن مشہور	20:51	26 اگست	قرآن عطار	14:46
12 جولائی	قرآن مرغ	02:16	27 جولائی	قرآن ذم	06:08	11 اگست	قرآن شمس	21:44	27 اگست	قرآن نجھون	04:42
12 جولائی	قرآن زہرہ	06:21	27 جولائی	قرآن شمس	17:32	11 اگست	قرآن نجھون	23:31	27 اگست	قرآن مرغ	16:59
13 جولائی	قرآن شمس	04:28	28 جولائی	قرآن پیرائس	03:04	12 اگست	قرآن پلٹو	05:03	28 اگست	قرآن شمس	08:08
13 جولائی	قرآن مشہور	07:24	28 جولائی	قرآن عطار	14:03	12 اگست	قرآن ذم	12:54	28 اگست	قرآن پیرائس	17:50
13 جولائی	قرآن پلٹو	10:02	28 جولائی	قرآن نجھون	20:17	14 اگست	قرآن عطار	05:32	29 اگست	قرآن مشہور	06:55
13 جولائی	قرآن ذم	20:54	28 جولائی	قرآن مشہور	20:07	14 اگست	قرآن نجھون	10:15	29 اگست	قرآن عطار	05:04



تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
29 اگست	قرآن مجید	13:50	14 ستمبر	قرآن زہرہ	11:53	29 ستمبر	قرآن پیرائس	15:57	14 اکتوبر	قرآن پلانو	22:55
29 اگست	قرآن مجید	10:53	14 ستمبر	قرآن پیرائس	14:33	30 ستمبر	قرآن مشرقی	07:40	15 اکتوبر	قرآن ذیل	03:46
29 اگست	قرآن پلانو	16:12	14 ستمبر	قرآن عطارد	19:53	30 ستمبر	قرآن مجید	10:00	16 اکتوبر	قرآن مرج	18:49
29 اگست	قرآن ذیل	22:18	15 ستمبر	قرآن مشرق	20:09	30 ستمبر	قرآن پلانو	16:49	16 اکتوبر	قرآن مشرقی	17:06
30 اگست	قرآن مرج	00:30	16 ستمبر	قرآن پیرائس	16:23	30 ستمبر	قرآن ذیل	22:29	16 اکتوبر	قرآن پلانو	22:22
31 اگست	قرآن پیرائس	01:31	17 ستمبر	قرآن مشرقی	03:53	اکتوبر			17 اکتوبر	قرآن جس	00:30
<b>سپتمبر</b>											
01 ستمبر	قرآن مشرق	09:56	17 ستمبر	قرآن پلانو	12:05	02 اکتوبر	قرآن مشرقی	19:58	18 اکتوبر	قرآن عطارد	02:52
02 ستمبر	قرآن پیرائس	10:21	17 ستمبر	قرآن جس	16:00	03 اکتوبر	قرآن مرج	08:56	18 اکتوبر	قرآن پیرائس	00:37
02 ستمبر	قرآن پیرائس	11:03	17 ستمبر	قرآن ذیل	16:41	03 اکتوبر	قرآن پلانو	04:59	18 اکتوبر	قرآن پیرائس	15:27
03 ستمبر	قرآن مشرقی	00:47	18 ستمبر	قرآن زہرہ	21:40	03 اکتوبر	قرآن ذیل	10:47	18 اکتوبر	قرآن زہرہ	15:04
03 ستمبر	قرآن مجید	05:08	19 ستمبر	قرآن مشرقی	03:35	03 اکتوبر	قرآن زہرہ	22:13	18 اکتوبر	قرآن مشرقی	16:38
03 ستمبر	قرآن پلانو	10:55	19 ستمبر	قرآن عطارد	07:07	04 اکتوبر	قرآن عطارد	10:16	18 اکتوبر	قرآن پلانو	21:42
03 ستمبر	قرآن عطارد	17:56	19 ستمبر	قرآن زہرہ	11:39	04 اکتوبر	قرآن پیرائس	15:58	19 اکتوبر	قرآن ذیل	02:42
03 ستمبر	قرآن ذیل	17:09	19 ستمبر	قرآن ذیل	16:13	05 اکتوبر	قرآن مشرقی	09:07	20 اکتوبر	قرآن مشرق	17:08
03 ستمبر	قرآن زہرہ	19:34	19 ستمبر	قرآن مرج	19:28	05 اکتوبر	قرآن مجید	10:36	20 اکتوبر	قرآن مجید	16:18
05 ستمبر	قرآن مشرقی	12:26	20 ستمبر	قرآن پیرائس	15:55	05 اکتوبر	قرآن پلانو	17:50	20 اکتوبر	قرآن زہرہ	20:27
05 ستمبر	قرآن پلانو	22:53	21 ستمبر	قرآن زہرہ	01:41	05 اکتوبر	قرآن ذیل	23:40	21 اکتوبر	قرآن جس	08:37
06 ستمبر	قرآن ذیل	05:09	21 ستمبر	قرآن مشرقی	03:51	06 اکتوبر	قرآن زہرہ	17:40	22 اکتوبر	قرآن پیرائس	03:32
06 ستمبر	قرآن مرج	09:44	21 ستمبر	قرآن مجید	06:46	07 اکتوبر	قرآن جس	14:17	22 اکتوبر	قرآن عطارد	00:49
06 ستمبر	قرآن زہرہ	13:51	21 ستمبر	قرآن پلانو	12:06	07 اکتوبر	قرآن مجید	22:50	22 اکتوبر	قرآن مشرقی	22:43
07 ستمبر	قرآن پیرائس	10:59	21 ستمبر	قرآن ذیل	16:50	08 اکتوبر	قرآن مرج	06:56	22 اکتوبر	قرآن مرج	20:15
07 ستمبر	قرآن جس	21:09	21 ستمبر	قرآن مشرق	23:12	09 اکتوبر	قرآن زہرہ	11:16	22 اکتوبر	قرآن مجید	20:22
08 ستمبر	قرآن مشرقی	01:07	23 ستمبر	قرآن زہرہ	08:33	09 اکتوبر	قرآن عطارد	17:02	23 اکتوبر	قرآن پلانو	03:40
08 ستمبر	قرآن مجید	05:35	23 ستمبر	قرآن مجید	09:20	09 اکتوبر	قرآن پیرائس	15:14	23 اکتوبر	قرآن ذیل	09:34
08 ستمبر	قرآن پلانو	11:39	23 ستمبر	قرآن مشرق	22:31	10 اکتوبر	قرآن مشرقی	08:16	23 اکتوبر	قرآن زہرہ	06:09
08 ستمبر	قرآن ذیل	17:46	23 ستمبر	قرآن عطارد	20:30	10 اکتوبر	قرآن مجید	08:43	23 اکتوبر	قرآن جس	18:22
09 ستمبر	قرآن زہرہ	08:41	24 ستمبر	قرآن جس	06:54	10 اکتوبر	قرآن جس	05:39	24 اکتوبر	قرآن عطارد	02:48
09 ستمبر	قرآن عطارد	13:38	24 ستمبر	قرآن پیرائس	22:20	10 اکتوبر	قرآن پلانو	15:36	24 اکتوبر	قرآن پیرائس	10:02
10 ستمبر	قرآن جس	14:25	25 ستمبر	قرآن مشرقی	12:11	10 اکتوبر	قرآن مرج	15:05	25 اکتوبر	قرآن مرج	02:53
10 ستمبر	قرآن مجید	17:16	25 ستمبر	قرآن مجید	14:59	10 اکتوبر	قرآن ذیل	21:03	26 اکتوبر	قرآن جس	08:30
11 ستمبر	قرآن مرج	09:47	25 ستمبر	قرآن پلانو	21:09	11 اکتوبر	قرآن پیرائس	22:27	26 اکتوبر	قرآن عطارد	06:58
12 ستمبر	قرآن عطارد	07:48	26 ستمبر	قرآن ذیل	02:25	12 اکتوبر	قرآن عطارد	01:50	26 اکتوبر	قرآن پیرائس	19:43
12 ستمبر	قرآن پیرائس	08:57	26 ستمبر	قرآن مرج	04:11	12 اکتوبر	قرآن جس	16:09	27 اکتوبر	قرآن مجید	14:39
12 ستمبر	قرآن مشرقی	21:54	26 ستمبر	قرآن عطارد	08:35	12 اکتوبر	قرآن مرج	19:29	27 اکتوبر	قرآن مشرقی	18:37
13 ستمبر	قرآن مجید	01:45	26 ستمبر	قرآن جس	18:30	14 اکتوبر	قرآن پیرائس	01:35	27 اکتوبر	قرآن پلانو	22:58
13 ستمبر	قرآن جس	03:44	27 ستمبر	قرآن پیرائس	06:00	14 اکتوبر	قرآن زہرہ	07:54	28 اکتوبر	قرآن ذیل	05:45
13 ستمبر	قرآن پلانو	07:19	28 ستمبر	قرآن زہرہ	10:04	14 اکتوبر	قرآن عطارد	05:19	28 اکتوبر	قرآن زہرہ	14:32
13 ستمبر	قرآن ذیل	12:36	28 ستمبر	قرآن مرج	12:17	14 اکتوبر	قرآن مجید	16:46	29 اکتوبر	قرآن مرج	23:33
13 ستمبر	قرآن مرج	17:04	28 ستمبر	قرآن عطارد	23:43	14 اکتوبر	قرآن مشرقی	17:11	30 اکتوبر	قرآن مشرقی	07:38

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
30 اکتوبر	قرآن پلٹو	11:25	14 نومبر	قرآن پلاس	10:09	29 نومبر	قرآن دہل	17:48	14 دسمبر	قرآن شمس	21:16
30 اکتوبر	قرآن دہل	18:30	15 نومبر	قرآن پلاس	02:05	30 نومبر	قرآن شمس	14:29	15 دسمبر	قرآن پلاس	20:22
30 اکتوبر	قرآن عطار	21:12	15 نومبر	قرآن پلاس	09:30	01 دسمبر	قرآن پلاس	09:21	16 دسمبر	قرآن پلاس	15:11
31 اکتوبر	قرآن پلاس	19:54	15 نومبر	قرآن شمس	10:07	01 دسمبر	قرآن پلاس	07:12	16 دسمبر	قرآن پلاس	20:32
31 اکتوبر	قرآن شمس	19:49	15 نومبر	قرآن مشرقی	10:03	01 دسمبر	قرآن پلاس	23:00	17 دسمبر	قرآن پلاس	00:32
<b>نومبر</b>											
01 نومبر	قرآن پلاس	15:31	16 نومبر	قرآن مشرقی	21:20	02 دسمبر	قرآن پلاس	12:42	17 دسمبر	قرآن دہل	11:27
01 نومبر	قرآن مشرقی	21:06	17 نومبر	قرآن پلاس	02:06	03 دسمبر	قرآن مشرقی	18:28	17 دسمبر	قرآن مشرقی	15:15
02 نومبر	قرآن پلاس	00:13	17 نومبر	قرآن مشرقی	12:54	03 دسمبر	قرآن پلاس	19:32	17 دسمبر	قرآن پلاس	23:50
02 نومبر	قرآن دہل	07:29	18 نومبر	قرآن پلاس	11:00	04 دسمبر	قرآن پلاس	05:21	19 دسمبر	قرآن مشرقی	03:08
03 نومبر	قرآن مشرقی	05:31	18 نومبر	قرآن عطار	13:31	04 دسمبر	قرآن مشرقی	11:51	19 دسمبر	قرآن شمس	13:44
03 نومبر	قرآن مشرقی	22:56	18 نومبر	قرآن مشرقی	23:41	04 دسمبر	قرآن دہل	15:28	19 دسمبر	قرآن عطار	12:48
04 نومبر	قرآن پلاس	03:42	19 نومبر	قرآن پلاس	04:33	05 دسمبر	قرآن عطار	02:51	20 دسمبر	قرآن مشرقی	03:40
04 نومبر	قرآن عطار	18:48	19 نومبر	قرآن پلاس	12:58	05 دسمبر	قرآن پلاس	07:37	20 دسمبر	قرآن پلاس	06:49
05 نومبر	قرآن مشرقی	23:22	19 نومبر	قرآن مشرقی	14:42	05 دسمبر	قرآن شمس	19:40	21 دسمبر	قرآن پلاس	04:33
05 نومبر	قرآن پلاس	19:18	19 نومبر	قرآن دہل	20:51	06 دسمبر	قرآن مشرقی	03:27	21 دسمبر	قرآن پلاس	15:24
06 نومبر	قرآن شمس	06:06	19 نومبر	قرآن مشرقی	21:15	06 دسمبر	قرآن مشرقی	02:46	22 دسمبر	قرآن شمس	04:41
06 نومبر	قرآن مشرقی	09:08	19 نومبر	قرآن شمس	21:29	07 دسمبر	قرآن پلاس	13:45	22 دسمبر	قرآن مشرقی	04:35
06 نومبر	قرآن پلاس	14:13	20 نومبر	قرآن پلاس	15:41	07 دسمبر	قرآن عطار	16:24	22 دسمبر	قرآن دہل	04:32
06 نومبر	قرآن مشرقی	21:00	21 نومبر	قرآن عطار	01:15	08 دسمبر	قرآن پلاس	08:45	22 دسمبر	قرآن عطار	07:04
06 نومبر	قرآن پلاس	22:40	21 نومبر	قرآن مشرقی	05:48	08 دسمبر	قرآن شمس	05:36	22 دسمبر	قرآن مشرقی	20:56
07 نومبر	قرآن دہل	05:51	22 نومبر	قرآن مشرقی	10:42	08 دسمبر	قرآن مشرقی	13:21	24 دسمبر	قرآن مشرقی	03:50
07 نومبر	قرآن عطار	06:26	22 نومبر	قرآن شمس	09:44	08 دسمبر	قرآن پلاس	17:51	24 دسمبر	قرآن پلاس	03:36
08 نومبر	قرآن پلاس	03:49	23 نومبر	قرآن پلاس	00:10	09 دسمبر	قرآن مشرقی	01:08	24 دسمبر	قرآن مشرقی	18:09
08 نومبر	قرآن مشرقی	13:35	23 نومبر	قرآن عطار	18:37	09 دسمبر	قرآن دہل	03:35	24 دسمبر	قرآن دہل	17:31
08 نومبر	قرآن مشرقی	16:39	23 نومبر	قرآن پلاس	20:30	10 دسمبر	قرآن عطار	02:12	24 دسمبر	قرآن شمس	22:47
08 نومبر	قرآن شمس	18:45	24 نومبر	قرآن پلاس	06:17	10 دسمبر	قرآن مشرقی	13:30	25 دسمبر	قرآن پلاس	05:55
09 نومبر	قرآن عطار	16:04	24 نومبر	قرآن مشرقی	09:46	10 دسمبر	قرآن شمس	12:21	25 دسمبر	قرآن عطار	04:57
10 نومبر	قرآن پلاس	08:49	24 نومبر	قرآن دہل	15:44	10 دسمبر	قرآن پلاس	20:21	26 دسمبر	قرآن پلاس	05:09
11 نومبر	قرآن پلاس	01:42	25 نومبر	قرآن شمس	02:12	11 دسمبر	قرآن مشرقی	03:57	26 دسمبر	قرآن پلاس	16:31
11 نومبر	قرآن شمس	02:52	26 نومبر	قرآن مشرقی	04:39	11 دسمبر	قرآن دہل	05:56	27 دسمبر	قرآن مشرقی	07:53
11 نومبر	قرآن مشرقی	08:54	26 نومبر	قرآن پلاس	18:50	11 دسمبر	قرآن پلاس	18:43	27 دسمبر	قرآن دہل	06:40
11 نومبر	قرآن پلاس	09:20	26 نومبر	قرآن مشرقی	23:14	12 دسمبر	قرآن پلاس	12:35	28 دسمبر	قرآن مشرقی	11:46
11 نومبر	قرآن دہل	15:58	27 نومبر	قرآن دہل	04:45	12 دسمبر	قرآن پلاس	21:17	28 دسمبر	قرآن پلاس	16:58
12 نومبر	قرآن مشرقی	21:50	28 نومبر	قرآن پلاس	00:10	13 دسمبر	قرآن مشرقی	01:59	29 دسمبر	قرآن مشرقی	08:00
13 نومبر	قرآن مشرقی	04:30	28 نومبر	قرآن مشرقی	00:24	13 دسمبر	قرآن مشرقی	05:22	30 دسمبر	قرآن پلاس	04:32
13 نومبر	قرآن مشرقی	10:04	28 نومبر	قرآن پلاس	21:28	13 دسمبر	قرآن دہل	06:57	30 دسمبر	قرآن پلاس	08:28
13 نومبر	قرآن پلاس	10:00	29 نومبر	قرآن پلاس	07:39	14 دسمبر	قرآن پلاس	13:14	30 دسمبر	قرآن عطار	21:03
13 نومبر	قرآن دہل	16:32	29 نومبر	قرآن عطار	13:32	14 دسمبر	قرآن عطار	15:41	31 دسمبر	قرآن پلاس	02:30
14 نومبر	قرآن عطار	02:43	29 نومبر	قرآن مشرقی	12:53	14 دسمبر	قرآن مشرقی	17:13			

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
30 اکتوبر	قرآن پلٹو	11:25	14 نومبر	قرآن پلاس	10:09	29 نومبر	قرآن ڈل	17:48	14 دسمبر	قرآن ٹس	21:16
30 اکتوبر	قرآن ڈل	18:30	15 نومبر	قرآن ٹس	02:05	30 نومبر	قرآن ٹس	14:29	15 دسمبر	قرآن پلاس	20:22
30 اکتوبر	قرآن عطار	21:12	15 نومبر	قرآن پلٹو	09:30	01 دسمبر	قرآن ٹس	09:21	16 دسمبر	قرآن ٹس	15:11
31 اکتوبر	قرآن پلاس	19:54	15 نومبر	قرآن ٹس	10:07	01 دسمبر	قرآن ٹس	07:12	16 دسمبر	قرآن ٹس	20:32
31 اکتوبر	قرآن ٹس	19:49	15 نومبر	قرآن مشری	10:03	01 دسمبر	قرآن ٹس	23:00	17 دسمبر	قرآن پلٹو	00:32
<b>نومبر</b>											
01 نومبر	قرآن ٹس	15:31	16 نومبر	قرآن ٹس	16:12	02 دسمبر	قرآن پلاس	12:42	17 دسمبر	قرآن ڈل	10:34
01 نومبر	قرآن مشری	21:06	17 نومبر	قرآن ٹس	02:06	03 دسمبر	قرآن ڈل	18:28	17 دسمبر	قرآن ڈل	11:27
02 نومبر	قرآن پلٹو	00:13	17 نومبر	قرآن ٹس	12:54	03 دسمبر	قرآن ٹس	19:32	17 دسمبر	قرآن پلاس	15:15
02 نومبر	قرآن ڈل	07:29	18 نومبر	قرآن پلاس	11:00	04 دسمبر	قرآن پلٹو	05:21	19 دسمبر	قرآن ٹس	23:50
03 نومبر	قرآن ڈل	05:31	18 نومبر	قرآن عطار	13:31	04 دسمبر	قرآن مشری	11:51	19 دسمبر	قرآن ٹس	03:08
03 نومبر	قرآن ٹس	22:56	18 نومبر	قرآن ٹس	23:41	04 دسمبر	قرآن ڈل	15:28	19 دسمبر	قرآن عطار	13:44
04 نومبر	قرآن ٹس	03:42	19 نومبر	قرآن ٹس	04:33	05 دسمبر	قرآن عطار	02:51	20 دسمبر	قرآن ڈل	12:48
04 نومبر	قرآن عطار	18:48	19 نومبر	قرآن پلٹو	12:58	05 دسمبر	قرآن پلاس	07:37	20 دسمبر	قرآن پلاس	03:40
05 نومبر	قرآن ڈل	23:22	19 نومبر	قرآن مشری	14:42	05 دسمبر	قرآن ٹس	19:40	21 دسمبر	قرآن ٹس	06:49
05 نومبر	قرآن پلاس	19:18	19 نومبر	قرآن ڈل	20:51	06 دسمبر	قرآن ٹس	03:27	21 دسمبر	قرآن پلٹو	04:33
06 نومبر	قرآن ٹس	06:06	19 نومبر	قرآن ڈل	21:15	06 دسمبر	قرآن ڈل	02:46	22 دسمبر	قرآن ٹس	15:24
06 نومبر	قرآن ٹس	09:08	19 نومبر	قرآن ٹس	21:29	07 دسمبر	قرآن پلاس	13:45	22 دسمبر	قرآن مشری	04:41
06 نومبر	قرآن ٹس	14:13	20 نومبر	قرآن پلاس	15:41	07 دسمبر	قرآن عطار	16:24	22 دسمبر	قرآن مشری	04:35
06 نومبر	قرآن مشری	21:00	21 نومبر	قرآن عطار	01:15	08 دسمبر	قرآن ٹس	08:45	22 دسمبر	قرآن ڈل	04:32
06 نومبر	قرآن پلٹو	22:40	21 نومبر	قرآن ٹس	05:48	08 دسمبر	قرآن ٹس	05:36	22 دسمبر	قرآن عطار	07:04
07 نومبر	قرآن ڈل	05:51	22 نومبر	قرآن ڈل	10:42	08 دسمبر	قرآن ڈل	13:21	24 دسمبر	قرآن ڈل	20:56
07 نومبر	قرآن عطار	06:26	22 نومبر	قرآن ٹس	09:44	08 دسمبر	قرآن پلٹو	17:51	24 دسمبر	قرآن مشری	03:50
08 نومبر	قرآن پلاس	03:49	23 نومبر	قرآن پلاس	00:10	09 دسمبر	قرآن مشری	01:08	24 دسمبر	قرآن پلاس	03:36
08 نومبر	قرآن ڈل	13:35	23 نومبر	قرآن عطار	18:37	09 دسمبر	قرآن مشری	03:35	24 دسمبر	قرآن پلاس	18:09
08 نومبر	قرآن ٹس	16:39	23 نومبر	قرآن ٹس	20:30	10 دسمبر	قرآن ڈل	02:12	24 دسمبر	قرآن مشری	17:31
08 نومبر	قرآن ٹس	18:45	24 نومبر	قرآن پلٹو	06:17	10 دسمبر	قرآن عطار	13:30	25 دسمبر	قرآن ٹس	22:47
09 نومبر	قرآن عطار	16:04	24 نومبر	قرآن مشری	09:46	10 دسمبر	قرآن ٹس	12:21	25 دسمبر	قرآن پلاس	05:55
10 نومبر	قرآن پلاس	08:49	24 نومبر	قرآن ڈل	15:44	10 دسمبر	قرآن پلٹو	20:21	26 دسمبر	قرآن پلاس	04:57
11 نومبر	قرآن ٹس	01:42	25 نومبر	قرآن ٹس	02:12	11 دسمبر	قرآن مشری	03:57	26 دسمبر	قرآن ٹس	05:09
11 نومبر	قرآن ٹس	02:52	26 نومبر	قرآن ٹس	04:39	11 دسمبر	قرآن ڈل	05:56	27 دسمبر	قرآن پلاس	16:31
11 نومبر	قرآن مشری	08:54	26 نومبر	قرآن پلٹو	18:50	11 دسمبر	قرآن ڈل	18:43	27 دسمبر	قرآن ٹس	07:53
11 نومبر	قرآن پلٹو	09:20	26 نومبر	قرآن مشری	23:14	12 دسمبر	قرآن ٹس	12:35	28 دسمبر	قرآن ڈل	06:40
11 نومبر	قرآن ڈل	15:58	27 نومبر	قرآن ڈل	04:45	12 دسمبر	قرآن ٹس	21:17	28 دسمبر	قرآن ڈل	11:46
12 نومبر	قرآن پلاس	21:50	28 نومبر	قرآن پلاس	00:10	13 دسمبر	قرآن ڈل	01:59	29 دسمبر	قرآن ٹس	16:58
13 نومبر	قرآن ڈل	04:30	28 نومبر	قرآن ڈل	00:24	13 دسمبر	قرآن ڈل	05:22	30 دسمبر	قرآن ٹس	08:00
13 نومبر	قرآن مشری	10:04	28 نومبر	قرآن ٹس	21:28	13 دسمبر	قرآن ڈل	06:57	30 دسمبر	قرآن پلاس	04:32
13 نومبر	قرآن پلٹو	10:00	29 نومبر	قرآن پلاس	07:39	14 دسمبر	قرآن ٹس	13:14	30 دسمبر	قرآن ٹس	08:28
13 نومبر	قرآن ڈل	16:32	29 نومبر	قرآن عطار	13:32	14 دسمبر	قرآن ٹس	15:41	31 دسمبر	قرآن عطار	21:03
14 نومبر	قرآن عطار	02:43	29 نومبر	قرآن مشری	12:53	14 دسمبر	قرآن عطار	17:13		قرآن ٹس	02:30

مخدوم سید مبارک علی شمس

(روحانی سکالر)

0321-7850809

0333-7850809

# شادی میں رکاوٹ

قارئین اس سال آپ لوگوں کے بھرپور اصرار پر طویل ترین محنت اور تحقیق کے بعد امامیہ سنتی کے توسط سے ایک خاص مضمون کیساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا عنوان ہے **شادی میں رکاوٹ** جو کہ آج کے پرفتن اور پرفریب دور میں تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک جائزے کے مطابق ملک میں پچاس فیصد لڑکیاں ایسی ہیں جن کے رشتے آتے ہی نہیں یا اگر اکا دکا آ بھی جائے تو وہ طے نہیں ہو پاتے کیونکہ اس کے پیچھے نکاح، شادی و منگنی کی بندش وغیرہ کا بہت بڑا عمل دخل شامل ہوتا ہے اور اگر بد قسمتی سے کوئی رشتہ طے پا جائے تو کسی نہ کسی عذر بہانے اور الزام تراشی کی بھینٹ چڑھ کر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لڑکیوں کے والدین سخت پریشان اور خصوصاً لڑکیاں مذکورہ خود اذیت میں مبتلا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شادی میں تاخیر کے اسباب کیا ہیں اور شادی میں رکاوٹ اور نکاح میں بندش کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں مگر یہاں چند ایک اہم اور بنیادی وجوہات قابل ذکر ہیں۔

سحر، جادو ٹونہ کی وجہ سے ❁ خاندانی رنجش و تکرار کی وجہ سے ❁ غربت و افلاس کی وجہ سے ❁ ساڑھ سستی کی وجہ سے ❁ سیارگان کی ناقص و کمزور پوزیشن کی وجہ سے۔

مندرجہ بالا وجوہات کی وجہ سے لڑکیوں کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے مگر ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے جسکی وجہ سے مایوسی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور بات خود کشی تک آپہنچتی ہے جسکی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ شادی میں بندش کا شکار خواتین خود یا ان کے والدین توڑ کے لیے براہ راست رابطہ کریں۔ عملیات پیش خدمت ہیں۔

**پیغام نکاح دختران** عروج ماہ میں پہلے غسل کریں پھر جمعہ کے روز زہرہ کی ساعت میں سورۃ الاحزاب (پارہ 21، 22) کو مشک و زعفران سے ہرن کی جھلی پر لکھ کر ایک لکڑی کا ڈبہ بنا کر اس میں بند کر کے گھر میں رکھ دیں اور 41 روز تک روزانہ 3 مرتبہ سورۃ الاحزاب صبح کی نماز کے بعد پڑھیں اور جس روز اس کو لکھنا ہے اسی روز سے پڑھنا شروع کریں ان شاء اللہ العزیز بہت جلد نکاح کا پیغام آئے گا۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے پڑھنے سے پہلے اجازت ضرور لیں عمل کے دوران خوشبو سے لباس معطر کریں اور صندل وغیرہ سلگائیں۔

**نکاح و شادی کی بندش کا توڑ** جس لڑکی کا نکاح باندھ دیا گیا ہو اور شادی کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو یا پھر رشتے آتے ہوں مگر طے نہ پاتے ہوں تو اسے چاہیے کہ با وضو ہو کر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اِذْنِ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَا تُوَكِّدُ بَجَلًا وَّ عَلٰی كُلِّ صَّامِرٍ یَّکَلِّیْنِ مِنْ کُلِّ فِتْحٍ عِیْنِیْ ۝ (سورۃ حج آیت نمبر 27)

باندھ دیا گیا ہو اور شادی کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو یا پھر رشتے آتے ہوں مگر طے نہ پاتے ہوں تو اسے چاہیے کہ با وضو ہو کر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ 12000 مرتبہ 41 یوم تک اس طرح پڑھے کہ 1000 مرتبہ مکمل کرے تو 2 رکعت نماز حاجت ادا کرے پھر پڑھنا شروع کرے اور 1000 کے بعد پھر نماز بجالائے اور اسی تربیت سے 12000 مکمل کرے۔ اور آخری روز نماز حاجت سے فارغ ہو کر

بِسْمِ اللّٰهِ شَرِیْفِ کَاتِقْشِ مَشْکِ وَ زَعْفَرَانِ وَ کَسْتُوْرِیْ سَے ہرن کی جھلی پر

اگر لڑکی یا لڑکا شادی کے لیے آمادہ نہ ہو اور عمر بیت رہی ہو، گھر والے پریشان ہوں تو درج ذیل مبارک کون کسی میٹھی چیز یعنی مٹھائی وغیرہ پر دم کر کے (لڑکی/ لڑکے کو) کھلا دیں تو وہ فوراً شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔

اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہو یا نکاح میں بندش ہو تو اسے چاہیے کہ نوچندی جمعرات کو غسل کرے اور سرخ لباس معطر کر کے اپنے اور نماز فجر ادا کرے بعدہ مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کو

121 مرتبہ تلاوت کرے اور اول و آخر 11-11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 2 آیات کے درمیان جہاں لفظ اللہ دو جگہ متصل ہے وہاں

تدبیر مجلس عزاء شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم 24 رجب بعد از مغرب۔ کاظمی ہاؤس B-58 علی پارک سکھ پورہ باغیانہ لاہور۔ منجانب سید انجم رضا کاظمی 0323-8417818

تدبیر مجلس عزاء شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم 24 رجب بعد از مغرب۔ کاظمی ہاؤس B-58 علی پارک سکھ پورہ باغیانہ لاہور۔ منجانب سید انجم رضا کاظمی 0323-8417818

تدبیر مجلس عزاء شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم 24 رجب بعد از مغرب۔ کاظمی ہاؤس B-58 علی پارک سکھ پورہ باغیانہ لاہور۔ منجانب سید انجم رضا کاظمی 0323-8417818

تدبیر مجلس عزاء شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم 24 رجب بعد از مغرب۔ کاظمی ہاؤس B-58 علی پارک سکھ پورہ باغیانہ لاہور۔ منجانب سید انجم رضا کاظمی 0323-8417818

تدبیر مجلس عزاء شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم 24 رجب بعد از مغرب۔ کاظمی ہاؤس B-58 علی پارک سکھ پورہ باغیانہ لاہور۔ منجانب سید انجم رضا کاظمی 0323-8417818

مجلس عزاء سرزنی امام ہارگاہ رضا خانی سلسلہ شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 10 مغرب مجلس عزاء شہادت امام رضا صاحب از نماز مغربین بمقام امام ہارگاہ قادیان چھٹیاں شہادیاں اور پینڈی

# www.humaliwalayazadar.com

## مخبر سٹش برائے دین بندش شادی

انجم زیدی ایرانی  
0300-7029176

(نقش سورۃ المود آیت نمبر 118) ۵۳ ۷۳۲۶

رب کریم کی بارگاہ میں التماس ہے کہ وہ ذات رحمن ورحیم بانی امامیہ جنتری بیگم و آغا شاکر احمد اور آغا افتخار حسین کی اہلیہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے جو حضرات پڑھیں وہ ان مرحومین کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں۔ محترم آغا افتخار حسین صاحب ان کے افراد خانہ اور امامیہ جنتری کے دیگر تمام معاونین کو صحت ان کی توقعات خیر اور شفاء عطا فرمائے

ان کو اپنی حفظ و امان  
محمد رکھے۔ آمین  
جنتری تسلیمات!  
میرے شائع شدہ  
حوالے سے امامیہ  
(مستورات)

تعداد میں اپنے  
پیاری کے روحانی  
مجھ حقیر سے رابطہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
جبرائیل

۱۹۳۷	۷۸۲۰	۱۲۱	۵۲۳۶۹۳	۳۷۳۳
۵۲۳۶۹۳	۳۷۳۷	۱۹۳۵	۷۸۱۸	۱۲۳
۷۸۱۶	۱۲۳	۵۲۳۶۹۳	۳۷۳۵	۱۹۳۸
۳۷۳۸	۱۹۳۶	۷۸۱۹	۱۲۰	۵۲۳۶۹۳
۱۲۳	۵۲۳۶۹۳	۳۷۳۶	۱۹۳۹	۷۸۱۷

وَاللّٰمِکُمُ النَّوۡۤا وَّجَدَّ النَّوۡۤا لَوۡۤا لَوۡۤا الرَّحِیْمِ الرَّحِیْمِ  
اِسْرَافِیْلُ  
وَاَلۡرۡحٰمِۤہُمۡ لَوۡۤا لَوۡۤا اَلۡرۡحٰمِۤہُمۡ لَوۡۤا لَوۡۤا  
مِکَآئِیْلُ

میں اضافہ فرمائے  
میں بصدقہ محمد و آل  
محترم قارئین امامیہ  
امامیہ جنتری میں  
مختلف مضامین کے  
جنتری کی خواتین  
قارئین جس کثیر  
مسائل کے اور  
حل کے سلسلہ میں

کر کے میری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کرتے رہے ہیں اس سے مجھے خواتین کے لیے خاص کر لکھنے کا حوصلہ ملتا تاکہ میں امامیہ جنتری کی خواتین کی خدمت کے اس روحانی سلسلے کو جاری رکھ سکوں۔ لہذا درج ذیل نقش برائے وسعت رزق، دفع نظر بد اور دفع بندش شادی پیش خدمت ہے۔ درج ذیل سورہ صود کی آیت نمبر 118 کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پورے گھر کو پلایا جائے ان شاء اللہ اس آیت قرآنی کی برکت سے ہر قسم کی نظر بد گھر سے دور ہو جائے گی۔ اس نقش کو گھر میں فریم کر کے لگانا ہے، زعفران، عرق گلاب اور کیوڑہ سے لکھ کر تمام گھروالے بازو یا گلے میں پہننے۔ قارئین ادارہ افتخار بک ڈپو اور میرے حق میں دعائے خیر کریں سورہ البقرہ آیت نمبر 163 سورہ الاعراف آیت نمبر 56 سورہ الحجر آیت نمبر 47۔ یہ آیات نقش کے تینوں طرف لکھی گئی ہیں۔ نوٹ: نقش کے کونے پر نقش کی چال دی گئی ہے نقش میں تحریر نہ کریں۔

## وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفِينَ

سورہ صود  
آیت نمبر 118

مزید ذہرا انجم زیدی ایرانی سرپرست ادارہ فیض حسینی کراچی Naginazahraanjum110@gmail.com, 0336-9272110

۱۹۶	۱۹۹	۲۰۲	۱۸۹
۲۰۱	۱۹۰	۱۹۵	۲۰۰
۱۹۱	۲۰۳	۱۹۷	۱۹۳
۱۹۸	۱۹۳	۱۹۲	۲۰۳

اللہ کریم جیسے تیری کبریائی کا واسطہ یا اللہ جیسے تیرے محبوب کا واسطہ یا اللہ جیسے جناب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا واسطہ فلاں جنت فلاں کے نکاح کی بندش کا شاکر ہو اور فلاں کی شادی جلد ہو آمین۔

قیہ حصہ نقش شادی میں رکاوٹ پر یا آہنی قلم سے جاندی کی تختی پر کندہ کر کے خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھے ان شاء اللہ جلد نکاح کا پیغام آئے گا اور بندش وغیرہ کا خاتمہ ہوگا اور وہ یہ نقش یہ۔ جو نقش خود نہ تیار کر سکیں وہ رابطہ کر کے ہم سے نقش تیار شدہ منگوا سکتے ہیں۔ نوٹ کاروبار، دکان، گھر میں برکت کا تعویذ لگانے بھیج کر فی سبیل اللہ حاصل کریں۔

## مخدوم سید مبارک علی شاہ شمس۔ گدی نشین دربار مخدوم سید پیر محمد حسین شمس سبزواری الجفری

چشم امام علی رضا قدسی حرس مبارک امام زادہ سید لال حبیب زیدی اسٹیشن ۱۰-۱۱ یقہ۔ بمقام کوٹ غلام محمد خاں لاہور 0302-6816392

سائیں عبداللطیف دامانی

نور زہرا علی المرتضیٰ سٹریٹ محمدی سید اسلام آباد

0333-5638457

# حجرات دامانیہ زائچہ قسمت

محترم قارئین کرام: دعا ہے کہ خداوند کریم بصدقہ پنجتن پاک آفا حسین صاحب کو صحت و سلامتی میں رکھے اور بانی امامیہ جنتری آغا نثار احمد صاحب (مرحوم) کی مغفرت فرمائے جن کی کاوشوں کی بدولت لاکھوں مومنین روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں۔

علم الاعداد کے ذریعہ زائچہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پندرہ کا نقش اس کا بنیادی پہلو ہے۔ یہ نقش ایک سے لے کر ۹ ہندسوں تک ہوتا ہے اور ہر طرف سے اس کی تعداد پندرہ ہوتی ہے۔ ماہرین نے ۹ کے ہندسوں کو تین حصوں پر تقسیم کر دیا ہے ہر طرف سے اس کی تعداد ۱۵ ہوتی ہے۔

بچے دوپہر پیدا ہوا ہو تو ۱۲ تاریخ شمار ہوگی۔ تاریخ دن پیدائش کے اعداد کو نقشہ نمبر ۲ کے مطابق درج کر لیا جائے اگر کوئی عدد دو مرتبہ آئے تو اس عدد کو درج کر کے اس پر خاص نشان لگا دیا جائے اگر وہ عدد تین مرتبہ آئے تو دو مخصوص نشان لگادیں۔ مثلاً ایک شخص ۱۱ اکتوبر ۱۹۴۴ دن کے ۱۲ بجے پیدا ہوا تو عدد تاریخ ماہ سن کے اس طرح حاصل کریں  $44 = 10 + 11$  (صدی کے اعداد نہ لیں)۔ اب ان اعداد کو نقش میں جہاں جہاں یہ ہندسے ہیں وہاں لکھ لیں۔ ان اعداد میں جو ہندسے نہیں ہیں ان کے خانے خالی رہنے دیں۔ مثلاً اس کا زائچہ یہ ہوا صرف دو خانے پر ہیں۔ نمبر ایک پر دو نشان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نمبر ۴ تین مرتبہ آیا ہے اور نمبر ۱ پر ایک نشان ظاہر کرتا ہے کہ نمبر ۴ دو دفعہ آیا ہے۔ اب اس شخص کے زائچہ میں روحانی درجات پر نمبر ۴ ہے جو شمس کا نشان ظاہر کرتا ہے۔ ذہین درجات خالی ہے مادی درجات میں نمبر ۱ ہے۔ جو دو دفعہ آیا ہے۔ یہ بھی شمس کا نشان ہے۔ ان درجوں کے نمبروں کی تفصیل یہ ہے۔

	۴	
		۱

(۱) شخصیت۔ انانیت۔ حکومت و تسلط۔ اقتدار پسندی۔

(۲) انقلابات۔ عدم استقلال۔ سیاست۔ قسمت میں مدوجزر۔

(۳) ترقی و وسعت۔ افزائش ثروت و امارت

(۴) تکمیل خواہشات، عملی نتائج۔ غرور۔ خودداری

(۵) ذہانت۔ علمیت۔ مستعدی۔ تجارت۔ زبان بندی۔ سائنس

(۶) فنون لطیفہ۔ شعر و سخن حسن معاشرت۔ محبت۔ ہمدردی۔ خلق و مروت۔

(۷) روحانی صفت۔ ذاتی امر۔ ہرولعزیزی بحری سیاحت رفتار زمانہ کا

ساتھ دینا۔ ترقی عروج۔

یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نمبر ۱ شمس کا نمبر ۲ قمر کا نمبر ۳ مشتری کا نمبر ۴ شمس کا نمبر ۵ عطارد کا نمبر ۶ زہرہ کا نمبر ۷ قمر کا نمبر ۸ زحل کا نمبر ۹ مریخ کا عدد ہے۔ اس نظریہ کے مطابق تین حصوں کے ذریعہ نقش کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔

روحانی ۲۔ ذہنی ۳۔ مادی

روحانی اعداد	۹	۴	۲	ہیں
--------------	---	---	---	-----

ذہنی اعداد	۵	۳	۷	ہیں
------------	---	---	---	-----

مادی اعداد	۱	۸	۶	ہیں
------------	---	---	---	-----

یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نمبر ۱ شمس کا نمبر ۲ قمر کا نمبر ۳ مشتری کا نمبر ۴ شمس کا نمبر ۵ عطارد کا نمبر ۶ زہرہ کا نمبر ۷ قمر کا نمبر ۸ زحل کا نمبر ۹ مریخ کا عدد ہے۔ اس نظریہ کے مطابق تین حصوں کے ذریعہ نقش کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔

۲	۴	۹
۷	۳	۵
۶	۸	۱

نقش بلحاظ اعداد

مریخ	شمس	قمر
عطارد	مشتری	قمر
شمس	زحل	زہرہ

نقش بلحاظ سیارگان

اس روشنی میں زائچہ اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا زائچہ بنانا مقصود ہو اور اس کی تاریخ پیدائش معلوم کریں اگر وہ ۱۲ بجے دن سے پہلے ہے تو ایک دن پہلے کی تاریخ شمار کریں۔ مثلاً ایک شخص ۱۲ اکتوبر کو ۱۰ بجے قبل از دوپہر پیدا ہوا ہے تو ۱۱ تاریخ زائچہ علم الاعداد میں شمار ہوگی اور اگر ۲

www.humaliwalayazar.com

www.humaliwalayazar.com

(۸) بربادی۔ امراض۔ موت۔ دیوانگی۔ نقصانات۔ اخلاقی زوال اور ناکامی۔  
(۹) آزادی قوت ارادی۔ سرگرمی عمل۔ مستعدی انہماک۔ جوش، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ آتش مزاجی۔

اب مندرجہ بالا زائچہ میں مادی طور پر یہ نمبر ۳ کی تکمیل خواہشات اس کی قسمت کا لازمہ ہوگا۔ غرور خودداری کا پتلا ہوگا اور نمبر ایک شخصیت اقتدار پسندی کی ہوگی۔ نمبر ایک شمس کا ہے اور نمبر ۳ بھی شمس کا ہے۔ گویا اس شخص کا ستارہ شمس ہے اگر اس کی تاریخ پیدائش کے نمبروں کو جمع کر دیں تو  $2 = 11 + 10 + 44 = 11$  ہوگا۔ اس کیلئے ۲ تاریخ ہمیشہ سعد ہوگی اور جن تاریخوں کا مجموعہ ۲ ہو وہ بھی سعد ہی رہیں گی یہ یاد رہے کہ مکرر ہندسوں کا مطلب یہ ہے کہ شمس روحانی زندگی میں ترقی اور مادی ترقی میں دوگنی مدد کرے گا۔ ایسا شخص دنیوی مال و دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور اگر روحانی طور پر شہرت حاصل کرنا چاہے پھر ایسے کام اختیار کرے تو بہت جلد مشہور ہو جائے گا جو شمس کے ماتحت ہیں۔ اگر کسی شخص کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں صرف نام معلوم ہے اس کا پیدائشی نام لیں اس کو علیحدہ علیحدہ حرفوں میں لکھیں ان کے نیچے اس کی مادی قوتیں لکھ دیں اب اس حرف کو زائچہ میں لکھ دیں اگر مکرر یا سہ مکرر آیا ہے تو اسکی تعداد اور ہندسوں میں لکھ دیں مثلاً محمد علی کا زائچہ اعداد یہ ہوگا۔

۲	ح	۴	د	ع	ل	ی
۴	۸	۴	۴	۷	۳	۱
د	ح	د	د	ز	ج	۱

اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعداد میں نمبر ۳ تین دفعہ اور نمبر ۸ ایک دفعہ آیا ہے۔ ذہنی اعداد میں نمبر ۷ اور نمبر ۳ ایک ایک دفعہ آیا ہے۔ جبکہ مادی اعداد میں نمبر ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس شخص کی شخصیت کا تجربہ یوں کریں گے کہ مادی ذہنی اور روحانی طور پر اس کی قوتوں کا توازن کیا ہے۔ مثلاً دکی قوت ۳ ہے تو کل قوت ۱۲ ہوگی ح کی قوت ۸ ہے چونکہ نمبر ۳ کی تشریح تکمیل خواہشات پر مبنی ہے اور نمبر ۸ بربادی اور ناکامی ہے تو مادی لحاظ سے تکمیل خواہشات اور ناکامی کی نسبت ۳، ۳ کی ہے اور روحانی لحاظ سے نمبر شخصیت میں اتانیت کا مرتبہ بلند کرتا ہے اور نمبر ۳ ترقی اور وسعت لاتا ہے اس لئے روحانی نظریہ

کرے گا۔ ذہنی اعتبار سے اس کے ۷ نمبر ہیں یہ روحانی صفات کا ہو گا۔ اور ہر عنصر اور تفریح کا شائق ہوگا۔ اس شخص کا روحانی ستارہ مشتری ہوگا ذہنی قمر اور مادی شمس و زحل ہیں مادی زندگی میں ۱۲ گنا اور زحل ۸ گنا مدد دے گا شمس کامیابی اور زحل ناکامی کا ستارہ جیسا کہ دونوں مادی عناصر کے متعلق بتایا گیا ہے شمس سب سے باقوت ہے اس لئے محمد علی کا ستارہ شمس ہے اور شمس قوتوں کے ذریعے مادی امور میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے شمس قوتوں کا مطلب نمبر ایک کی قوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں اسے افسرانہ پوسٹ پر کام کرے یا کسی ذمہ دارانہ یا خود مختار عہدہ کا حامل ہونا چاہیے۔ پھر وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ ہم نے اس مضمون میں مقدمہ بھران حروف اور اس سے تیار کردہ عمل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی الجھن ہو تو مدد لے سکتے ہیں۔ آخر میں ادارہ کی پوری ٹیم کی صحت و سلامتی اور روحانی ترقی کیلئے دعا کریں اور مجھے گنہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام دعا گو۔ سائیں عبداللطیف دامانی

### محمد علی کے وسعت رزق و مال کی ترقی

ریاض حسین شاہ نیچر (ر) 0303-9215921  
مکان نمبر 3/5-3 فٹیش امام جعفریہ مسجد اسکندریہ آباد میاںوالی

دعا برائے وسعت رزق و ادائیگی قرض کم از کم 40 دن مسلسل صبح کی نماز کے بعد اسے 10 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر نائے ہو جائیں تو 2 تین ماہ تک جاری رکھیں۔ ایک مومنہ خاتون کو کسی عالم دین نے اس دعا کا ایک لاکھ کی تعداد میں پڑھنے کو کہا تھا۔ وہ مرحومہ (آج سے 20-30 سال قبل زندہ تھیں) فرماتی تھی کہ مجھے اس دعا سے بہت زیادہ فائدہ ملا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اور باقی اوقات میں جتنی تعداد میں پڑھ سکیں عرصہ کی کوئی پابندی نہیں کہ کتنے ماہ میں ایک لاکھ کی تعداد پوری کریں۔ دعا یہ ہے

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِقَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

بہتر ہے کہ اول و آخر 5-5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ حفاظت جان کے لیے فرمان معصوم ہے کہ جب گھر سے باہر جانے لگیں تو ایک مرتبہ سورہ القدر مبارکہ پڑھ کر 7 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیا کریں تو گھر واپس آنے تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہونگے۔ ان شاء اللہ۔

رشتوں میں رکاوٹ اور اولاد نرینہ کے مسز نقوی  
0332 4662358  
0322 4179311  
بے صرف خواتین واسطہ کریں۔

# علم نجوم ایک معتبر روحانی علم

**ابن مظفر شیرازی (روحانی مشیر)**  
673/3/D-2 گرین ٹاؤن لاہور  
0336-4811952, 0302-2323319

علم نجوم ایک معتبر اور نہایت پاکیزہ علم ہے جو رب کریم کے پیارے نبی حضرت ادریسؑ پر نازل ہوا تھا۔ اسی علم کی طاقت سے حضرت ادریسؑ نے طوفان نوح کی خبر 150 سال قبل دے دی تھی۔ رب کائنات نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے خالی از حکمت نہ ہے معمولی سے معمولی چیز بھی اپنا مقام رکھتی ہے یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں مہلک ترین امراض کا علاج ثابت ہوتی ہیں چھوٹی سی شہد کی مکھی منوں شہد پیدا کر کے مخلوق خدا کے کام آ رہی ہے۔ چھوٹا سا پتھر عقین پہن لیں تو تقویت قلب کا باعث ہوتا ہے اسکا کشتہ بنا کر کھائیں تو قوت باہ شدید تر ہو جاتی ہے الغرض میرے خالق کی بنائی ہوئی کوئی چیز حکمت سے خالی نہ ہے اور ہر چیز کسی نہ کسی حوالہ سے انسانی خدمت پر مامور ہے اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے نائب کو اشرف المخلوقات بنا کر حاکمیت عطا کر رکھی ہے۔ علم سیارگان رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ خالصتاً قرآنی علم ہے سورہ النحل میں ارشاد رب کریم ہے "اس نے تمہارے لیے رات اور دن سورج اور چاند ستاروں کو اپنے حکم سے تمہارے تابع (کام کرنے کو لگا دیئے) بنا دیا ہے اس میں صاحبان عقل و شعور کے لیے بہت سی نشانیاں پوشیدہ ہیں" رب کریم نے واضح ارشاد فرمایا ہے رات، دن سورج چاند اور ستارے انسان کے تابع (کام کرنے کو لگا دیئے) کر دیئے گئے ہیں مگر ان سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو فہم و ادراک اور عقل و شعور رکھتے ہیں اور تحقیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے "ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے اور پھر منادیا رات کا نمونہ اور بنا دیدن کا نمونہ دیکھنے کو تا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو یہ سب چیزیں ہم نے کھول کر سنائی ہیں" اس سے بڑی اور وضاحت کبھی ہوگی کہ میرے پروردگار نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ دن اور رات کا جو چکر ہے اس سے تم اپنی منزلوں کا تعین کرو۔ دن، مہینوں اور برسوں کا حساب رکھو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پرانے وقتوں کا انسان اسی گردش لیل و نہار سے اپنے نظام الاوقات کا تعین کرتا تھا۔ جب دب اکبر (ستاروں کا جھرمٹ) جسے پنجابی زبان میں (ترکڑ) کہتے ہیں فلاں جگہ پہنچے گا تو رات کے 3 بج رہے ہوں گے، جب قطب ستارہ فلاں جگہ پہنچے گا تو یہ تہجد کا نام ہوگا، جب (کھتیاں) (چند چھوٹے ستاروں کا جھرمٹ) قطب ستاروں سے اتنے فاصلوں پر ہوں گی تو رات کا فلاں پہر ہوگا اور اس وقت اتنے بج چکے ہوں گے۔ جب ہم بچے تھے اور دروازے کے گاؤں میں رہتے تھے تو ان دنوں سکول کے بچوں نے لکڑی کی ایک ڈنڈی زمین میں گاڑ کر اسی کے سائے سے اندازہ لگا رکھا تھا کہ اس وقت اتنے بجے ہیں اور اتنی دیر بعد سکول لگ جائے گا۔ سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے "وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن اور مقرر کیں ان کی منزلیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب پہنچا سکو۔"

یہ سب کچھ رب کریم نے یونہی نہیں بنایا مگر تدبیر سے۔ تمہارا رب ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو فکر و تدبیر رکھتے ہیں" سورہ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے۔ "چاند اور سورج ایک مکمل حساب کے تابع چل رہے ہیں" مندرجہ بالا آیت قرآنی اور فرمودات ربانی سے یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ سورج چاند ستاروں کو یہ چکر یونہی نہیں بلکہ اس میں میرے پروردگار کی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور صاحبان عقل و شعور ان حکمتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور فضل ربی تلاش کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کے لوگ اپنے شعور کے مطابق نظام الاوقات کا تعین کرتے تھے۔ بچے سکول جانے سے قبل ڈنڈی لگا کر اس کے سایہ سے سکول کھلنے کے وقت کا تعین کرتے تھے۔ جبکہ ماہرین علم نجوم اس متبرک اور پاکیزہ علم سے انسانی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ ارشاد ربانی کی روشنی میں اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اپنے رب کے فضل سے مخلوق خدا کو گرو پیش سے باخبر رکھتے ہیں تاکہ حضرت انسان حوادث زمانہ سے بچ کر اپنے لیے بہتر راستے تلاش کر سکیں۔ جس طرح طبیب نبض دیکھ کر اپنے مریض کا مرض معلوم کرتا ہے یا ڈاکٹر سائیکھسکوپ لگا کر مریض کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار سے اس کے مرض کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ماہر علم نجوم سیارگان کی حرکات و سکنات سے نجومیت و سعادت سے آنے والے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اپنے معمول کو حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہے۔ سیارگان دوران گردش مختلف بروج میں داخل ہو کر مختلف اثرات قائم کرتے ہیں۔

اس متبرک اور پاکیزہ علم سے انسانی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ ارشاد ربانی کی روشنی میں اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اپنے رب کے فضل سے مخلوق خدا کو گرو پیش سے باخبر رکھتے ہیں تاکہ حضرت انسان حوادث زمانہ سے بچ کر اپنے لیے بہتر راستے تلاش کر سکیں۔ جس طرح طبیب نبض دیکھ کر اپنے مریض کا مرض معلوم کرتا ہے یا ڈاکٹر سائیکھسکوپ لگا کر مریض کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار سے اس کے مرض کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ماہر علم نجوم سیارگان کی حرکات و سکنات سے نجومیت و سعادت سے آنے والے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اپنے معمول کو حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہے۔ سیارگان دوران گردش مختلف بروج میں داخل ہو کر مختلف اثرات قائم کرتے ہیں۔

روز و عیاش شہادت امام حسینؑ 1045 ہجری بمقام امام بارگاہِ قصر خراسان لاہور سادات کبیرہ کا روز کا کاروان شہزاد علی اکبر



جن کا انسانی زندگی پر بالکل اسی طرح اثر ہوتا ہے جیسے بیماری اور تندرستی، گندگی اور صفائی یا پھر اچھی اور بری خوراک کا۔ علم نجوم تمام روحانی علوم کی بنیاد ہے۔ علم جفر، علم الاعداد، علم مل، علم فراست کے بنیادی اصول بھی اسی علم پر مبنی ہیں۔ یہ علم اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہ ہے اس علم کا ماہر بھی تمام عمر طالب علم ہی رہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے کہ علم نجوم ایک معتبر اور پاکیزہ علم ہے جو پیغمبروں اور آئمہ طاہرین کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے اس علم کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ماہر علم نجوم غیب دان ہوتا ہے۔ علم نجوم کے ماہرین جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں وہ سیارگان کی حرکات و سکنات سے اور ان کے مختلف بروج میں داخلے سے پیدا ہونے والی صورت حال سے کرتے ہیں جو بعض اوقات غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ حساب دان یا ماہر علم نجوم جتنا زیادہ صاحب فہم و ادراک ہوگا اسکی پیشین گوئی اتنی ہی حقیقت کے قریب ہوگی کیونکہ اس علم کے حصول کے لیے عامل کی محنت شاقہ اور پر خلوص لگن کارفرما ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے "ہم نے چاند اور سورج کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں" شمس و قمر کی جن منازل کا رب کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ صاحبان عقل و شعور نے ان منازل کو نام دے رکھے ہیں۔ چاند یا سورج جس منزل پر ہوتے ہیں ان کی گردش انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلاً چاند جب ہر ماہ برج ثور میں داخل ہوتا ہے تو اسے شرف حاصل ہوتا ہے جسے شرف قمر کہا جاتا ہے یہ بہت سعد اور مبارک وقت ہوتا ہے۔ اس میں ماہرین علم نجوم مخلوق خدا کی بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ اس دوران انسانوں سے اچھے اچھے کام سرزد ہوتے ہیں، عوام کا موڈ خوشگوار رہتا ہے، اس دوران شادی بیاہ، منگنی و گھر یلو تقریبات بہت مبارک ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح چاند جب دوران گردش برج عقرب میں داخل ہوتا ہے تو یہ نہایت ناموافق اور تباہ کن اوقات ہوتے ہیں۔ عوام کے مزاج میں چڑچڑاپن آجاتا ہے جس سے گھریلو جھگڑے، لڑائی مارکٹائی اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات سر پھٹول بھی ہو جاتی ہے۔ ان اوقات میں حادثات، لڑائیاں اور فسادات ہوتے ہیں اس دوران ہونے والی شادی بیاہ منگنی کا انجام بخیر نہیں ہوتا اس دوران بعض بد خصلت عامل لڑائی جھگڑے کروانے، بیمار کرنے، ہلاک کرنے، زبان بندی کرنے، اور دوسروں پر بیماریاں منتقل کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ جدائی کے اعمال بھی انہی اوقات میں ہوتے ہیں اسے قمر در عقرب کہا جاتا ہے۔

الغرض سورج چاند ستاروں کی گردش انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے اسی طرح صاحبان عقل و شعور نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایک انسان پیدا کنی زائچہ کے مطابق کسی ایک سیارے سے منسلک ہے جسکے اثرات تادم آخر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں جب سیارہ دوران گردش مختلف بروج میں داخل ہو کر قیام پذیر ہوتا ہے تو اسکے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں یعنی متعلقہ سیارہ دوران گردش جس خانے میں ہوگا ویسے ہی اثرات اپنے حامل پر مرتب کرے گا۔ اسی طرح جن افراد کا سیارہ زحل ہوتا ہے جسے علمائے نجوم شخص اکبر کہتے ہیں اس سیارہ کے حامل افراد تمام عمر پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اور خدا سے والدین سے یا پھر معاشرہ سے حالات سے شاکر رہتے ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ ماہرین علم نجوم سیارگان کی نحوستوں سے بچنے کے لیے ہر ستارہ کی لوح یا طلسم اس وقت تیار کرتے ہیں جب وہ ستارہ شرف یافتہ ہوتا ہے طلسم پہن لینے یا لوح رکھ لینے سے انسان سیارگان کی نحوست سے بچ جاتا ہے اور بہت سے انعامات بھی حاصل کرتا ہے جو در حقیقت رب کریم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ایک فرد کا ستارہ زہرہ ہے جسے حب و تنخیر کا ستارہ کہا جاتا ہے اسکے شرف میں محبت سے متعلقہ امور، تنخیر خواتین معظمہ و تنخیر کثیر کے کام لیے جاتے ہیں۔ زہرہ کی انگوٹھی پہن لینے یا لوح شرف زہرہ پاس رکھ لینے سے ایک تو زہرہ کی نحوستوں سے بچت ہوگی جبکہ دوسری طرف عورت مسخر ہوگی اب اسکی بیوی تا ا بعدار رہے گی۔ دیگر خواتین اسکی بات مانیں گی اگر کوئی خاتون اعلیٰ آفسر ہو اور اس سے کوئی کام ہو وہ مثبت رویہ اپنائے گی اور حامل کا کام کر دے گی۔ اسی طرح جب ستارہ مرتخ کو شرف حاصل ہوتا ہے تو عالمین جہاں صحت سے متعلقہ بہت کچھ بناتے ہیں وہاں لوح کی ایک انگشتری بھی تیار کی جاتی ہے جو ان افراد کے لیے نعمت خداوندی ہے جن کی قوت مردی کسی وجہ سے متاثر ہو چکی ہو اس کا سو فیصد کامیاب علاج لوہے کی یہ انگوٹھی ہے جو بوقت ضرورت سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لینے سے جوانی بحال ہو جاتی ہے اسی طرح لوہے کی ایک طلسمی انگوٹھی ایسے افراد کے لیے تیار کی جاتی ہے جو امراض خون میں مبتلا ہوں۔ مثلاً انیسیا، ہیمیلسیما وغیرہ۔ اس انگوٹھی کو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں پہن لینے سے امراض خون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور ان انگوٹھیوں پر زیادہ خرچ بھی نہیں آتا۔ جبکہ ڈاکٹر اور طبیب حضرات لاکھوں روپوں سے ان امراض کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر قرآن پاک کی اس مبارک سورہ کی جس میں رب کریم نے

حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی فرعون رئیس ثانی کے درباری نجومیوں کو اس علم پر دسترس حاصل تھی۔ حضرت عیسیٰ کے پیروں کاروں میں اکثریت ایسے دانشوروں کی تھی جو ماہر علم نجوم تھے وفات مسیح سے قبل اس علم کی نہ صرف پوچا جاتی تھی بلکہ اسے مذہب کی ایک خاص شاخ تصور کیا جاتا تھا۔ شہنشاہ گشاہ کا بھائی جسٹس خود بہت بڑا نجومی تھا اس نے اس علم پر بہت ساری کتب تحریر کیں موجودہ صدی میں سر رو بوٹ کبھی سر چارج و ہارن لینڈ اگڈ میں دیکھ کر کسی ایک نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم پر کتابیں مرتب کیں۔ امریکہ میں اس وقت ماہرین علم نجوم کی تعداد 15-20 ہزار کے لگ بھگ ہے میں نے دیکھا امریکی صبح اخبار خریدنے کے بعد پہلی نظر اس صفحہ پر ڈالتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے "آج کا دن کیسا رہے گا" آخر میں سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 61 تا 62 پیش کرتا چلوں "بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اس میں ایک چراغ اور ایک بڑا چمکتا چاند روشن کیا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا نشیون بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار ہونا چاہے۔" علم سیارگان ایک وسیع و عریض علم ہے جس کا احاطہ کرنا مجھ فقیر کے بس میں کہاں۔ یہ علم صرف صاحبان عقل شعور و صاحبان فہم و ادراک کے لیے ہے ہر کس و ناکس کو اس متبرک علم کی حقیقتوں سے کیا سروکار۔۔۔؟

## طلسمات زحل

(شخص اکبر زحل کے چار پائے)

صدیوں پرانی کتابوں سے تحقیق کامل کے بعد تیار کردہ

### لوح طلسمات زحل

شخص اکبر ستارہ زحل کے حامل افراد کے لیے تحفہ خداوندی ہے۔ آزمائیں

ان شاء اللہ دعائیں دیں گے۔ **رابطہ** سید ابن مظفر شیرازی

0336-4811952, 0302-2323319

### نالچ کا مجرب نسخہ

لہسن کا ایک بھوپیلے روز، دوسرے روز ۲، تیسرے روز ۳، چوتھے روز ۴، اسی طرح سے ہر روز ایک عدد بڑھائیں۔ کہ چالیسویں روز ۴۰ ہو جائیں۔ اور اسی ترکیب سے پانی سے نکل لیں اس کے بعد گھٹانا شروع کر دیں۔ یعنی اکتالیسویں روز ۳۹ بھوئے، پھر ۳۸، پھر ۳۷، یہاں تک کہ ایک بھوئے پر آجائیں۔ انشاء اللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ (شعب شہستان رضا)

ارشاد فرمایا ہے۔ "ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، پھر مٹا دیارات کا نمونہ اور بنا دیادن کا نمونہ دیکھنے کو تا کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا کرم فضل اور برسوں کی گنتی و احساب معلوم کرو" اس طرح صاحبان عقل و شعوران سیارگان کی حرکات و سکنات سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے اپنے کمال فن سے بنی نوع انسان کو فیض یاب کرتے ہیں۔ صاحبان عقل و شعور نے دن رات کی 24 ساعتوں کو بھی مختلف سیارگان سے منسوب کر رکھا ہے۔ اگر ساعت سعد ہے تو کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ جس سیارے کی جیسی ساعت ہوگی ویسا ہی کام ہوگا۔ ایک دفعہ ایک صاحب استاد مکرم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ میں نے ایک شخص کو رقم ادھار دی ہوئی ہے رقم لینا ہے میں اسکی طرف جا کر تقاضا کروں یا نہ کروں؟ استاد گرامی نے حساب لگا کر بتایا کہ ابھی نہ جائیں مگر وہ شخص منع کرنے کے باوجود چلا گیا کس طرح بات بڑھی آخر کار سر پھٹوا کر واپس آنا پڑا۔ استاد گرامی فرمایا کہ اگر آپ شام 5 بجے جاتے تو معاملہ خوش اسلوبی سے نپٹ جاتا اور سر پھٹول بھی نہ ہوتی۔ استاد جی نے بتایا جب تم قرض خواہ کے پاس گئے اس وقت زحل کی ناموافق ساعت تھی ایسے میں سوائے جھگڑا فساد کے کیا ہو سکتا تھا جبکہ اسی روز شام 5 بجے مشتری کی سعد ترین ساعت تھی ایک ساعت اچھی تھی دوسرا رقم کا لین دین اور ساعت بھی دولت کے بادشاہ مشتری کی ایسے میں ممکن نہ تھا کہ وہ شخص خوش اسلوبی سے پیش نہ آتا۔ آخر میں قارئین کو ایک خوبصورت حقیقت سے آگاہ کرتا چلوں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ "ہر عورت اس وقت ماں بننے کی انتہائی موزوں حالت میں ہوتی ہے جب قمر اسی حالت میں شمس کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ جب وقت پیدائش ان دو سیارگان کے مابین تھے یعنی جب عورت کی پیدائش کے وقت شمس و قمر کا درمیانی فاصلہ 120 درجہ ہو۔ جسے تثلیث شمس و قمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت عورت ماں بننے کی انتہائی موزوں حالت میں ہوتی ہے اور یہ وقت خوش قسمتی سے ہر ماہ آتا ہے یہ میرے پروردگار کا فضل نہ ہے تو اور کیا ہے کہ علمائے نجوم نے اولاد سے محروم خواتین و حضرات کو ایک ایسا نقطہ عطا کیا ہے جس پر پہنچ کر اولاد کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ عظیم معجزہ علم خالصتاً مسلمان قوم کی میراث ہے مگر غیر مسلموں نے بھی اس پر خاصی تحقیق اور محنت کی ہے اور خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نظام سیارگان پر غور و غرض کرتے ہوئے آج سے کئی ہزار سال قبل بابلی، آشوری اور مصری لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی اور نجومیوں کے بل بوتے پر حکومتیں کیں۔ اسی طرح

ابن مظفر شیرازی (روحانی مشیر)

673/3/D-2 گرین ٹاؤن لاہور

0336-4811952, 0302-2323319

## کینسر یا سرطان کار روحانی علاج

یہ مضمون 2002 کی امامیہ جنتری میں شائع ہوا تھا۔ قارئین کی فرمائش پر اس کی افادیت کے پیش نظر دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ حسب فرمائش سخاوت سے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں اس کا نئے کو ڈنڈی کے پاس کر کے بیٹنگن کے اندر چھجودیں۔ اس طرح یکے بعد دیگر 30 کے تیس کا نئے ایک قطار میں بیٹنگن کے اندر چھجودیں۔ اور اس بیٹنگن کو مریض کے سونے کی چار پائی کے اوپر لٹکا دیں۔ مریض اکثر و بیشتر وقت اس بیٹنگن کے سائے میں گزارے۔ دس یوم گزرنے کے بعد بیٹنگن کو قبرستان میں دفن کر دیں۔ البتہ دفن کرنے سے پہلے ایک نیا بیٹنگن تیار کر لیں تاکہ پرانے بیٹنگن کو اتار کے نیا بیٹنگن فوراً لٹکا دیا جائے اس طرح 40 یوم یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی چار بیٹنگن قبرستان میں دفنانے ہیں بعد ازیں ایک بوتل میں صاف پانی ڈالیں اس پر 70 مرتبہ سورۃ حمد صبح اول و آخر 21 مرتبہ درود بر محمد و آل محمد پڑھ کر دم کریں اور روزانہ نہار منہ کلی کرنے کے بعد تین چار گھنٹ پانی مریض کو پلا دیں۔ اگر یہ پانی چشمہ کا ہو یا بارش کا ہو تو زیادہ نتیجہ ملنے کے امکانات ہوں گے۔



اگر اسکے ساتھ "دھاسہ بوٹی" کا عرق بھی پینا شروع کر دیں تو سونے پر سہاگہ کا کام دے گی۔ "دھاسہ بوٹی" ایک عام سی خود رو جڑی بوٹی ہے جو ساون بھادوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پنساری حضرات کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ میں اسے "قدرتی اینٹی بائیوٹک" کہا کرتا ہوں آدھا پاؤ بوٹی لیں اسے خشک کر لیں اور ایک برتن میں ڈال کر اچھی طرح پکائیں جب ایک پیالی پانی رہ جائے تو پی لیں یہ دن میں تین دفعہ پینا ہے۔ صدقہ پختہ پاک رب کریم مکمل شفا بخشیں گے۔ بالخصوص چھاتی کے کینسر میں مبتلا خواتین کے لیے یہ علاج تحفہ خداوندی ہے۔ چھاتی سے گلٹیاں پھوڑا وغیرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی جب کہ عورت کی قدرتی خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہے تو اپنا علاج خود کرے۔ وضاحت کے لیے جوانی لغافہ ارسال کرنا ضروری ہے۔ دعا گو ابن مظفر شیرازی

علی جعفری راولپنڈی 0333-5579006

کسی بھی مرض کے شافی اور یقینی علاج کے لیے حکیم و طبیب و روحانی معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرض کی کامل تشخیص کرے۔ اگر تشخیص سو فیصد درست ہوگی تو علاج و شفا بھی سو فیصد ملے گی۔ اس مضمون سے استفادہ حاصل کرنے سے قبل یہ امر ذہن نشین کر لیں کہ کینسر بذات خود کوئی مرض نہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے کسی بھی مرض کے بگاڑ، کہنہ پن، ضدی اور ہٹیلٹا ہونا اس مرض کے کینسر میں بگڑنے کا موجب بنتا ہے۔ یعنی جو مرض ضدی اور ہٹیلٹا ہو جاتا ہے پرانا ہو کر بگڑ جاتا ہے وہ کینسر بن جاتا ہے۔ اکثر اوقات جسم میں گلٹیاں بن جاتی ہیں بعض اوقات پھوڑا بن جاتا ہے جو تریبوز کے برابر بھی ہو جاتا ہے۔ ہر جن کہتا ہے اسے کاٹ کر پھینک دو کیونکہ سرجری کے سوا اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے لیکن بیسیوں شواہد سے پتا چلا ہے کہ کانٹے کے باوجود جراثیم ختم نہیں ہوتے بلکہ آگے سے آگے سفر جاری رکھتے ہیں جس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے اپنے تخلیق کار سے رجوع کرنا بنیادی شرط ہے کیونکہ شفاء صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے تخلیق کار کا فرمان عالی شان کچھ اس طرح ہے "جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں ہی اسے شفا دیتا ہوں" الغرض شفا کا اصل سرچشمہ ذات رب کریم ہے موت و حیات و شفا وہی دیتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ اگر طبیب روحانی کامل ہو علوم روحانیہ پر مکمل دسترس رکھتا ہو، با کردار اور راتوں کو جاگنے والا ہو، حب اہل بیت سے سرشار رہتا ہو، رزق حلال کھانے والا سچ گو ہو تو ہر مرض کا کامل اور مکمل علاج کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی مرض نہیں رہتا کیونکہ اس کے پاس چشمہ فیض روحانی سے شفا حاصل کرنے کے راستے موجود ہوتے ہیں۔ اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ کینسر کے علاج کے لیے ایک تازہ صاف ستھرا گول بیٹنگن حاصل کریں جسے کیڑا وغیرہ نہ لگا ہو یعنی یہ اندراور باہر سے درست ہونا لازمی امر ہے۔ بیٹنگن درمیانہ سا ہو بعد ازیں دیسی کیکر کے 30 کانٹے حاصل کریں یاد رہے کہ بیٹنگن کی ڈنڈی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب ایک کانٹا لیں اس پر

0316-5147172 سالانہ عید شہادہ مبارکباد اسلام آباد۔ سید محمد امجد علی شاہ بخاری

# جہرازا اسمائے نورانیہ

تحریر و تحقیق  
ایم غلام عباس اعوان  
0300-6011925

محترم قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! اس سال بلا تمہید ایک لاجواب جعفری قاعدہ پیش خدمت ہے۔ اس قاعدہ کی کلید اسمائے نورانیہ سمجھیں۔ بصیر و خیر ہیں۔  
علا اپنا سوال بسط حرفی کر کے لکھیں۔ ہر حرف کے نیچے اس کے اعداد مفردہ لکھیں۔ ان اعداد کے مطابق سوال میں گنتی کر کے حروف اٹھالیں۔  
کثرت حروف خود ناطق ہوگی۔ بقیہ کو نظیرہ ہم رتبہ سے ناطق کر لیں، بہتر تفہیم کے لیے پانچ مثالیں پیش ہیں۔

**مثال نمبر 1** یا علیم: پاکستان کے لیے کس ملک سے دوستی رکھنا بہتر ہے؟  
بسط حرفی ب ا ک س ا ن ک ی ل ی ی ک س م ل ک

س ی دوس ت ی ر ک ہ ن ا پ ہ ت ر ہ ی  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ا ل ی س د ا ب ت ک ت ا ک  
ناطق ا ل ی و د س ع ت ب ت ا ک  
لا سعودی (عرب) تاب تک

**مثال نمبر 2** یا علیم: کیا پاکستان کی معیشت مستقبل میں مضبوط ہو سکے گی؟  
بسط حرفی ک ی ا پ ا ک س ت ا ن ک ی م ع ی ش ت

م س ت ق م ل م ی ن م ض پ و ط ہ و س ک ی ک ی؟  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ گ ن ک م ت پ و ہ ی ی ا ا  
گن کم بہتری آئے۔ واللہ اعلم

**مثال نمبر 3** یا علیم: حکومت پاکستان معیشت کی بہتری کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرے؟  
بسط حرفی ح ک و م ت پ ا ک س ت ا ن م ع ی ش ت ک ی

پ ہ ت ر ی ک ی ل ی ی ک ی آ ح ک م ت ع م ل ی  
ا خ ت ی ا ر ک ر ی؟  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ب ت ا ک ب ی ک ا م ی ا ت  
ناطق ب ت ا ب ی ر آ ب ک م ی س د  
بتا برآمدی سے واللہ اعلم الغیب

پتہ برائے خط و کتابت دفتر ہفت روزہ ایکشن عبداللہ  
خالد پلازہ غلہ منڈی جوہر آباد ضلع خوشاب  
دفتری اوقات صبح 10 بجے سے 3 بجے پہر تک  
0333-6801653, 0300-6011925

سالانہ امتحان مجلس عزاء 21 جولائی تا 26 ستمبر 2020ء  
سالانہ امتحان مجلس عزاء 21 جولائی تا 26 ستمبر 2020ء  
سالانہ امتحان مجلس عزاء 21 جولائی تا 26 ستمبر 2020ء

# جہرازا اسمائے نورانیہ

تحریر و تحقیق  
ایم غلام عباس اعوان  
0300-6011925

محترم قارئین امامیہ جنتی السلام علیکم! اس سال بلا تمہید ایک لاجواب جعفری قاعدہ پیش خدمت ہے۔ اس قاعدہ کی کلید اسمائے نورانیہ سمجھ۔ بصیر و خیر ہیں۔  
علا اپنا سوال بسط حرفی کر کے لکھیں ۲۲ ہر حرف کے نیچے اس کے اعداد مفردہ لکھیں ۲۲ ان اعداد کے مطابق سوال میں گنتی کر کے حروف اٹھالیں۔  
کثرت حروف خود ناطق ہوگی۔ بقیہ کو نظیرہ ہم رتبہ سے ناطق کر لیں بہتر تفہیم کے لیے پانچ مثالیں پیش ہیں۔

**مثال نمبر 1** یا علیم: سال دو ہزار بیس عیسوی میں پاکستان کے اندر کونسا  
اہم واقعہ پیش آئے گا؟۔

بسط حرفی س ال دو ہ ر ا ر ب ی س ع ی س وی م ی ن  
ب ا ک س ت ا ن ک ی کی ان در ک ون س آ ا ہ م واق ع ہ آ ی ش  
اسمائے نورانیہ س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ہ ب ی م ن ی ا د ا ہ م ا  
ناطق ہ ب ی ک ن ا ق د س ق م ا م  
بھیانک قدس مقام واللہ اعلم

**مثال نمبر 2** یا علیم: کیا دس جون دو ہزار انیس کے بعد نون لیگ  
پاکستان میں اقتدار حاصل کرے گی؟

بسط حرفی ک ی ا د س ج ون دو ہ زار ان ی س کی ب ع د  
ن ون ل ی ک ب ا ک س ت ان م ی ن اق دار ح اصل  
کری کی؟

اسمائے نورانیہ س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ج ہ ز ک ب ب ا س ن ق ت ا  
ناطق ج ہ ز ک ب ب ا و ن ق ت س

جز کہہ باب قوت سن واللہ اعلم  
**نوٹ** ذاتی نوعیت کا سوال بذریعہ جعفریہ سے حل کرائیں گے تو  
100 روپے فی سوال فیس ادا کرنا ہوگی۔

**پتہ برائے خط و کتابت** دفتر ہفت روزہ ایکشن عبداللہ  
خالد پلازہ غلہ منڈی جوہر آباد ضلع خوشاب  
دفتری اوقات صبح 10 بجے سے 3 بجے پہر تک

0333-6801653, 0300-6011925

**مثال نمبر 1** یا علیم: پاکستان کے لیے کس ملک سے دوستی رکھنا بہتر ہے؟

بسط حرفی ب ا ک س ا ن ک ی ل ی ی ک س م ل ک  
س ی دوس ت ی ر ک ہ ن ا پ ہ ت ر ہ ی  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ال ی س د ا ب ت ک ت ا ک  
ناطق ال ی و د س ع ت ب ت ا ک  
لا سعودی (عرب) تاب تک

**مثال نمبر 2** یا علیم: کیا پاکستان کی معیشت مستقبل میں مضبوط ہو سکے گی؟

بسط حرفی ک ی ا پ ا ک س ت ان ک ی م ع ی ش ت  
م س ت ق م ل م ی ن م ض پ و ط ہ و س ک ی ک ی؟  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ گ ن ک م ت پ و ہ ی ی ا ا  
گن کم بہتری آئے۔ واللہ اعلم

**مثال نمبر 3** یا علیم: حکومت پاکستان معیشت کی بہتری کے لیے کیا  
حکمت عملی اختیار کرے؟۔

بسط حرفی ح ک و م ت پ ا ک س ت ان م ع ی ش ت ک ی  
پ ہ ت ر ی ک ی ل ی ی ک ی آ ح ک م ت ع م ل ی  
ا خ ت ی ا ر ک ر ی؟

اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ب ت ا ک ب ی ک ا م ی ا ت  
ناطق ب ت ا ب ی ر آ ک م ی س د  
بتا برآمدی سے واللہ اعلم الغیب

سالانہ قدیمی مجلس عزاء 21 مئی 2020ء صفر 1442ھ امام العصر عارف منزل قادری صاحب چوک علی پور مظفر گڑھ۔ سید محمد رفاقت رائی سالا 2 روزہ عزت میاں سن علی قادری کمپنیشن لاہور۔ عزت کالونی مقب جرنل ہسپتال لاہور

امیر حیدر  
0301-6762979  
0343-8275232  
0333-6821579

## آیات قرآنی سے پریشانیوں کا حل مجرب تسخیر اعظم

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (القرآن)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم (انداز) میں پیدا فرمایا۔ مگر کوتاہیوں کی وجہ سے ہر انسان کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ جس کا حل قرآن مقدس میں ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ہر دکھ درد کا دوا قرآن مقدس میں ہے (القرآن) اور اس کا نکتہ میں بہترین وسیلہ حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پاک ہے۔

استاد محترم نانا ابو آغا حسنین احمد صاحب بہاولپور سے 16 سال تک ناچیز کو علم الاعداد، نجوم، جفر، استخارہ، شرف سیارگان کی تربیت حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں اپنے استاد محترم آغا حسنین احمد قبلہ کی اجازت سے ایسا عمل قارئین کی نظر کرنے کی سعادت کا متمنی ہوں جو تیر بہدف ہے۔

۲۹۸۸	۱۲	۳۰۰۲	۱۲	۲۹۹۹	۸	۲۹۹۵
۳۰۰۰	۱۲	۲۹۹۳	۱۲	۲۹۸۹	۱۳	۳۰۰۱
۲۹۹۳	۹	۲۹۹۷	۱۲	۳۰۰۳	۳	۲۹۹۰
۳۰۰۳	۱۵	۲۹۹۱	۵	۲۹۹۲	۱۰	۲۹۹۸

۱) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِبِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ  
(القرآن پارہ 25 سورۃ الجاثیہ آیت 11)

۲) وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  
(القرآن پارہ 25 سورۃ الجاثیہ آیت 11)

۳) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ  
(القرآن پارہ 25 سورۃ الجاثیہ آیت 12)

۴) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
(القرآن پارہ 25 سورۃ الجاثیہ آیت 12)

**فوائد:** صحت، رزق، سلامتی، تسخیر خلق، الحب، مناسب رشتہ، شادی، غنا، فتنیابی، سفر، تعلیم، بخت کشائی، ہر قسم کی بندش ختم، عہدہ میں ترقی، تسخیر افسران اندر 40 یوم ان شاء اللہ۔

**ترکیب تیاری**  
اعداد نمبر 1 3145  
اعداد نمبر 2 3593  
اعداد نمبر 3 2971  
اعداد نمبر 4 2275

کل مجموعہ اعداد 11984 تفریق 30 = 11954 تقسیم 4 = 2988

باقی 2 اضافہ خانہ نمبر 9 خصوصاً شرف قمر یا نیک ساعت میں محلول مشک و عنبر و زعفران سے یہ نقش لوح مربع آتش چال یا دھات کا بنا سرخ خالص پر کندہ کروا کر پرس میں رکھیں پرس کا رنگ باہر سے سیاہ نہ ہو۔ بے پناہ تسخیر ہو کر ہر جائز مقصد 40 یوم میں حاصل ہوگا ان شاء اللہ۔ کوئی جز کچھ نہ آئے تو خط یا فون سے رابطہ کر کے معلومات فری حاصل کریں۔ امیر حیدر عقب امام بارگاہ جاگیر علی اکبر جاوید کالونی عقب جنرل بس اسٹینڈ بہاولپور (پنجاب)

اوقات رابطہ روزانہ صبح 9 تا 12 شام 9 تا 12 0301-6762979, 0343-8275232, 0333-6821579

بغتنہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ انوار: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

سو سووار: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

منگل: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

بدھ: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيَّ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

جمعرات: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

جمعہ: يَا اللّٰهُ هَمُّوْذُ كُلِّ فِعَالِه

## عمل ہمارے تھکے حاجات

مکمل علامہ بہاول الدین عالمی میں ہے کہ ہزار مرتبہ ہر روز (ہر دن کی نسبت سے ہر کلہ کو) ایک ہفتہ تک حسب ذیل ترتیب سے پڑھا جائے تو حضرت حجت خود اس کی امداد فرماتے ہیں۔ ایک ہی نشست اور ایک ہی مقام پر اور ایک ہی وقت پر اس عمل کو بجالائے۔ اس عمل کے اول و آخر میں زیادہ درود پڑھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ الصّٰبِرِیْنَ الْمَغْرِبِ حَمَائِكُمْ كَمْ هُوْنَ وَالرِّزْقِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَا يَحْتَسِبُوْنَ جَعَلْنَا لِلّٰهِ اِوَاكِنًا كَمْ مِنَ الدِّیْنِ لَا يَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

محمد اکمل خان ماہر علوم مخفی  
0301-4578467  
0333-4578467

# خوشحال کاروبار اعداد کے آئینے میں

قارئین السلام علیکم! شادی اور محبت کے لیے دو اشخاص کے درمیان ذہنی و روحانی ہم آہنگی کاروبار اور بزنس پائرنرشپ کی نسبت قدرے الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک کامیاب بزنس (مالی معاملات) کے لیے موزوں بزنس پائرنرشیا کارکن کے انتخاب کا طریقہ لکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ اختصار سے کام لیا گیا ہے اس کے باوجود یہ طریقہ ان شاء اللہ آپ کے بزنس کے لیے نہایت مفید اور معاون ہوگا کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے بزنس پائرنرشیاور کرکی نفسیات، فطری خامیوں اور خوبیوں کو جانچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے دونوں پائرنرشیاور کرکی درست تاریخ پیدائش سال، مہینہ اور دن کے اعداد کو باہم جمع کریں اور اس کا مجموعہ درج ذیل تفصیل سے چیک کریں۔ تاریخ پیدائش درست معلوم نہ ہو تو دونوں اشخاص کے مکمل نام کے مفرد اعداد نکال کر اس تحریر سے استفادہ کیجیے۔ کسی شخص کا مکمل عددی زائچہ مزید واضح معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ 2017ء کی امامیہ جنتی میں راقم کا شائع شدہ کالم "تعلقات خروف اعداد کے آئینے میں" کا مطالعہ موجودہ تحریر کے ساتھ نہایت مفید ہے۔ مفصل معلومات کے لیے فون کال پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینج madinaturruhaniat اور online palmistry سے منسلک ہو کر بیش قیمت معلومات کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کاروباری ترقی، پائرنرش کے ساتھ مضبوط اور بہترین تعلق اور کارکنوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کے لیے ادارہ ہذا سے روحانی مدد لی جاسکتی ہے۔

اختلاف سے پرہیز کرنا ہوگا ورنہ ان کی کاروباری شراکت باہمی جھگڑوں کی نظر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تعلق کمپنی اور ورکر کے درمیان ہو تو خوب ہے کیوں کہ ورکر کی صلاحیتوں کے مطابق ترقی کا وسیع امکان ہے۔ ایک سے نو تک سبھی اعداد کا ایک دوسرے سے کاروباری تعلق اس طرح ہے 1+1: دونوں لیڈر، محنتی، پرعزم، اور حالات پر چھٹا جانے والے اور اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنے کی صلاحیت سے مالا مال۔ پائرنرشپ کی صورت میں ان کو ایک دوسرے سے سختی سے تعاون کرنا ہوگا اور اختلاف سے پرہیز کرنا ہوگا ورنہ ان کی کاروباری شراکت باہمی جھگڑوں کی نظر ہو سکتی ہے۔ یہ تعلق کمپنی اور ورکر کے درمیان ہو تو خوب ہے۔

تاریخ پیدائش کے لحاظ سے عدد 8 اور عدد 2 کا تعلق کچھ اس طرح ہے: عدد 8 منتظم، پرعزم، خود سزا اور محنتی ہے جب کہ عدد 2 اچھا ماتحت ہے اور حکم ماننے اور کام کے متعلق تفصیلات وغیرہ جمع کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ عدد 8 عدد 2 کی صلاحیتوں کا بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن عدد 2 زیادہ سختی برداشت نہیں کرتا اس لیے عدد 8 کو چاہیے کہ اس پر زیادہ دباؤ نہ ڈالے ورنہ نقصان کا احتمال ہے۔ مجموعی طور پر دونوں اعداد سانچے کاروبار میں یا ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے بہترین ہیں۔ 1+2: عدد ایک لیڈر ہے اور اچھا منصوبہ ساز ہے جبکہ دو ایک اچھا ماتحت ہے اس صورت میں دونوں کی پائرنرشپ سے کاروبار خوب ترقی کرے گا۔ کمپنی کی صورت میں عدد ایک اور دو کے درمیان تعلق بہترین نتائج کا حامل ہوگا۔

یہاں پر تاریخ پیدائش اور نام کے مفرد اعداد سے مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر محترم موسیٰ رضا آفندی صاحب کی تاریخ پیدائش 22-06-1951 ہے

اور محترم شاہ عمران علوی صاحب کی تاریخ پیدائش 15-03-19973 ہے۔ دونوں مل کر ٹورازم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں اشخاص کے درمیان کاروباری صلاحیتیں اور ہم آہنگی اس طرح معلوم کریں گے۔ اعداد نکالنے کا طریقہ جنتی میں دیکھیے۔

موسیٰ رضا:  $1=0+1=10=7+1+1+1=1117$  اعداد اعداد تاریخ پیدائش

$8=6+2=26=9+7+9=1979=1951+6+22$  موسیٰ رضانا نام کا مفرد عدد 1 اور تاریخ پیدائش کا مفرد عدد 8 حاصل ہوا۔

شاہ عمران:  $1=0+1=10=9+1=19=7+6+6=667$  اعداد تاریخ پیدائش

$2=0+2=20=1+9+9+1=1991=173+19+15$  شاہ عمران نام کا مفرد عدد 1 اور تاریخ پیدائش کا مفرد عدد 2 حاصل ہوا۔ دونوں کے نام کا مفرد عدد ایک (1) ہے۔ دونوں لیڈر، محنتی، پرعزم، اور حالات پر چھٹا جانے والے ہیں اور اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنے کی صلاحیت سے مالا مال۔ پائرنرشپ کی صورت میں ان کو ایک دوسرے سے سختی سے تعاون کرنا ہوگا اور معاہدے کی تحریر کے مطابق چلنا ہوگا اور

19 صفحہ چھٹا جوں شبیر جوں شمس گل پاک امام باگہ سادات گورمانی شہر تحصیل کوٹ اور۔ پید خدام حسین بخاری 0306-7879005

ان دونوں کی پارٹنرشپ بہت کامیاب ہوگی۔ جب کہ اسی طرح دونوں اعداد ایک دوسرے کی کمپنی کے اچھے ورکر بھی ثابت ہوں گے اور کاروبار بہترین ترقی کرے گا۔

**2+2:** دونوں اعداد معاونت کرنے والے، امن پسند اور مصلحت کوش ہیں۔ مگر قوت فیصلہ کی کمی کی وجہ سے پارٹنرشپ میں اور ایک دوسرے کی فرم میں زیادہ بہتر نہیں۔

**2+3:** بزنس پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی کمپنی یا فرم میں کامیاب رہیں گے۔

**2+4:** پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے مفید کارکن ہیں مگر ترقی کی رفتار دھیمی ہوگی۔

**2+5:** بزنس پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے مفید نہیں ہیں۔

**2+6:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں ترقی نہیں کر سکتے مگر ایک دوسرے کی کمپنی میں بطور ورکر خوش رہیں گے۔

**2+7:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں اور بطور ورکر ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔ اگر ماڈی معاملات کی بجائے روحانیت پر مل کر کام کریں تو بہت بہتر ہے۔

**2+8:** دونوں اعداد سانچے کاروبار میں یا ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے بہترین ہیں۔

**2+9:** پارٹنرشپ میں اور ایک دوسرے کے کاروبار میں بطور ملازم کامیاب رہیں گے۔

**3+3:** دونوں کی پارٹنرشپ مشروط ہے کہ وہ اپنی خامیوں پر قابو پا کر ایک دوسرے سے تعاون کریں تو خوب ترقی ہوگی ورنہ نقصان ہوگا۔ جبکہ دونوں ایک دوسرے کی ملازمت نہیں کر سکتے۔

**3+4:** دونوں متضاد طبیعتوں کی وجہ سے کمپرومازکی صورت میں بہتر بزنس پارٹنرشپ اور ملازم ثابت ہو سکتے ہیں ورنہ دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے۔

**3+5:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں کامیاب رہیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کی ملازمت میں یا تو لٹیا ڈبو دیں گے یا اپنی طاقتور اور بے چین طبیعت پر قابو پا کر بہت مفید ثابت ہوں گے۔

**3+6:** دونوں اعداد سانچے کاروبار میں یا ایک دوسرے کی ملازمت میں بہت مفید ثابت ہوں گے۔

**1+3:** ایک کی لیڈر انہ صفات عدد تین کے تخیل، ذہانت اور کچھ کرنے کی خواہش کے ساتھ مل کر کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ اس صورت میں عدد تین کو اپنی سستی اور غفلت کو چھوڑنا ہوگا۔ عدد 1 عدد 3 کمپنی کا ورکر ہو تو صرف ایک سیکشن تک محدود رہ سکتا ہے جبکہ عدد 3 عدد 1 کمپنی کے ساتھ اپنی ذہانت، ہمہ گیریت اور جو شیلے پن سے بہت کامیاب ہوگا۔

**1+4:** عدد 1 متحرک اور پرجوش ہے جبکہ عدد 4 محتاط ہے اس صورت میں دونوں کا پارٹنرشپنا مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ عدد 1 عدد 4 کی کمپنی میں کامیاب نہیں ہوگا اور اسی طرح عدد 4 عدد 1 کی کمپنی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر سمجھوتہ کرنا ہوگا۔

**1+5:** دونوں اعداد آزاد، خود مختار اور جدت پسند ہیں اس لیے دونوں اعداد کو اپنی حاکمانہ اور آزاد طبیعت پر ضبط کر کے ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی، اس صورت میں پارٹنرشپ کامیاب ہوگی۔ عدد 1 عدد 5 کی کمپنی میں کامیاب ورکر ثابت ہوگا جبکہ عدد 5 عدد 1 کمپنی میں اپنی آزاد فطرت اور بے چین طبیعت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا۔

**1+6:** عدد 1 اور عدد 6 ایک کامیاب کاروبار چلا سکتے ہیں۔ عدد 6 اپنی نرم اور مقناطیسی طبیعت کی وجہ سے لوگوں کو پیار سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ عدد 1 کو اپنی حاکمانہ طبیعت کنٹرول میں رکھنی ہوگی۔ عدد 1 عدد 6 کی کمپنی میں کامیاب ثابت ہوگا اور اسی طرح عدد 6 عدد 1 کی کمپنی میں کامیاب ہوگا۔

**1+7:** عدد 1 لیڈر، ورکر اور حقیقت پسند ہے جبکہ عدد 7 تنہائی پسند فلسفیانہ طبیعت اور بہت کم مادیت پسند ہے اس وجہ سے عدد 1 عدد 7 کو بار بار مہینز کرے گا اور یہ بات عدد 7 کی طبع پر ناگوار گزرے گی۔ عملی طور پر زیادہ کام عدد 1 کو سنبھالنا ہوگا۔ پارٹنرشپ میں یہ کم زور تعلق ہوگا۔ عدد 1 کو عدد 7 کی کمپنی میں خاص کامیابی نہیں ہوگی۔ جبکہ عدد 7 عدد 1 کی فرم میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔

**1+8:** عدد 1 اور عدد 8 دونوں محنتی، پرعزم اور حصول مقصد کے لیے جان لڑانے والے ہیں۔ ان دونوں کی پارٹنرشپ سے کاروبار کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ان دونوں کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ جھگڑے کی صورت میں نتائج بالکل برعکس ہوں گے اور کاروباری نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح عدد 1 عدد 8 کی کمپنی میں اور عدد 8 عدد 1 کی کمپنی میں بہت ترقی کریں گے بشرطیکہ صبر سے کام کریں اور آپس میں جھگڑا مت کریں۔

**1+9:** عدد 1 اور عدد 9 دونوں محنتی، پرعزم اور حوصلہ مند اعداد ہیں۔



**7+7:** دونوں اعداد میں کاروباری صلاحیتیں نہ ہونے کی وجہ سے بزنس پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی ملازمت غیر مفید ہے اور مالی ترقی میں ناکامی ہوگی۔

**7+8:** کاروباری شراکت میں دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔ جبکہ عدد 7 عدد 8 کے ماتحت کام کرنے میں ناکام ہوگا جبکہ عدد 8 اس کے برعکس ہے۔

**7+9:** مالی معاملات میں پارٹنرشپ کے دونوں اعداد ناموزوں ہیں جب کہ بطور ملازم بھی مادی معاملات میں ترقی نہیں کر سکتے۔

**8+8:** دونوں اگر اپنی جذباتیت پر قابو پالیں تو بہترین بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں۔ ملازمت کی صورت میں بھی ضبط سے کام لیں تو ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔

**8+9:** بزنس پارٹنرشپ کے لیے دونوں کا تعلق میاندہ ہے۔ دونوں اپنی خامیوں پر قابو پالیں تو ترقی کر سکتے ہیں۔ جب کہ ملازمت کی صورت میں ایک دوسرے کے لیے قطعاً مفید نہیں۔

**9+9:** بزنس پارٹنرشپ کی صورت میں درمیانہ درجے تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ جب کہ مالی معاملات میں ایک دوسرے کی ملازمت ان کے لیے مالی فوائد کی حامل نہیں۔

**محمد اکمل خان ماہر علوم مخفی**

مدینۃ الروحانیت، جامعہ حسینیہ وارڈ 13، کروڑ لعل عیسوی ضلع لیہ۔ پنجاب

**ہر حاجت کے لیے محراب درود**

(ہر حاجت کے لیے محراب ہے کثرت سے نماز پڑھنا کہ بعد نماز کریں)

محمد اقبال بھارانی 0333-4279567, 0346-7596514

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلِيَ فِي دَرَجَاتِهِ وَحَسَنَ فِي صِفَاتِهِ وَشَهِدَ فِي تَجَلِّيَاتِهِ وَزَيْنَ الْعَابِدِينَ وَبَاقِرِ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَصَادِقِ فِي أَقْوَالِهِ وَكَاطِمِ فِي بَحْبِجِ أَحْوَالِهِ وَمُتَمَكِّنِ فِي مَقَامِ الرِّضَا وَالْجَوَادِ الْكُفِّ عِنْدَ الْعَطَاءِ وَهَادِي إِلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ وَعَسْكَرِي فِي الْعُرَاتِ وَمَهْدِي إِلَى طَرِيقِ الْيَقِينِ وَإِلَيْهِ أَطِيبِينَ الظَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ

**3+7:** دونوں بہترین بزنس پارٹنر اور بہترین ملازم ثابت ہوں گے۔

**3+8:** پارٹنرشپ اور ملازمت میں بہترین اور بطور افسر و ماتحت طاقتور ٹیم ہیں۔

**3+9:** بطور بزنس مین کامیاب نہیں رہیں گے بصورت دیگر ان دونوں کو سختی سے اپنی خامیوں پر قابو پانا ہوگا تب جا کر کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح طویل عرصہ کے لیے بطور ملازم بھی مفید نہیں۔

**4+4:** دونوں پارٹنرشپ میں اور ایک دوسرے کی ملازمت میں بہترین ہیں۔

**4+5:** دونوں بطور بزنس پارٹنر بہت خوب ترقی کریں گے اور ملازمت میں ناکام۔

**4+6:** ذاتی، کاروباری لحاظ سے اور بطور ورکر ان دونوں اعداد کا بہترین تعلق ہے۔

**4+7:** پارٹنرشپ کے لیے بہترین مگر 7 عدد 4 عدد کی کمپنی میں زیادہ کامیاب نہیں۔

**4+8:** مشترک کاروبار اور ایک دوسرے کی ملازمت کے لیے بہترین ہیں۔

**4+9:** بزنس پارٹنرشپ یا ایک دوسرے کی ملازمت کے لیے ناموزوں ہیں۔

**5+5:** سانچا کاروبار ہو یا ایک دوسرے کی ملازمت، بہت اختلاف رہے گا۔

**5+6:** دونوں اعداد سانچے داری میں مالی ترقی کر سکتے ہیں اور بطور ملازم بھی۔

**5+7:** سانچے داری ہو یا ایک دوسرے کی ملازمت، خراب تعلق رہے گا۔

**5+8:** کاروباری سطح پر سانچے داری اور ایک دوسرے کی ملازمت بہت خوب ہے۔

**5+9:** شراکت کی صورت میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایک دوسرے کی ملازمت کی صورت میں کچھ زیادہ مفید تعلق نہیں ہے۔

**6+6:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں زیادہ مالی فوائد حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کی فرم میں قابل ذکر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔

**6+7:** دونوں اعداد کے درمیان بالکل مختلف رجحانات ہیں جس کی وجہ سے ذاتی زندگی، پارٹنرشپ یا ملازمت کی صورت میں صرف خرابی کے واضح امکانات ہیں۔

**6+8:** بہترین بزنس پارٹنر ثابت ہوں گے۔ ایک دوسرے کی ملازمت میں بھی خوب فائدہ حاصل کریں گے۔

**6+9:** دونوں میں کامیاب بزنس مین بننے کی صلاحیت طاقتور نہیں اس لیے سانچے داری اور ایک دوسرے کی ملازمت میں نمایاں مالی فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔

فرح علی

North America

001 306 715 5513

## اصل خوشی کا راز

ہمارے دماغ میں ایک دن میں 55000 سے 65000 یا زیادہ سے زیادہ 80000 تک خیالات آتے ہیں۔ اس لئے اس کو Monkey Mind کہتے ہیں۔ اس میں 80 فیصد خیالات منفی ہوتے ہیں۔ دماغ ایک بچے کی مانند ہوتا ہے جسے سکھانا پڑتا ہے اور بار بار دہرا کر بتانا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنا Mindset بدلیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں۔ جب ہمیں کچھ حد تک اپنی پہچان ہو جائے گی تو ہمیں سکون اور خوشیوں کو بھی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کسی جاندار کو جب اس کی فطرت سے دور کیا جائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان جسمانی، روحانی، ذہنی اور جذباتی عناصر سے مل کر بنا۔ اور ان چاروں میں سے کسی ایک کا توازن ٹھیک نہ ہو تو زندگی کی گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی۔

انسان اپنے آپ کو زیادہ Physical Being سمجھتا ہے جبکہ جسم ایک لباس کی مانند ہے۔ روح یا Spiritual Being کو سمجھنا اور اس پر Mindset کرنا ہمیں بہت سے مسائل سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ روح کبھی مرنی نہیں جبکہ جسم ایک وقت تک زندہ رہتا ہے۔ جب ہم Physical Being کو سمجھتے ہیں تو ہماری Approach باہر کی دنیا کی جانب ہوتی ہے جو کہ ہمیں نیچے لے جاتی ہے یعنی پستی کی طرف۔ مگر جب ہم Spiritual Being کو سمجھتے ہیں تو ہماری Approach ہمارے اندر کی جانب ہوتی ہے یعنی ہم اپنے ساتھ کام کرتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی روح کے ساتھ کام کرنے سے ہم بلندی کی طرف بڑھتے ہیں۔

**دونوں کا موازنہ:** اصل خوشی کا راز خود کو Spiritual Being سمجھنے میں ہے جس سے ہماری Priorities بدل جائیں گی اور مستقل سکون اور Joy ملے گا۔ Spiritual Being سمجھنے سے Attachments نہیں ہوتیں اور ہم اللہ کی جانب مزید نزدیک ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے علاوہ دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ آپ ہلکا پن محسوس کریں گے اور آپ میں قناعت پسندی آئے گی۔ آپ کسی کے لئے بھی Judgmental نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے اندر کی آواز کو زیادہ سے زیادہ Practice کے ساتھ سنتے جائیں گے اور ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے کہ روح کبھی مرنی نہیں۔ ہم Physical Being کو سمجھنے سے مادیت یعنی دنیا سے منسلک ہو جائیں گے۔ یوں ہم مشکل سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ بھاری پن اور Stress کا شکار ہوں گے۔ ابھی ایک چیز حاصل نہ ہو پائے گی کہ دوسری کی تلاش اور پھر تیسری کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ اصل خوشی کا راز Spiritual Being کو سمجھنے میں ہے۔ Spiritual Being سے مستقل سکون اور Joy ملتا ہے جبکہ Physical Being سے صرف عارضی خوشی ملتی ہے۔ اپنی سوچ اور الفاظ پر خاص توجہ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری خواہشات ہماری سوچ بنتی ہیں، ہماری سوچ ہمارے الفاظ، ہمارے الفاظ ہمارے Actions، ہمارے Actions ہماری عادات (Habits)، ہماری عادات ہمارا کردار (Character) اور ہمارا کردار ہماری قسمت (Destiny) کا تعین کرتا ہے۔ اپنے دماغ کو مثبت سوچوں کی طرف لے کر جائیں اور جب الفاظ ادا کریں تو سوچ سمجھ کر کریں۔ ہر لفظ کی Vibrations اور Energy ہوتی ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اچھی بات منہ سے نکالیں۔ جب سوچ اچھی ہوگی، الفاظ اچھے ہوں گے تو Actions بھی اچھے ہوں گے۔ یہ عوامل آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

اچھی صحبت ❁ منشیات سے پرہیز ❁ مراقبہ (جو کہ بہت اچھی ذہنی ورزش ہے) ❁ ایمانداری کی زندگی ❁ اچھی باتوں کو ماحول میں بھی پھیلانا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اپنے مرحومین مؤمنین کو جہاں کہیں بھی ہوں اس دعا سے یاد رکھیں

دعا برائے مرحومین:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْبَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ تَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَیْرَاتِ اِنَّكَ مُجِیْبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

جو مرحومے ہیں تو ہمیں اور ان کو نیکوں میں باہم ملا دے۔ ہر لفظ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

جب آنکھیں لکس کی مرغوب چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام بینی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ (حضرت علی)

2020

مولانا محمد علی عابد قنبری

علم رمل کی افادیت

10 بجے سے شام 4 بجے بدینہ فی سوال 300 روپے

0302-2830786  
0315-2266569  
0341-2827585

نوٹ: سوال کرنے والے حضرات اپنا مسئلہ ذہن میں رکھ کر 1 سے 16 کے درمیان کوئی سے 4 عدد اپنی مرضی سے لکھ کر پھر فون کریں اور SMS پر جواب نہیں دیا جائے گا۔ کال پر ہی سوال کریں اور جواب حاصل کریں شکر ہے۔

آج ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا میں بدترین اور میں سے ایک سے ہم گذر رہے ہیں اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی کہ غلاظت برائے نامہ رملی حلال و حرام کس کھارے ہیں نہ ریل بھوت اور مکاری مروج پر ہے بڑے چھوٹے کا احترام کب کا ختم ہو چکا ہے۔ رشتوں کا پاس نہیں رہا۔ جبلا جملہ کی نشستوں پر عرض آئی تھی کچھ کرے ہوئے ہیں اور دین میں شکاف کنائز نش کھتے ہیں قتلوں کا وہ دہرا ہے دشت گردی قتل و غارتگری اپنی انتہا پر ہے کوئی پرسان حال نہیں ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہندو سماج کی عکاسی میں لباس تنگ سے تنگ ہوا ہے ہیں۔ عزیمت واضح نظر آ رہی ہے حدیث نبویؐ سے کاست کا رد مل تمہا باتوں سے ہے علم اور علم کا اٹھ جانا۔ ناجائز اور اداوں کا کثرت سے ہونا سنت باز لوگوں کا پیرا ہونا چاہے چھا کیا اللہ کے سولے سے کہنت باز لوگ کون کون فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ملاقات کے وقت سلام کی بجائے گالی گلوچ کا تبادلہ کیا کریں لہذا دین نبویؐ کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے بھی جتنی کہ شیطانیات کے جانوں سے آمیت کی عزت محفوظ نہ رہ سکے اس پر آشوب دور میں اگر کوئی ایسے ہے تو وہ فقط آل محمدؐ کا جنہوں نے ظاہر اور پروردہ کریمی امت کی رہنمائی کی تڑک نہیں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے قول کو فراموش نہ کریں اور دعائے اہل زمانہ میں اپنی زندگی کا حصہ رکھیں حاجات و مشکلات کوان کے حضور رکھیں اور ان سے درخواست کریں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور مشکلات کا حل بھی اپنے ذریعے مالک حقیقی سے ہمیں لے کر دیں کیونکہ ہمیں وہ ایسا ایسا کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسی کہتیاں ہیں اور ہم ان سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ میری ایک گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کر لیں اور وہ یہ ہے کہ نماز اول وقت پادا کریں تو کوئی پریشانی نہیں آسکتی مگر میں خبر و برکت بھی ہوگی مرقع میں اضافہ بھی ہوگا مگر ملا و مافرمان نہیں ہوگی اور سچے زہر تعلیم سے آراستہ ہوں گے صرف عمل شرط ہے۔ لامیہ جنتی میں مضامین اور اس میں اسلامی پہلو کا ہونا ایک عمدہ چارہ ہے اور اس کیلئے لائق صدقین ہیں آقا فخر حسین صاحب جو کاس کے لیے بہت زیادہ محنت فرماتے ہیں دعا ہے خدا کے محمدؐ آل محمدؐ کے بانی جنتی ہا اور آقا فخر احمد (مرحوم) میر سے ہوا اور جو حقیر محمد جعفری دہلی آقا فخر حسین صاحب اور خصوصاً میری والدہ جو 72 سالہ ہیں دار مفارقت دے تکیس ان تمام کے لیے اور اور اور ہمارے مددگار جو من کی بلندی در جرات کے لیے سوہا فتاحی انشاس سے اور آقا فخر حسین صاحب اور میر سے والد محترم کو طول عمر اور صحت کے لئے دعا گو ہوں۔

علم رمل کوئی خیب کا علم نہیں ہے بلکہ انبیاء اور ان کے منسوب علم ہے اور بزرگوں کے تجربیات کا نتیجہ ہے اور ماضی حال مستقبل کا حالات کو بطریق احسن بتا دیتا ہے۔ میرا یہ لامیہ جنتی میں ان مضمون ہے الحمد للہ شازدہ ناز ایسا ہوا ہے کہ دل سے حساب کیا ہوا اور جو باج صحیح نہ آیا ہو حالانکہ ہم صرف فون پر بات کرتے ہیں اور کسی کو بھی اپنے پاس نہیں بلا جاتے اس سے پہلے بھی میں نے کافی علموں سے سوالوں کے جواب دیتا تھا خصوصاً علم الحداد اور علم الساعات لیکن جیسا میں نے علم رمل کو پایا ہے ایسا کوئی اور نہیں ہے میں چھوٹی سی مثال دوں شاید 2012 کا واقعہ ہے کہ میر سے پاس ایک فون آیا کہی کہ تمہا بات کر رہی تھیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 18 سال سے اولاد نہیں ہے میں نے ان کا نام ان کی والدہ کا نام اور ایک سے سولہ کے درمیان چار نمبر پوچھے تا چہ بتایا اور جواب دیا بی بی آپ کی زمین لاکھوں میں تھی جو کرڑوں میں ہوگئی ہے اور آپ کی اولاد تو کیا آپ کے شوہر کے باقی بھائیوں کے پاس بھی اولاد نہیں ہے جتنی زیادہ زمین ہونے کے باوجود آپ کے پاس وارث نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سسر لے اپنی زمین کے ساتھ ملا ہوا ایک گلزار زمین کا جو کہ ایک بڑھ کا ہے اپنی اولاد ہونے کے بعد اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس بیوہ کی بدعا کی وجہ سے آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے جواب میں خاتون نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے دھما سیکر سے علاج کروا چکی ہوں میرے دیر سے تین شادیاں کی ہیں اس میں سے صرف بیٹیاں ہے بیٹا نہیں ہے اور ہاں ہمارے پاس واقعی کسی کے پاس بھی بیٹا نہیں ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری زمین لاکھوں سے کرڑوں میں آگئی ہے اس لیے کہ اس میں سے بائی پاس نکل آیا ہے۔ میرے کہنے پر انہوں نے پتھار میں سے معلوم کر کے دو زمین کا کھرا نکال کے بیوہ کے بچوں کو پاس کر دیا اور مولانا نے کہہ دیا گلے گلے ہی ان کے پاس اولاد نہ تھی۔ میرے خیال میں اتنا گہرائی میں علم رمل کے علاوہ کوئی اور علم نہیں دیکھا میں نے یہ واقعہ مجھ کو لکھا ہے رمل میں ان لوگوں کے لیے بھی کلیہ ہے اور وہ ضمیر کا کلیہ ہے اور وہ یہ ہے دائرہ ابدح سے اور احکام نقطہ جس صاحب کے رمال خانہ پندرہویں کے خانہ آفتی یا بادی کو حرکت دے اور جس خانہ میں نقطہ معنی جو ضمیر اس خانہ کا ہوگا۔ اگر شکل لیجان ہو تو زندگی اور تندرستی اور شکل حمرہ ہو اور حال اور قدم غالب اور اگر شکل خضرہ القارن ہو تو سز و دیک باخبر دوست اور اگر شکل بیاض ہو تا اور جانا اور شکل لہرہ القارن ہو مال اور معشوق اور اگر شکل اجتماع ہو تو کہ بخت اور حاملہ اور اگر شکل عقوبہ القارن تو مال چوری کا اور خطرہ غیب اور نکاح اور اگر شکل انگیس ہو تو لین مال اور خطرہ اور اگر شکل عقلم ہو تو سز و کوجانا اور آقا غالب اور اگر شکل قبض الدامل ہو تو لین مال اور احوال بارہ اور اگر شکل فرخ ہو تا آقا غالب یا اچھا ہونا پتھار کا اور اگر شکل لہرہ القارن ہو تو خلاصی قیدی اور حاملہ اور اگر شکل تھی ہو تو کشائش کا کھلنا اور اگر شکل عقوبہ القارن ہو تو مال اور صحت پتھار اور اگر طریق ہو غالب مع کشائش اور اگر شکل جماعت ہو تو مال اور حمایت دوستوں کا فائدہ بخشش مغفرت۔ اس سے آنے والے کا صرف نمبر بتانے سے پتا چل جائے گا

لفظ نجف ہوں تو عورت ہے اگر برعکس ہوں مرد ہے اس جگہ خانہ چہارم دہم میں اجتماع ہے پس معلوم ہوا کہ سوال عورت کا ہے۔ ہر سال علم رمل کے طالب علموں کے لیے کوئی نہ کوئی محراب کلیہ بتاتا ہوں تو اس سال ایک مختصر اور جامع کلیہ قارئین امامیہ جنتی کیلئے نقل کر رہا ہوں جس خانے کے متعلق سوال ہو اس خانے کی شکل کو طالع کی شکل سے ضرب دیں جو جواب بھی ہوگا انشاء اللہ صحیح ہوگا اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

سوال کیا گیا کہ دوست سے دوستی قائم رہے گی یا نہیں چار نمبر 13,6,13,1 بتائے گئے؟

اس نسبت سے ذاتی سمجھنے اور نظر کرے اگر مال اور چہارم اور علم اور دہم سعد داخل ہیں دوستی زمانہ دوراز تک قائم رہے اگر محسب سے قائم رہے مگر ساتھ دشمنی کے یہ ظاہر ہیں دوستی و محبت ہو اور باطن میں نہ ہو اور خارج سعد بخوشی جہانی ہو محسب خارج حکم ارشاد جنگ و جدل سے مخصوص نہ ہو اور خارج سعد بخوشی جہانی ہو محسب خارج حکم ارشاد جنگ و جدل سے خصوصاً اگر تھی اور حمرہ خانہ ہائے میں ہوں۔ اگر باز دہم


سوال کیا گیا اور چار نمبر 9,11,2,3 بتائے اور ضمیر کا پوچھا؟

لفظ افراد رمل کے شمار کئے تو نجف آئے پس معلوم ہوا کہ ضمیر ازواج کا ہے اور شکل آفتی ہے طالع کی حکم خانہ سیز دہم میں ہے اور شکل منسوب حیوان تاہق ہے پس معلوم ہوا کہ ضمیر آدم کی ہے اگر یہ دریافت کرتا ہے کہ عورت ہے یا مرد خانہ چہارم دہم میں دیکھو اگر اجتماع ہے تو متولد


سالانہ مجلس مزاہ ماہ کا پہلا آواز بمقام 10-11 ایڈیٹن ٹی اور ایڈیٹن ٹی اخبار ماہی اس باقر عباس، جامعہ اہلحدیٰ 0345-9444804 سالانہ مجلس 5 جہاں امام مسجد مسجد قادری آباد ضلع شوہدرہ۔ رانا سکتل عباس 0300 4599537

ہوائے نقش کو اپنی عقل سے منادے تاکہ راست روی اور ہدایت کا مالک ہو جائے۔ (حضرت علیؑ)

2020




سب ہے۔ تو یہاں شکل طالع کو چھٹی شکل سے ضرب دی تو جواب قبض القارج آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے بیماری آسیب کے سبب ہے۔



قبض الدامل نصرۃ الدامل حصۃ الدامل ہو اور بحر اول اور سوم اور پنجم میں کرے دیکھیں قیام دوتی کی ہے۔ ساتھ نثر خوبی کے اور خانہ یاد ہم میں لیجان نصرۃ القارج فرح طریق ہوئے۔ دوتی قائم رہے مگر نثر اور گفتگو تنازعہ کی اکثر ہوا کرے لیکن جلد رفع ہو جایا کرے اگر یاز دہم آئیں

سوال کیا گیا ہے کہ جس عورت سے نکاح ہوگا وہ کسی ہے چار نمبر 3, 10, 13, 16 بتائے گئے؟

اگر شکل اول اور پنجم کو ضرب دیں اور نتیجہ بیاض نصرۃ الدامل قبض الدامل حصۃ الدامل جماعت اور اجتماع حاصل ہو نیک




بخت اور مبارک اور باحیا ہو گی مگر جماعت کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ ہونگی اور اجتماع کی وجہ سے لڑکے زیادہ پیدا ہونگے اور بیاض کی وجہ سے مساوات رہے گی۔ لیجان یا

ہوئے ہمیشہ تازہ رہے اگر مرد یاز دہم میں ہو لیکن اختلاط میں لڑائی جھگڑا ہوگا اگر جماعت یا اجتماع دوتی مگر مرد و عورت باہمی کی ہوئے۔ خانہ اول لیجان کو خانہ چہارم نقی سے ضرب دی تو نصرۃ الدامل نصرۃ الدامل پنجم عقیدۃ الدامل کو خانہ دہم فرح سے ضرب دی تو قبض القارج بنا ایک سعد دامل ہے اور ایک شخص خارج ہے اور خانہ ملازمہ میں آئیں سب دوتی تو رہے گی لیکن مگر افساد جنگ و جدل بھی رہے گا۔

سوال کیا گیا کہ قیدی رہا ہوگا یا نہیں چار نمبر 3, 9, 4, 11 یہ بتائے؟

شکل خانہ اول اور دواز دہم برود خارج سعد ہوں قیدی خاص ہوگا اگر دونوں میں یہ شکلیں ہوں قبض القارج، آئیں، عقیدۃ الدامل




اور عقلم مجبور قیدی رہے گا اور اگر عقلم خانہ اول میں ہو اور شکل پنجم میں ہو یاز دہم اور دواز دہم میں مشکل سے رہا ہوگا ہوتو مجبور قیدی میں رہے گا اگر عقلم ششم میں ہو اور پنجم

نصرۃ القارج ہوا تو حکیم اور خود پسند ہوگی مگر نیک بخت رہے گی۔ اور اگر نتیجہ فرج یا طریک ہو تو بد مزاج اور تمسک اڑانے والی فیروں سے مشق رکھنے والی اور اگر نتیجہ حرہ تھی ہو تو شوہر سے لڑکاس پر غالب رہے گی اگر قبض القارج اور عقلم ہے تو بد شکل بد تمیز اور بے ہنر ہوگی اور اگر حصۃ القارج ہے تو بد کار اور خاندانی دشمن ہوگی اور اگر آئیں ہے تو دشمن ہوگی لیکن دشمنی ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ اس زانچہ میں خانہ اول اور پنجم کو ضرب دی تو حاصل ضرب لیجان نکلا ہے جس کا مطلب حکیم اور خود پسند ہے مگر نیک بخت ہے۔

اور دواز دہم میں مشکل سے رہا ہوگا اور مجبور زیادہ عرصہ قید ہوگا۔ اگر خانہ پانزدہم میں شکل دامل شخص ہوتو مجبور تمام عمر قید رہے گا۔ کیونکہ زانچہ میں خانہ ششم میں عقلم ہے تو مجبور مشکل سے ہی نکلے گا۔

سوال کیا گیا حاملہ کے فرزند ہوگا یا دختر چار نمبر 13, 7, 15, 9 بتائے؟


زچہ کشید کے خانہ پنجم اور یاز دہم میں شکل مذکر ہو تو فرزند پیدا ہوگا۔ اگر شکل مؤنث ہوگی تو دختر پیدا ہوگی۔ اگر



ایک شکل مذکر ایک شکل مادہ ہوتو شکل کون سی طاقت ور ہوگی۔ اس کے موجب پیدا ہوگا یعنی شکل مذکر قوی ہوگی تو فرزند پیدا ہوگا شکل مادہ کی قوی ہوگی تو دختر پیدا ہوگی۔ اگر ہر دو شکل برابر

اگر سوال کیا جائے کہ قیام کس محل میں ہے اور آتا پاتا ہے یا نہیں چار نمبر 13, 2, 14, 12 بتائے گئے؟

اگر شکل پنجم سعد دامل ہے تو خوش و خرم ہے اور ارادہ آنے کا رکھتا ہے اور اگر شکل پنجم کلیس بحر اور



عقلم ہے تو تکلیف اور مفلسی میں ہے اور اگر شکل پنجم تو غائب خوش ہے مگر آنے کا ارادہ نہیں رکھا سعد خارج ہے خوش ہے اور آنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اگر سعد مطلب

ہوں تو غنمی نامزد پیدا ہوگا یا دختر یا فرزند ایک نہ اور ایک مادہ پیدا ہوگا اور شکل عقلماری دیکھ غنمی ہے اور عقلم کی بھی غنمی اگر شکل سعد ہوگی پھر اور دختر نیک بخت ہوں گے اور وقت سے پیدا ہونگے اگر شکل نفس ہو بد بخت ہو یا پاک ہو اور اگر شکل سعد خارج ہو تو آسانی سے پیدا ہونگے اور اگر سعد دامل ہو تو وقت سے پیدا ہونگے اور اگر شکل دامل نفس ہو تو بڑی تکلیف سے پیدا ہونگے اگر شکل خارج مطلب سعد آسانی سے پیدا ہو لیکن حاملہ خوف سے ڈرے۔ مطلب نفس فرزند پاک ہو اور جو بخت سعد ہو حکم دامل سعد ہوگا اگر بخت نفس ہو تو فرزند اور مالک ہے ہر دونوں میں سے ایک مرے شکل پنجم طریک ہے جو سعد ہے اور مذکر ہے اور شکل یاز دہم نصرۃ الدامل ہے جو سعد ہے ہر مؤنث ہے تو ایک لڑکا ہوگا اور ایک لڑکی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

ہے تو غائب راہ میں ہے نفس مطلب ہے تو راہ میں ہے مگر پریشان ہے۔ اس زانچہ میں خانہ پنجم میں قبض الدامل ہے جو کہ سعد دامل ہے لہذا غیب خوش ہے اور آتا چاہتا ہے۔

سوال کیا گیا اور چار نمبر 1, 5, 11, 9 بتائے اور بیماری کس سبب سے ہوئی ہے؟

زانچہ کشید کر کے دیکھو خانہ ششم اور شکل طالع سے ضرب کرو حاصل ضرب کو خانہ ششم میں دیکھو اگر شکل قبض القارج، عقلم اور آئیں ہو تو بیماری آسیب کے سبب ہے اور اگر بیاض اور نصرۃ القارج ہو تو آسیب ہے اور یہ شکل نصرۃ القارج اور قبض الدامل ہو تو جادو کے

پیش حضرت مراد علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے ہاتھوں میں کیا لکھا ہے؟

ڈاکٹر سید مسرور حسین رضوی

0345-2372669

masroorizvi63@yahoo.com

# جادو

جادو اردو زبان کا معروف لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں دھوکا دینا، حیلہ کرنا، فریفتہ کرنا، حقیقت سے پھرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، کسی چیز کو ایسی طمع سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جائیں۔ اس میں مہارت اور تجربہ لازمی شے ہے۔ درحقیقت یہ باطل علم ہے مسلمانوں کے لئے اس کا سیکھنا اور سکھانا اور عمل کرنا کفر ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو جادو جانتے ہیں لیکن جادو کا نام لے کر فریاد کرنے والے اور ناواقف لوگوں کو دھوکا دینے والے بہت ہیں اور دنیا کے ہر ملک اور قوم میں پائے جاتے ہیں درحقیقت یہ لوگ ابلیس کے نائب اور چیلے ہوتے ہیں اور انتہائی شاطر، مفاد پرست اور مکار ہوتے ہیں۔ وہ جنات و شیاطین کی تسخیر کرتے ہیں گندگی اور غلاظت کھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں انسانیت کی رتق بالکل بھی باقی نہیں رہتی اس لئے ان کا حشر بڑا عبرت ناک ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر و بیشتر علاقوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جاہل مرد اور عورتیں جن کا دین سے ذرا بھی تعلق نہیں ہوتا ان شیاطین کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا سرمایہ جو بڑی محنت و اور تنگ و دو کے بعد کمایا ہوتا ہے ان کی نذر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی عزت اور جان عزیز بھی نثار کر دیتے ہیں۔ جادو کی آٹھ اقسام ہیں۔ جادو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو گولی ماری جائے تو وہ اسی وقت مر جاتا ہے لیکن اگر کسی پر جادو کر دیا جائے تو وہ بلک کر سسک سسک کر مرتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہمارے مذہب میں جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہیں۔ یہودیوں نے جناب رسول ﷺ پر جادو کر دیا تھا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نزول کی یہی وجہ ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم دینی علم اتنا ضرور حاصل کر لیں جو ہمیں بنیادی باتوں سے آگاہ کر سکے۔

عقائد ہوں یا معاملات عبادات ہوں یا اخلاق یا معاشرت ہم کو ہر بات کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے تاکہ ہم اسلامی معاشرے کے اچھے فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض کی ادائیگی پوری طرح کر سکیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف رہیں۔ صبح و شام وہ دعائیں پڑھیں جن کی تاکید احادیث میں آئی ہے جن کے پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تھوڑی سی فکر اور توجہ سے ہمارا ہر لمحہ حق تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ بس تھوڑی سی فکر توجہ اور ہمت کی ضرورت ہے۔

**دوسرا طریقہ:** رات کی پہنی ہوئی قمیض یا بنیان لیں اس کو انچی ٹیپ یا فیتے سے ناپ لیں۔ اس کے بعد اس پر سورۃ فلق سورۃ الناس سورۃ اخلاص سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اب قمیض یا بنیان کو پھرنا ہیں۔ اگر قمیض یا بنیان کی لمبائی بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جنات یا آسیب کا اثر ہے۔ اگر گھٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے اور اگر برابر رہے تو جسمانی بیماری ہے۔

**سحر مدفون:** اگر کسی نے جادو کر کے کوئی چیز گھر میں چھپا دی ہو یا دفن کر دی ہو اور اس کا پتہ چلانا ہو تو یہ عمل کیا جائے۔ تو تھوڑے سے پانی پر سورۃ انفطار پارہ ۳، تین مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے۔ اس کے بعد اس پڑھے ہوئے پانی سے گھر کی دیواروں پر چھینٹے مار دیئے جائیں یہ عمل مسلسل تین دن کیا جائے دعا کی جائے کہ یا رب العالمین اگر کسی نے جادو کروا کر کوئی شے چھپا دی ہے یا بادی ہے تو وہ نظر آ جائے، معلوم ہو جائے۔ انشاء اللہ وہ چیز ضرور نظر آئے گی اگر کوئی مشکوک چیز نظر آئے تو اس کو کٹری سے ایک طرف کر کے تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیں اس طرح اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھ سے بالکل نہ پکڑیں۔

جادو شیاطین جنات کا اثر معلوم کرنے کا طریقہ مریض کے سر سے پیر تک، پیشانی سے پاؤں کے انگوٹھے تک نیلے رنگ کے دھاگے کے گیارہ تار لے کر اکٹھا کر لیں۔ اب اس ڈورے کے تار سے مریض کا قدناپیں یعنی پیشانی سے انگوٹھے تک۔ اس کے بعد ڈورے کے ان گیارہ تاروں کی چار تہہ کر لیں اس کے بعد دھاگے کے ایک سرے پر ڈھیلی گرہ لگائیں سورۃ فلق ایک مرتبہ پڑھیں اور گرہ پر پھونک مار کر کس دیں گرہ بند کر دیں اسی طرح گیارہ گرہیں لگائی جائیں اور پھونک مار کر بند کر دی جائیں۔ اب دھاگے کو جلتے ہوئے کونکوں پر ڈال دیں۔ دھاگہ جب جلتے گا تو اس میں سے بد بو آئے گی۔

## علم جفر کے گرہات حرفی

ڈاکٹر خالد شفیع السیح کلینک نزد ریلوے اسٹیشن بمبکر  
0334-6965512

**ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ** ن حروف مقطعات یا روحانی حروف سے اس کا تعلق ہے ن کے اعداد قمری 50 جن کا مفرد عدد 5 بنتا ہے اور ملفوظی نون کے اعداد 106 ہیں جن کا مفرد عدد 7 ہے اور جدول ابجد شمسی میں ن کے مفرد عدد 7 ہیں اور نون = ن و ن کے مفرد عدد 7 ہیں یہ روحانیت میں باکمال عدد ہے حرف ن کی منزل سماک اور اس کا موکل خولائیکل ہے ن کا عنصر بادی اور سمت اسکی مغرب ہے وہ اسماء جن کے حروف ن آتا ہے وہ اپنے اندر مقناطیسی کشش رکھتے ہیں جو کہ ہر قسم کی بندشیں، رکاوٹیں ختم کر کے زندگی کی کامیابی کی راہیں کھول دیتے ہیں اور یہ لوح بند تالوں کی چابی ہے روحانی جسمانی نکالیف گھریلو ناچاقی روزگار کا نہ ملنا شادی میں رکاوٹ جو کہ ایک مرتبہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے ناکامیوں کے بعد کامیابیوں کا آغاز اور خوشگوار زندگی پیام مسرت اور قسمت کا عروج میں ہونا اس لوح ن میں پوشیدہ ہے۔

**طریقہ اپنا مکمل نام و مقصد کے حروف اور نقاط گن کر پھر ان اسماء کے نام کے حروف اور نقاط گن لیں پھر ان دونوں کو جمع کر کے 21 عدد نفی کر کے خانہ نمبر 13 تا 16 تک لوح کو اعداد میں تبدیل کر کے حروف میں پڑ کر لیں مثال عرفان رضا کے کاروبار میں ترقی ہو۔**

حروف 26 نقاط  $10 + 26 = 36$  یا حنان یا منان یا سبحان یا دیان یا سلطان یا حسن یا حسین کے حروف و نقاط 43 ہوئے دونوں کو جمع کیا  $36 + 43 = 79$  نفی 21 عدد ہوئے بقایا 58 کو حروف بنا کر لکھیں۔

علم جفر کے قاعدے کے مطابق

مثال اعداد 58 59 60 61  
حروف میں ح ن ط ن س اس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ	
8	ح	11	هو
13	ح ن	2	ب
3	ج	16	اس
10	حب	5	ه

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ یا حنان یا منان یا سبحان یا سلطان یا حسن یا حسین عرفان رضا کے کاروبار میں ترقی ہونے ن ن ن ن ن ن ن

**جادو کرنے والے کا پتہ چلانا** گیارہ دن کا عمل ہے۔

جمرات سے شروع کیا جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے درمیان 1100 مرتبہ پڑھیں۔  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سبحانك لا اله الا انت یارب كل شیء دعا کر لیں۔

**دوسرا عمل** سوتے وقت وضو کر لیں۔ دائیں کروٹ لیٹ

جائیں۔ درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام بلا گنتی پڑھتے سو جائیں۔ دل میں خیال رکھیں کہ جس نے بھی کچھ کیا ہو نظر آ جائے۔ جب بھی سونے لگیں یہ عمل کریں انشاء اللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔

**یانور۔ یا باسط۔ یا ظاہر** پڑھے جائیں گے۔

جادو سے متعلق جو سوالات انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ جادو کس نے کیا؟

جادو کس طرح کیا گیا؟ جادو کروانے والا کوئی مرد ہے یا عورت یا مشرک کہ طور پر کروایا گیا؟ جادو کروانے والا کوئی قریبی عزیز ہے یا کوئی خونی رشتہ رکھنے والے نے کروایا؟

ان تمام سوالات کے جوابات علم رمل کے ذریعے سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ جو کہ انبیائی علم ہے جو انگریزی زبان میں (GEOMANCY) کہلاتا ہے۔ جس کے سے مکمل معلومات کسی ماہر رمل کے ذریعے سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

تحریر و تحقیق: ڈاکٹر مسرور حسین رضوی (کراچی)  
رابطہ: 0345-2372669-0311-6869786 سوبائل بند ہونے کی صورت میں (SMS) کریں۔

Whatsapp: 0345-2372669-0311-6869786

Google Search: Syed Masroor Hussain

Rizvi Web: talasheim.blogspot.com

## مناجات امیر المومنین حضرت علیؑ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ فِيْ عِزِّكَ اَنْ اَكُوْنَ لَكَ عَبْدًا وَّ كُنْ لِيْ فِيْ فَخْرِكَ اَنْ تَكُوْنَ لِيْ رَبًّا اَنْتَ كَمَا اُحِبُّ فَاجْعَلْ لِيْ كَمَا تُحِبُّ

**ترجمہ** میرے مہبود میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے تو ایسا ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں میں مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے (مفاتیح الجنان)

حکیم شاعر اہلبیت  
خضر عباس پیاسی  
0346-7328884  
0333-6431553

# لوح فتوحات عظیمہ

خداوند تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اس پر آشوب دور میں سچے دل سے خداوند قدوس کو یہی چارہ ساز بناؤ۔ وہی رحم کرے تو سب کچھ ہے ہر شخص آرام کی زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہے مگر قدرت کی طرف سے غیب سے امداد ہو تو سب مسائل حل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خزانے بھر پور ہیں وہی مدد فرمائے تو کام بنے گا۔ اگر ہم خداوند قدوس کے حضور عاجزی و انکساری سے درخواست کریں تو اس ذات بابرکت کے لیے ذرا بھر بھی مشکل نہیں ہے کہ غیب کے خزانے اور فتوحات کے تمام دروازے کھول دے۔ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ نصر میں حضرت محمد ﷺ کی فتوحات عظیمہ کی بشارت دی گئی ہے۔ اس عظیم سورہ مبارکہ اور مقدس دعا سے **لوح فتوحات عظیمہ** تیار کرنے کا مجرب و لاثانی طریقہ تحریر کر رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے علم کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے کہ اثرات و برکات اس لوح میں پنہاں ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس لوح کی برکت سے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔

یہ لوح ایک چلتا جادو ہے جس کے طلسماتی اثرات بہت قلیل مدت میں حاصل لوح پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جو مومن بھائی اس لوح کو تیار کر کے اپنے پاس رکھیں گے اس لوح کے فیض و برکات سے بہرہ ور ہوں گے اور اس کی قدر و قیمت ان پر ظاہر ہوگی۔

**طریقہ تیسری لوح** لوح تیار کرنے کا تفصیلاً طریقہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر مومن بہن بھائی اسے تیار کر کے فائدہ عظیم حاصل کر سکے۔ اول بسم اللہ کے اعداد قمری نکالیں۔ دوم حروف کی تعداد سوم نقاط کی تعداد تحریر کریں۔ تینوں تعدادوں کو جمع کریں اور مجموعہ کو یاد رکھیں اب اول اس دعائے مقدسہ کے اعداد قمری نکالیں دوم حروف کی تعداد، سوم نقاط کی تعداد تحریر کریں اور جمع کر کے مجموعہ کو یاد رکھیں۔

اعداد بسم اللہ 786 تعداد حروف 19 تعداد نقاط 4  
مجموعہ اول 809 اعداد سورہ نصر 6124 تعداد حروف 80  
تعداد نقاط 36 مجموعہ دوم 6240

دعائے فتوحات **اللَّهُمَّ يَا فَتَّاحُ الْاَبْوَابِ فَتِّحْ لِي الْاَبْوَابَ فَتِّحْ لِي الْاَبْوَابَ**  
**ترجمہ** اے اللہ اے کھولنے والے، میرے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے، اے فتح دینے والے

اعداد دعائے فتوحات = 2155 تعداد حروف = 32  
تعداد نقاط = 20 مجموعہ سوم = 2207  
اب تینوں مجموعوں کو جمع کر کے یاد رکھیں۔ مجموعہ اول = 809

مجموعہ دوم = 6240 مجموعہ سوم = 2207 میزان اول = 9256  
اب نام طالب مع والدہ کے اعداد قمری نکال لیں۔ مثلاً ظہیر احمد بن بلقیس کے لیے لوح فتوحات تیار کرنی ہے ظہیر احمد بن بلقیس کے اعداد 1270  
تعداد حروف 13 تعداد نقاط 8 مجموعہ 1291 اب اس مجموعہ کو 4 سے

۷۸۶

۱۳۱۲۹	۱۷۰۰۲	۲۰۸۷۵	۲۰۹۲
۱۹۵۸۲	۵۳۸۳	۱۱۸۳۸	۱۸۲۹۳
۶۶۷۲	۲۳۲۵۷	۱۲۲۲۰	۱۰۵۲۷
۱۵۷۱۱	۹۲۵۶	۷۹۶۵	۲۲۱۶۶

اپنے نام کے حروف اول سے اپنا ستارہ معلوم کریں بس اپنے ستارہ کے متعلقہ دن اسی دن اسی ستارہ کی ساعت میں سفید کاغذ پر حضرت عفرانی روشنائی جو مالورد سے تیار کی گئی ہو لوح تحریر کرنے کے تہہ کر لیں اور اپنے ستارہ کے منسوبی رنگ کے کاغذ یا ریشمی کپڑا میں لپیٹ کے خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھیں ہر

Imamia Jantri Official By Ifitkhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

2020 اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ (حضرت علی) (حضرت علی)

**کرامات جعفر**  
**لوح تسخیر خاص**  
 محمد اسد اللہ سلیمانی ماہر عملیات و تعویذات 0300-6501194  
 ادارہ روحانی علاج محلہ گوہر شاہ مین بازار نزد عمر نیازی سنٹر جسنگ

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اپنا خاص الخاص عمل لوح تسخیر خاص لیکر حاضر خدمت ہوں۔ جو بھی آزمائے گا ان شاء اللہ ضرور فیض اٹھائے گا۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں مثلاً ✨ تسخیر خلائق و محبوب ✨ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ✨ کاروبار نہ چلنا ✨ نحوست سیارگان کی وجہ سے نقصانات کا ہونا ✨ سحر و جادو ٹونہ کی بندش کا شکار ہوں ✨ شادی کی پریشانی ✨ بیماری یا دشمنوں سے تحفظ وغیرہ کی وجہ سے اگر پریشان ہوں۔

**طریقہ عمل** نوچندی جمعرات کو علیحدہ کمرے میں داخل ہو جائیں پھر ساعت مشتری، شمس زہرہ یا قمر میں منگک وزعفران و عرق گلاب سے لوح تسخیر سفید یا گولڈن کاغذ پر تیار کر لیں۔ پھر درج ذیل آیت قرآنی 313 مرتبہ پڑھ کر لوح مبارکہ پر دم کر دیں اور نیا زنجیر پاک کی دلا کر بچوں میں تقسیم کر دیں پھر لوح مبارکہ اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ وقت مقررہ پر وظیفہ 313 مرتبہ 21 روز تک پڑھتے رہیں۔ اور لوح مبارکہ پر دم کرتے رہیں۔ ان شاء اللہ 21 تا 41 روز میں اثرات آنا شروع ہو جائیں گے اور چہارہ معصومین علیہم السلام کے طفیل زندگی میں خوشحالی آجائے گی۔ لوح مبارکہ کو چاندی کے خول میں بند کر کے پاس رکھنا ہے اور وظیفہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ وظیفہ یہ ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سورۃ التوبہ آیت 129-128)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
جبرائیل			
والشمس	۱۳۳	۱۵۵۲	والقمر
۱۵۵۱	۲۷۷	۴۳۶	۱۳۴
۳۷۵	۱۵۵۰	۱۳۵	۴۳۹
والنجوم	۴۳۸	۳۷۶	مسحرات ہائبرہ

مکمل  
 وکیل باللہ شہید محمد رسول اللہ

دن طلوع آفتاب سے ایک گھنٹہ بعد اسی ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ اب روزانہ نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح دعائے فتوحات پڑھ کر خدائے بزرگ و برتر کے حضور عجز و انکساری سے گزرتے ہوئے دعا کریں۔ ان شاء اللہ صدقہ معصومین بہت جلد اپنے مقصد کو پائیں گے۔ دعا پڑھتے ہوئے ترجمہ کو ذہن میں رکھیں۔ اپنے نام سے ستارہ معلوم کرنے کی جدول یہ ہے۔ میں نے ہر بات وضاحت سے تحریر کر دی ہے۔ **جدول**

ایام	کواکب	سرنام حروف	منسوبی رنگ
ہفتہ	زحل	اب ج و	سیاہ
جمعرات	مشتری	ھ و ز ح	سبز
منگل	مرخ	ط ی ک ل	سرخ
اتوار	شمس	م ن س ع	طلائی
جمعۃ المبارک	زہرہ	ف ص ق ر	نیلا و بزم
بدھ	عطارد	ش ت ث خ	فیروزی
سوموار	قمر	ذ ض ظ غ	سفید

شکر اللہ  
 سادات و غیر سادات مومنین و مومنات مرحومین  
 انگوٹھی آغوش ابوطالب برکاتی انگوٹھی  
 ہر جائز کام میں فتح کے لیے مجرب الحرج ہے  
 ان شاء اللہ تمام الواح سے زیادہ پر اثر ہے۔  
 ہدیہ 786 روپے مولا حسین کی نیاز پکا کر خود بچوں میں تقسیم کریں اور اپنے مقصد میں کامیابی کی بچوں سے دعا کریں اور انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہن لیں نام بمعہ والدہ ہمراہ رجسٹری جو ابی لفافہ ارسال کریں اور اپنا ایڈریس صاف جو ابی لفافہ پر لکھیں۔

**تضائے حاجات**  
 نہایت مجرب عمل ہے شب کے آخری حصہ میں با وضو ہو کر قبلہ خلوت کی جگہ بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ یہ پڑھے  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَسَبِّحْهُمْ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ  
 ہر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہے (اللّٰهُمَّ اَکْفِبْنِیْ حَاجَتِیْ) یہاں حاجت کا ذکر کرنے کے بعد کہے (اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ) 3 رات متواتر عمل کرے۔



غلام رضا عسکری اعوان  
واپس کراچی  
0300-3210024  
0333-7014915

# روزگار شادی اور اولاد

السلام وعلیکم ویا علی مدد! قارئین امامیہ جنتری! آغاز حمد وثناء کے ساتھ اُس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے انسان کو شعور دیکر اشرف بنایا۔ اور علم و آگہی سے آشنا کیا۔ اور علم سے دنیا کو سخر کرنے کا ہنر دیا۔ کائنات کا کل علم احسان ہے مولائے کائنات کا اور محمد و آل محمد کا جنکے وسیلہ سے آج دنیا علم سے آگاہ ہیں۔ 2019 کے مضمون سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کئی بچیوں کے گھر آباد ہوئے اور کئی ایک کے گھر یلو از دو اجی مسائل اللہ کے کرم اور مولا کے فضل سے حل ہوئے۔ ایک شکوہ امامیہ جنتری کے قارئین اور دیگر ایسے لوگوں سے ہے۔

جو علم اور توکل و توسل میں تمیز نہیں رکھتے یا جانتے ہی نہیں کہ علم کیا ہے توکل کیا ہے اور توسل کیا۔ توسل آل محمد سے ہے توکل بر خدا ہے اور علم رکھتے ہوئے توکل کرنا اپنی جہت تمام کرنا ہوتا ہے۔ علم با توسل آل محمد ہی ہم سب کو ملا۔ علم اور توسل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ توکل یہ کام کرتے ہیں آگے مقدر یا نصیب۔ علم نے آج انسان کو اتنا بلند کیا کہ انسان اپنے قد کی اونچائی پا کر مغرور ہو جاتا ہے۔ خدا راعا جزئی انکساری رکھیں اور کسی سے حسد نہ کریں اور حسد کی بنیاد پر کسی کو کمتر بنانے اور خود کو برتر بنانے کی کوشش نہ کریں جان لیں حسد انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور اسے کوئی شرف نہیں دیتا۔

**مرد کے زانچہ** میں زہرہ عورت اور عیش و نشاط کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر درج ذیل علامات لڑکے کے اور لڑکی کے زانچہ میں ہوں تو شادی اچھی ہوگی عورت بھاگوان مقدر والی ہوگی۔

**اگر لڑکی** کے زانچہ میں زہرہ پہلے دوسرے گھر میں سعد ہو تو لڑکی کے مقدر سے دولت مرد کو میسر آتی ہے حسین اور پرکشش ہوگی۔

**اگر لڑکے** کے زانچہ میں پہلے دوسرے گھر میں زہرہ نفس ہو تو مرد عیش و عشرت شراب نوشی اور فواحشات میں ملوث ہوگا۔ 2۔ زہرہ کا لڑکی کے زانچہ میں نویں دسویں گیارہویں گھر سعد ہونا لڑکی کے اولاد ہونے، اچھی شہرت اور عقل و دانش رکھنے اور گھر کو سنوارنے والی لڑکی ہوگی نویں کا زہرہ بیرون ملک سفرت اور دوہری شہریت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہی علامات مرد کے زانچہ میں بھی ہیں اگر زہرہ انہی گھروں میں نفس ہو تو مردوزن کی شہرت اچھی نہیں ہوگی دین سے دور اور معاشرتی برائیوں کا شکار ہو سکتے ہیں

**اگر چھٹے گھر زہرہ** نفس ہو تو مردوزن جنسی امراض کا شکار اور غلط تعلقات کا شکار ہو سکتے ہیں اسکے ساتھ ہی مادہ تولید کی کمی یا بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔

**اگر سعد** ہو تو اچھے ازدواجی تعلقات اور جلد شادی کے ساتھ جلد اولاد ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ چھٹا گھر سرکاری ملازمت کا بھی ہوتا ہے ممکن ہے کہ مرد سرکاری ملازم ہو۔

**آٹھویں گھر زہرہ** کی موجودگی بچوں کا ہو کر مر جانا۔ بچوں اور

ایک مثال ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے اور رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے۔ اکثر افراد اسکی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ مولائے کائنات کا عقد سیدۃ النساء العظیمین جناب فاطمہ سے ہوا۔ زمین و آسمانوں کا رزق جناب سیدہ کو حق مہر میں ملا اور رزق کی تقسیم مولا علی کرتے ہیں۔ آدم اول سے آدم آخر تک جو رزق ملتا رہا اور آنے والوں کو ملتا رہے گا یہ سارا نمک پانی سیدہ کا ہے۔ اسی بنیاد پر رزق عورت کے مقدر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مین اسی بنیاد پر یہ مضمون قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔

علم نجوم کی وسعت بہت ہے اور صرف علم نجوم ہی نہیں ہر علم اپنی جگہ وسیع و عریض ہے۔ اگر علم الابدان میں مثال لے لیں تو بدن کے اکثر اعضاء کے اسپیشلسٹ الگ الگ ملیں گے۔ انسان کے بنائے ہوئے بندے کے اعضاء اتنے پیچیدہ اور اہم ہیں کہ ہر عضو کا ایک مخصوص ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک عامل بہ یک وقت اعداد جعفریل قیافہ نجوم اور عملیات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو آج بیس سالوں میں نجوم پر جب جب تحقیق کی نئے ابواب روشن ہوئے۔

**شادی اور روزگار**:- نجوم میں زہرہ کو دولت کا کارک یعنی دولت کا باعث بننے والا ستارہ کہا جاتا ہے۔ اور نجوم میں ہی عورت کو زہرہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جب کہ مشتری کو گرو کہا جاتا ہے عورت کے زانچہ میں مشتری کی موجودگی عورت کے دین پرست اور ایمان کو ظاہر کرتی ہے

ہو تو رزق حلال سے آسودہ حال ہوگا۔ مشتری چھپے بارہویں گھروں میں  
نخس ہو تو شریک حیات بیمار یا صحت کی خرابیاں ہوتی ہیں روپیہ پیشہ  
نا جائز طریقہ سے کمائے اور دولت پرست بنجوس ہوگا۔ اگر سعد ہو تو مشتری  
انہی گھروں میں اچھے ثمرات دیتا ہے۔

**ہم مزاج ہونا** ترقی منزل سے دیکھا جاتا ہے اگر شوہر کی کمائی اچھی ہو  
اور میاں بیوی میں مزاج آشنائی نا ہو تو ایسے میں عورت مرد کی دولت کو بے  
جا اصراف میں خرچ کرتی زندگی کی آسائشوں اور دیگر غلط طریقوں سے  
دولت لٹانے کا باعث تو بنتی ہی ہے لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا میاں  
بیوی کے زانچوں میں مزاج آشنائی اور ہم مزاج ہونا گھر کو جنت بنا دیتا  
ہے۔ آج کل کے دور میں طلاق کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ  
ہم مزاج نا ہونا ہے پرانے وقتوں میں لڑکیاں اپنا نصیب سمجھ کر خاموش ہو  
جاتی تھیں مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ مولا علی کا قول ہے رشتہ داری ہمیشہ  
اپنے برابر یا اپنے سے کمتر لوگوں میں کرو۔ ایسا کرنے سے ایک جیسا  
ماحول لڑکی کو میسر آتا ہے۔ لیکن افسوس آج کل والدین دولت اور امیر  
رشتوں کو ترجیحی تو دیتے ہیں شرافت کو ترجیحی نہیں دیتے جسکی وجہ سے  
معاملات طلاق تک پہنچتے ہیں۔

**وقت نکاح** میں ستاروں کی نشست کے اثرات ازدواجی زندگی پر کس  
قدر مرتب ہوتے اس کا ادراک نجوم جاننے والا نکاح کا زانچہ بنا کر دیکھ  
لیتا اور بتا دیتا ہے۔ قارئین جب نکاح کے وقت سے آپکے حالات کشید  
کئے جاسکتے ہیں تو اچھے وقت کا انتخاب کرنا لڑکے لڑکی کے لئے نہایت  
مناسب ہوگا۔ **قول معصوم** ہے کہ منگل کے دن کسی نئے کام کی  
ابتدا کرنا منگل کا دن مریخ سے منسوب ہے۔ مریخ کی ساعتوں میں ابتدا  
کئے گئے کام اکثر برائی پر منتج ہوتے ہیں۔ نکاح کے اوقات میں منگل کا  
دن مسلم معاشرے میں نہیں رکھا جاتا جبکہ ہندو معاشرے میں اکثر  
شادیاں منگل کے دن رکھی جاتی ہیں اسکی علمی توجیح آج قارئین کی نظر کرتا  
ہوں منگل کے دن نکاح کرنے سے مرد عورت پر حاوی رہتا ہے اور عورت  
ساری زندگی مرد کی حاکمیت میں چلی جاتی ہے۔ نکاح جمعہ کے دن مسلم  
معاشرے میں نیک سمجھا جاتا ہے اسکی علمی وجہ بھی یہ ہے کہ جمعہ کا دن زہرہ  
یعنی عورت سے منسوب ہے۔ زہرہ محبت کا ستارہ بھی ہے۔

قارئین آپ کو یہ علمی معاملات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں علم  
سے استفادہ کریں اور آسائیاں پیدا کریں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے  
لیکن علم آپکو مشکلات اور تکالیف سے بچاتا ہے۔ اپنے بچوں کی

رگوں کی تکالیف کا رونا ہونا بوا سیر کی تکالیف شریک حیات کو ہوسکتی ہیں لڑکی  
کے زانچہ میں نخس ہو تو کردار کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے۔ غلط ذرائع سے دولت کا  
حصول بناتا ہے۔ بارہویں گھر زہرہ خفیہ تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ خواہ  
مرد و زن کا زانچہ ہو اگر زہرہ چھپے آٹھویں کا مالک ہو تو ایسا ہوتا ہے۔

**اولاد کا نا ہونا** زہرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے زہرہ مادہ تولید پر  
حکمران ہے اگر مرد یا عورت کے زانچہ میں زہرہ نحوست کا شکار ہو تو مادہ  
تولید کی کمزوریاں مرد و زن کو اولاد سے محروم کر سکتی ہیں اسکے ساتھ قمر کا  
تعلق قرار حمل سے ہے اگر قمر اور زہرہ نکاح کے زانچہ میں اچھے ہوں تو  
اولاد کی نوید شادی کے ابتدائی دو سے تین ماہ میں مل جاتی۔ قمر مادہ تولید  
میں پائے جاتے والے نطفے سے تعلق رکھتا ہے لہذا اگر قمر نخس ہو تو مادہ  
تولید میں کمزوریاں جو کہ نطفہ بننے کا باعث بنتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں  
جسکی وجہ سے اولاد میں تاخیر یا نچھ پن ہو سکتا ہے اسکے ساتھ ہی مردوں  
میں جریاں اور مادہ تولید کی کمی ہونے کے ساتھ عورتوں میں زنانہ مسائل یا  
لیکور یا کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر زانچہ ولادت میں اس قسم کی کمی پائی  
جائے تو وقت نکاح کے زانچہ میں ان ستاروں کو مثبت رکھ کر وقت نکاح  
تجویز کرنے سے علاج معالجہ سے معاملات میں بہتری کی قوی امکانات  
ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں سرطان، عقرب اور حوت بار آور یا  
FERTAIL بروج ہیں ان بروج میں یا تو طالع برج رکھا جائے یا ان  
بروج میں سے کسی بھی برج کو پانچویں گھر میں اس طرح رکھا جائے کہ کوئی  
سعد ستارہ ان بروج میں موجود ہو تو وقت نکاح میں اولاد نہ ہونے کے  
معاملات حل کئے جاسکتے ہیں۔

**مشتری کی زانچہ** میں موجودگی شادی بیاہ کے زانچہ میں دیکھنا  
لازمی ہوگا اگر لڑکی کے زانچہ میں مشتری پہلے دوسرے چوتھے ساتویں  
دسویں گیارہویں گھروں میں سعد ہو تو ایسی لڑکی بھالوان ہوگی مرد کے  
رزق روزی میں اضافہ اور اولاد کی بہترین تربیت کا باعث بنتی ہے۔ اگر  
انہی گھروں میں لڑکی کے زانچہ میں اعلیٰ نظرات شرف اوج یا اپنے گھروں  
کا مالک مشتری بیٹھا ہو اور یوگ بنا رہا ہو تو مرد کے کاروبار، روزگار  
ملازمت میں ترقی اور گھر کو جنت بنانے کا باعث بنتی ہے۔ یہی نظرات نخس  
ہوں تو مرد کی مالی کاروباری حیثیت رو بہ زوال ہو جاتی ہے اور آمدنی و  
دولت کا حصول مشکل اور نقصانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرد کے زانچہ  
میں یہی نظرات سعد ہوں تو مالی آسودگی اور اچھی زندگی گزارنے کے  
ساتھ دین دار ہوگا خصوصاً اگر مشتری پہلے دوسرے نویں گھروں میں سعد

مولانا  
گلفام علی حسینی  
0321-4534910  
0300-4534910

## لوح نادعلی

لوح نادعلی کو نو چندی جمعرات کے دن زعفران و مشک و عرق گلاب سے سفید کاغذ تحریر کریں۔ اور دھونی صندل سرخ اور لوہان کی دیکر اپنے پاس رکھیں۔ ان شاء اللہ سب مشکلات سہل و آسان ہوں گی۔ دشمنوں پر غلبہ ہوگا سحر و جادو بد اثرات سے کامل حفاظت ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں ہر نماز کے بعد اٹھارہ مرتبہ نادعلی ضرور پڑھ کر دعا کریں۔ مولا کریم رحمہ ماے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رابطہ کریں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَوَائِبِ	فِي	عَوَائِلِكَ	تَجِدُهُ	الْعَجَائِبِ	مَظْهَرِ	كَأَدْعِيَاءِ
كُلِّ	الْعَوَائِبِ	فِي	عَوَائِلِكَ	تَجِدُهُ	الْعَجَائِبِ	مَظْهَرِ
هَمِّ	كُلِّ	الْعَوَائِبِ	فِي	عَوَائِلِكَ	تَجِدُهُ	الْعَجَائِبِ
وَ	هَمِّ	كُلِّ	الْعَوَائِبِ	فِي	عَوَائِلِكَ	تَجِدُهُ
عَمِّ	وَ	هَمِّ	كُلِّ	الْعَوَائِبِ	فِي	عَوَائِلِكَ
سَيِّئَاتِي	عَمِّ	وَ	هَمِّ	كُلِّ	الْعَوَائِبِ	فِي
بِعَلْمِ	سَيِّئَاتِي	عَمِّ	وَ	هَمِّ	كُلِّ	الْعَوَائِبِ

### اسرار حروف و اعداد و عملیات جاننے کے لیے

فیض حسینی میں داخلہ لینا ہوگا۔ اپنا نام والد اور والدہ کا نام، تاریخ پیدائش مکمل پتہ کے جوابی لفافہ ارسال کریں۔  
گلفام علی حسینی  
0321-4534910, 0300-4534910

### تحفہ عظیم حروف و اعداد و عملیات

نہایت اہتمام کے ساتھ موم جامہ کیا گیا ہے۔ اس تعویذ مبارک میں جوشن کبیر کے علاوہ سورہ یسین، آیت الکرسی، چہار نقل، سورہ مزمل اور نادعلی شامل ہیں۔ بدیہ - 20/- بازو بند - 30/-

افتخار بک ڈپوٹین بازار اسلام پورہ لاہور Ph: 042 37223686

کے وقت زانچہ ملانا اور درست وقت نکاح کا انتخاب آپ کے بچوں کے مستقبل کے لئے بہتر ہوگا۔

دعا کیجئے گا اللہ و مولا مجھے آپکو ہم سب کو حسد سے بچائے۔ بانیاں امامیہ جنزری آغا ثار احمد مرحوم اور میرے والدین کے لئے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کے ساتھ دعا گو ہوں مولا امام زمانہ آغا افتخار صاحب کو صحت سلامتی دے اور انکی توفیقات میں اضافہ کریں۔



## آسان اردو میں مکمل ویب سائٹ وزٹ کریں

ماہانہ و سالانہ زائچے، ستاروں کی نحوست و سعادت اور بدقسمتیوں کے ساتھ جانیں مسائل کا حل۔ نوروز و عالمی حالات، نجوم سمجھنے والوں کے لیے اسباق، اعداد و دست شناسی پر مکمل مضامین اور رمل پر سیر حاصل مضامین، نجوم و جنرل سائنس و سیر زائچہ اور لوڈنگ اور تحقیقی مواد کیساتھ سیکھے نقوش اور عملیات کا فن، نجوم و جنرل اعداد کے شائقین آن لائن علوم مخفیہ سیکھیں ماہانہ بیگزین جنرل فحشہ کا آن لائن مطالعہ کریں

[www.accuastro.com](http://www.accuastro.com)

Accuastro@skype.com Accuastro@facebook.com

نام رضا مسکری اعوان، نواب شاہ - کراچی پاکستان  
0092-300-3210024, 0092-333-7014915

## www.accuastrology.com



Natal Horoscope Match Making Mahurat  
Election Astrology Yearly Predictions and  
much moor . Click for our services

[www.accuastrology.com](http://www.accuastrology.com)

Email info@accuastrology.com

Raza Askri . Ph0092-3003210024- 0333-7014915

ماہ نور فاطمہ

ڈینس فیئر ۱۱۱۱ لاہور

0307-2102288

0333-4194017

# محبت فاتح عالم

محبت کے لیے  
خاص عملیات

کہ سفید حریر کے کپڑے پر 35 مرتبہ (الْوَدُودُ) لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں محبوب ہو جائے گا۔

**میاں بیوی کی محبت کے لیے** میاں بیوی کی محبت کے لیے مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے اعداد نکال کر چاندی کی تختی پر یا کاغذ پر زعفران و کستوری سے نقش مثلث ترتیب سے پڑھیں اور اس نقش کے ارد گرد آیت مذکورہ لکھیں اور نیچے طالب و مطلوب (شوہر اور بیوی) کے نام مع والدہ تحریر کریں اور دھو کر خاوند اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو پلا دے تو نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہوگی اور دونوں میاں بیوی کی اچھی محبت ہوگی آرمودہ ہے اور آیت یہ ہے۔ اس آیت کے کل اعداد 3834 ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَسَى اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِیْنَ عَادَیْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِیْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (متنہ 7)

۱۰۰۲	۱۰۹۷	۱۰۰۲
۱۰۰۳	۱۷۱۱	۱۰۹۹
۱۰۹۸	۱۰۱۵	۱۱۰۰

قارئین کرام السلام علیکم! قارئین اس سال محبت و الفت اور محبت میں ناکامی کے لیے اپنے خاص اور آرمودہ عملیات لیکر حاضر ہوں اور پر امید ہوں کہ آپ اس سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں گے اور مجھ ناچیز اور آغا افتخار حسین صاحب کے حق میں دعا فرمائیں گے۔ عملیات اور ان کا طریقہ کار واضح اور صاف صاف لکھ دیا ہے پھر بھی اگر کسی لفظ یا جزو کی سمجھ نہ آئے تو کال کر کے پوچھ لیں۔ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت شرط ہے۔ خواتین اپنے ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کریں۔

**افسر مہربان ہو** اگر کوئی ملازم اپنے افسر سے تنگ ہو تو اسے چاہیے کہ 7 روز تک بلا ناغہ بعد نماز عشاء (مغربین) ہر روز اس دعا کو 203 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر پانچ مرتبہ درود شریف پڑھے بفضل خدا افسر مطیع ہوگا وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمٰنٌ الْحٰثِیْفِیْنَ لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

**لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو** اگر کسی شخص کو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا مقصود ہو تو اسے چاہیے

## نگینہ پکھراج کے خواص (TOPAZ)

تحریر حکیم مظفر علی رضوی المعروف جوہرے 0300-4519796

اسے اردو میں پکھراج اور انگریزی میں ٹوپاز کہتے ہیں۔ اس کا شمار قیمتی جواہرات میں ہوتا ہے اس کے نایاب رنگوں میں گلابی، زرد، پیلا، پیازی، اور سفید بھی ہیں۔ **مقام پیدائش** دنیا کے کئی ممالک میں اس کی کانیں دستیاب ہیں۔ مثلاً سیلون، برازیل، روس، جاپان، آسٹریلیا، سامبریا، شمالی تاجکستان اور جنوبی افریقہ وغیرہ۔ دنیا کا بہترین گلابی پکھراج کانٹنگ (مردان) سے نکلتا ہے۔ **نوٹ** ہماری لیکن نیلم قدرت کے سات رنگوں میں دستیاب ہے۔ بعض نہیں اکثر لوگ yellow Sapphiri کو بھی زرد پکھراج کہتے ہیں "مگر یہ غلط ہے" **پکھراج کے سحری خواص** اس کا انگوٹھی میں پہننا غم و غصے کو دور کرتا ہے اس کے پہننے سے جسم کی قوت، طاقت، عقل اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، قوت ارادی بلند ہوتی ہے۔ کاروباری البھینس دور ہوتی ہیں۔ پکھراج کو پہننے سے انسان خوش محسوس کرتا ہے اور خوش گوار عادات کا عادی ہو جاتا ہے۔ محبوب کے سامنے پہن کر جانے سے محبت بڑھتی ہے۔ **پکھراج کے طبی خواص** پکھراج کا ذائقہ ترش اور مزاج سرد ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں پکھراج کا استعمال مرہم کی حیثیت رکھتا ہے۔ پکھراج کا استعمال ہر قسم کے ورم کو تحلیل کرنے میں اکثر کاردر رکھتا ہے۔ خون کے سرطان میں طبی طریق سے اس کا کثرت انتہائی مفید ہے۔

سید محمد اجمل

H.NO 260 STREET 116  
I-10/4 ISLAMABAD  
0335-5555150

## دعا اور شفا یابی

السلام علیکم ویا علی مدد! امامیہ جنتری گذشتہ کئی سالوں سے مطالعہ میں ہے۔ روحانی مخفی اور اسلامی علوم کے لحاظ سے ایک جامع جنتری ہے۔ سو چاہتی تحقیق کو بھی عوام الناس تک پہنچانے کی ایک ادنیٰ سی کوشش کروں۔

قارئین دعا کا حکم قرآن اور سنت نبوی و معصومین میں موجود ہے۔ ایک شخص جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آکر گویا ہوا مولا دعائیں قبول نہیں ہوتیں کیا کروں مولانا نے کہا اول و آخر محمد وآل محمد پر درود بھیج کر دعا مانگو بارگاہ تعالیٰ میں دعا رد نہیں ہوگی۔

جدید روحانی علوم میں ہیلنگ HEALING نے گذشتہ تین سے چار عشرون میں کافی ترقی کی ہے۔ HEALING کے بنیادی معنی شفا یابی کے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت اور دعا سے بیماریوں کے علاج کی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھیا کا شفا یاب ہونا لعاب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے روز خیر مولا علی کا آشوب چشم دور ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑھوں کو شفا یاب کرنا ناپینا کو پینائی دینا دعا انبیاء کی وجہ سے ہی تھا۔ ہیلنگ میں کئی علوم اس وقت دنیا میں رائج ہیں جس میں ریکی رنگ و روشنی سے علاج اور ٹیلی پتھی پنٹولم ہیلنگ کی چند اقسام ہیں۔ جدید دنیا میں PENDULUM HEALING شفاء یابی کے لئے مختلف امراض جسمانی و روحانی میں مستعمل ہے۔ پنڈولم ہیلنگ کیا ہے کچھ وضاحت قارئین کی آسانی کے لئے کر دوں۔

جدید روحانی علوم میں ہیلنگ HEALING نے گذشتہ تین سے چار عشرون میں کافی ترقی کی ہے۔ HEALING کے بنیادی معنی شفا یابی کے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت اور دعا سے بیماریوں کے علاج کی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھیا کا شفا یاب ہونا لعاب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے روز خیر مولا علی کا آشوب چشم دور ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑھوں کو شفا یاب کرنا ناپینا کو پینائی دینا دعا انبیاء کی وجہ سے ہی تھا۔ ہیلنگ میں کئی علوم اس وقت دنیا میں رائج ہیں جس میں ریکی رنگ و روشنی سے علاج اور ٹیلی پتھی پنٹولم ہیلنگ کی چند اقسام ہیں۔ جدید دنیا میں PENDULUM HEALING شفاء یابی کے لئے مختلف امراض جسمانی و روحانی میں مستعمل ہے۔ پنڈولم ہیلنگ کیا ہے کچھ وضاحت قارئین کی آسانی کے لئے کر دوں۔


1602 عیسوی میں Galileo Galilei نے پنڈولم کی سائنسی ایجاد کی اور 1658 میں پہلا پنڈولم کلاک ایجاد کیا گیا جس سے وقت کی درست پیمائش دنیا میں سامنے آئی۔ قدیم زمانے میں اور آج کل بھی دیہاتوں میں زیر زمین پانی کی تلاش کے لئے ایک چھڑی استعمال کی جاتی ہے جسے DEVINE ROD کہا جاتا ہے۔ زیر زمین تیل کی تلاش کرنے والی کمپنیاں بھی یہ طریقہ آج تک استعمال کرتی ہیں پنڈولم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں جن کے نام ۱۔ کارنک پنڈولم کی شکل گولی نما ہوتی ہے اسکا تعلق سبز رنگ سے ہوتا ہے۔ عمومی طور پر شیشہ کا بلور یا چاندی کی ایک گولی بنا کر اس میں ڈوری لگا کر بنایا جاسکتا ہے۔ ۲۔ ایسیس پنڈولم۔ کی شکل گول بیلن نما ہوتی ہے جسکے آخر میں پھیپہ نما گول کٹائی کی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر سفید روشنی سے منسلک ہوتا ہے۔ ۱۳۔ ایرس پنڈولم۔ یہ پنڈولم بھی بیلن نما گول ہوتا ہے لیکن اس پنڈولم

خدمت میں پیش ہے۔ ایک سائل کو آپ کامیابی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں تو سائل کی تصویر مع نام و والدہ کے لیکر پاس رکھیں۔ پنڈولم سے منفی اثرات کی تشخیص کریں اور مثبت روحانی طریقوں سے پہلے سائل کی منفی قوتوں کا ازالہ کریں۔

**اگر ہمت و حوصلہ کی کمی ہے تو مرخ کی مثبت قوتوں سے پنڈولم کو منسلک کریں اور کہیں مرخ کی شجاعت ہمت حوصلہ کی مثبت قوتوں سے منسلک ہو جائے۔ پنڈولم منسلک ہو کر رک جائے گا اب پنڈولم کو حکم دیں مرخ کی مثبت قوتوں سے فلاں بن فلاں کو ہمت حوصلہ اور شجاعت سے ہمکنار کر دو**  
**حصول دولت** کے لئے سائل کی تصویر نام مع والدہ کے لیکر پہلے منفی قوتوں سے پاک کریں۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو براہ راست پنڈولم کو ستارے کی مثبت قوتوں سے منسلک کریں یا ایک اعلیٰ مشتری کا شرف پاس رکھیں اور پنڈولم کو مشتری کی روحانی قوتوں سے منسلک کریں اور انہی قوتوں کو سائل کی جانب ٹرانسفر کر دیں

**روحانی طور پر** اگر آپ کسی خاص اسم اعظم کی چلہ کشی کر چکے ہیں جیسے یاوود یا باسط یا رحمن یا رحیم یا کوئی اور اسم اعظم تو آپ اپنے حاصل شدہ روحانی قوتوں کو پنڈولم کے ذریعہ سے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کسی بھی سائل کو تفویض کر سکتے ہیں۔ روحانی اذکار کی قوت پنڈولم کے ذریعہ سے مریض کو منتقل کی جاتی ہے۔ جس سے سائل کو شفاء ملتی ہے۔ پنڈولم کا استعمال روحانی اور آسمانی اثرات میں کمال کے نتائج دیتا ہے چونکہ آسمانی امراض نفسیاتی طور پر متاثر کرتے ہیں لہذا مریض کی نفسیات کا کامیاب علاج پنڈولم سے ممکن ہوتا ہے۔ ہیملنگ کا دورانیہ مریض کی نوعیت اور شدت کے حساب سے طویل یا مختصر ہوتا ہے۔ میں نے پنڈولم ہیملنگ کا طریقہ امریکہ کے مشہور ہیملر ERICH HUNTER سے سیکھا اور اپنے اطراف میں آزمائش کے بعد امامیہ جنتری کے قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔ پنڈولم ہیملنگ سے متعلق کوئی سوال یا کوئی فرد دیکھنا چاہے یا کسی مسئلہ کا شکار ہو تو میں حاضر ہوں۔ بانیاں امامیہ جنتری کے لئے خصوصی دعا گو ہوں مولا انہیں علم کی ترویج کا ذریعہ بنائے رکھے۔

پنڈولم کی اقسام



ایک بات کا خاص خیال رہے کہ پنڈولم سے سوالات جو ابات لیتے ہوئے اور ہیملنگ کرتے ہوئے آپ اپنے ذہن کو خالی رکھیں اور خود سے کسی جاب کی توقع اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ کر سوال کریں گے تو جواب مشکوک آ سکتا ہے۔ جب پنڈولم کو حرکت دی جاتی ہے تو اول پنڈولم آگے پیچھے حرکت کرتا ہے اور اور چند لمحوں میں گول دائرہ نما گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ پنڈولم کے گھومنے ہوئے دائرے کی وسعت سے پنڈولم کی انرجی کا اندازہ لگا یا جاتا ہے۔ یہاں ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ عمومی پنڈولم کلاک دائرہ حرکت کرتے ہیں۔ تاہم پنڈولم کو اپنی روحانی قوت سے منسلک کرتے ہوئے پنڈولم کے گھومنے کی سمت کو منفی یا مثبت کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ دوم پنڈولم سے چند سوالات کر کے پنڈولم کے درست جوابات کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ پنڈولم کو جنبش دے کر کہیں اپنی مثبت قوت کا اظہار بتاؤ۔ اب پنڈولم دائیں یا بائیں گول حرکت کر کے اپنی مثبت قوت کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح منفی قوت مثبت کے الٹ مانی جائے گی۔ (اگر سوال کا جواب مثبت ہو تو جواب کیسے ہوگا) پنڈولم کی حرکت آپ کے سوال کا جواب دائیں یا بائیں گھوم کر جواب دے گا اسی طرح دیگر سوالات جو ابات کا پابند پنڈولم کو بنایا جاتا ہے۔

**تشخیص مرض** اگر آپ رنگوں روشنی سے علاج کرتے ہیں تو ایک رنگوں کا چارٹ سامنے رکھیں اور پنڈولم سے اس طرح سوال کریں۔ زید بن بکر کے ساتھ کیا مسئلہ سے اور کس رنگ کی وجہ سے صحت خراب ہے۔ اب پنڈولم کو حرکت دین پنڈولم گھومنا شروع ہوگا اور کسی ایک رنگ پر آ کر رک جائے گا۔ اگر سرخ رنگ پر رک جائے تو یا قوت کا پتھر سرخ صدقات اور سرخ پھلوں کا استعمال مریض کے لئے شفاء بخش ہوگا۔

اگر آپ **نجوم کے ماہر** ہیں اور سائل کو تاریخ ولادت یادنا ہو تو آپ اس طرح سوال کریں۔ زید بن بکر کے ساتھ کس ستارے کی محومت یا کمزوری ہے۔ اب آپ ایک گول دائرہ میں سات ستاروں کی اشکال یا نام لکھ کر پنڈولم کو جنبش دیں پنڈولم حرکت کرتا ہو کسی ایک ستارے پر رک جائے گا اس ستارے سے منسوب علاج کریں صدقات دیں تو سائل کو افاقہ ہوگا۔

اگر سائل کے ساتھ **جادو آسپیکل** تشخیص کرنی ہو۔ مریض کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور مریض کس قسم کی منفی قوت کی وجہ سے مرض کا شکار ہوا ہے۔ جادو اثرات ستاروں کی محومت یا کوئی آسمانی اثر ہے اس بات کا تعین کرنے لئے پنڈولم کے ذریعہ سے بار بار تشخیص کی جاتی ہے۔

**حصول دولت اور کامیابی** کے لئے ایک راز قارئین کی

تنویر عصری، ایم اے

راولپنڈی

0333-5398050

## علم الاعداد کا مجرب ترین فالنامہ

تخلیق کائنات سے لے کر آج تک انسان نے توحید خداوندی کی معرفت اس طریقے سے حاصل نہیں کی جس طرح خالق نے اپنے رہبروں کے ذریعے کروانے کی کوشش کی۔ لیکن انسان نے اپنی انا کی سرکشی کو مسئلہ بنا کر شیطان کی بیروی میں ایک نظام ہر دور میں برقرار رکھا۔ دنیاوی ترقی کے لیے تجسس کا فطری ہونا ناگزیر تھا۔ اسی سبب دنیاوی ترقی نے کائنات کی تسخیر پر فخر و مباہات کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے کل کی جستجو میں انسان نے جس تجسس سے کام لیا اس کا لازمہ یہ تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آنے والے کل کی فکر میں انسان سرگرداں پھرنے لگا اور مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ اس سبب قرون اولیٰ سے آج تک ہر دور میں مستقبل کی معلومات یا سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے ہر دور میں ہر علم کے ماہرین نے سختی سے روحانی علوم نے جنم لیا۔ یہ طریقے ہر علم کے ماہرین کے تجربات کی کسوٹی کے سبب آج تک جاری و ساری ہیں اور ہر عالم و جاہل اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی نئی زندگی کے سوالات

علم کے ماہرین سے رابطے میں رہتے ہیں اور توسط سے سالکوں کے سوالوں کے جوابات دے سے شگون و جوابات حاصل کرنا قدیم ترین ترقی اور علوم کی دریافت یا آسانی کتب کے نزول میں اس عقیدہ کو مزید تقویت پہنچائی اور یہ طریقے

۱۱۹۶	۷۷۲	۱۷۴
۲۹۷	۸۷۱	۴۳۹
*	۶۲۳	*

اعتبار سے بھی اور دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی۔ کیونکہ علم الاعداد کا علم کتب آسمانی کے نزول سے ترقی کرتے ہوئے فکر کی انتہا قرآن کریم پر ہوئی۔ قرآن کریم نے اور علوم کی باریکیوں پر غور کی جانب توجہ دیتے ہوئے علم الاعداد کے مخفی رموز پر تدریجی جگہ جگہ دعوت دی۔ اس سبب اپنے قارئین کو ایک تختہ نایاب پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نتیجے کا خداوند کریم پر یقین رکھتے ہوئے ظاہری کاوشوں کے نتائج اس فالنامے سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ مگر اس کو بچوں کا کھیل سمجھ کر معمولی معمولی باتوں کے جوابات سے گریز کرنا چاہیے ورنہ مایوسی ہوگی۔ ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد کم سے کم 15 دن تک دوبارہ اس مقصد کے شگون لینا درست نہیں۔ فالنامہ نہایت آسان ہے۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد با وضو ہو کر ان مثلث کے 7 اعداد کو کاغذ کے علیحدہ علیحدہ پرزوں پر تحریر کر کے ایسے بند کر دیں تاکہ مکس ہو جائیں اور کوئی پہچان باقی نہ رہے۔ پھر ان کو ایک پیالی میں ڈال کر مزید مکس کرنے کے لیے ہلائیں اور پھر کسی سچے سے یا آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ بسم اللہ، 3 مرتبہ سورۃ الحمد اور 4 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر ایک پرچی اٹھا کر اسے کھول کر ان اعداد کو جوابات کی فہرست میں تلاش کریں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں ان شاء اللہ اپنے مطلب میں سرخرو ہوں گے۔ پرچیاں بناتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ اعداد کو دائیں جانب سے لکھنا ہے۔ مثلاً ۱۷۴ یعنی پہلے چار پھر سات اور پھر ایک۔

۱۷۴	ابھی کامیابی کا وقت نہیں آیا جس کام کا تم ارادہ کر رہے ہو اس پر ابھی عمل کرنے سے نقصان ہے۔ چند روز صبر کرو وقت مناسب نہیں ہے۔ بعد میں عمل کرنے سے فائدہ ہے۔
۷۷۲	حسب ارادہ مقصد میں کامیابی نہ ہوگی، اس لئے کہ کامیابی اوسط درجہ کی ہے، عمل و کام کرنے میں نقصان نہیں ہے کہ کامیابی ہوگی۔
۱۱۹۶	یہ کام نہ کرو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ تمہارا منصوبہ صحیح نہیں ہے۔ اس خیال کو ترک کرو تو اچھا ہے۔
۴۳۹	بھیاری امانت و کوشش و احتیاط چاہیے اس کام کے بننے اور بگڑنے کی بنیاد آپ کی کوشش و احتیاط پر ہے۔ کوشش سے کامیابی غیر محتاطی سے ناکامی ہے۔
۸۷۱	ابتدائی مشکلات سے نہ گھبرائیں نتیجہ بہر حال آپ کے حسب منشاء ہوگا پہلے پہل کچھ مشکلات ضرور درپیش آئیں گی مگر آخر میں آپ کامیاب ہوں گے۔
۲۹۷	وقت اور خیال و ارادہ آپ کا اچھا ہے خدا کا نام لیکر کام شروع کرو کوئی فکر و وسوسہ دل میں نہ کرو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔
۶۲۳	امدادی آپ کی انتظار میں ہے اور کامیابی کا گویا حکم غیب سے ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی دیر اور کاٹ نہیں ہے۔ صبح شام کامیابی ہونے والی ہے۔

انسانی اقدار کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو اور (معنوی) خزانوں کے لیے جلدی کرو۔ (امام حسین علیہ السلام) 2020

سید غار عباس نقوی (مردم)

# شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟

(علم الاعداد کی روشنی میں)

شادی میں ناکامی کے کئی اسباب ہیں۔ ذہن و لہا کے ناموں کے اعداد میں ہم آہنگی نہ ہونا۔ بروج و سیارگان کا مختلف ہونا۔ ناموں کے حروف کی طبع کا نہ ملنا۔ ایام محرم الحرام و صفر میں ہوئی شادیاں اکثر خانہ بربادی کا سبب بنتی ہیں کیونکہ ان ایام میں نواسہ رسول کی شہادت اور اہل بیت اطہار کا مصائب میں ابتلاء ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ محرم و صفر 8 تا رجب الاوّل میں شادی وغیرہ نہ کریں۔ شادی کے وقت قمر در عقرب بھی نہ ہو۔ قارئین امامیہ جنتی کی فرمائش پر چوتھی مرتبہ شامل اشاعت ہے ہم یہاں برسوں سے آزمودہ علم الاعداد کی روشنی میں ایک قاعدہ قارئین جنتی امامیہ کیلئے پیش کر رہے ہیں۔ اعداد لیتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- (1) - لڑکی اور لڑکے کے اصلی نام کے ابجد قمری کے حساب سے اعداد نکالیں۔ (2) - والدہ کے نام کے عدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
- (3) - سید، زیدی، نقوی، بخاری، کاظمی، جعفری، چوہدری، خان، ملک، بٹ، ڈار، گوندل وغیرہ کے اعداد بالکل نہیں لینے۔ (4) - موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، وغیرہ میں صرف "سی" کے اعداد لینے ہیں "ی" کے اوپر "الف" وغیرہ کے اعداد نہیں چلیں گے۔ (5) - لڑکی کے ساتھ باپ کا نام یا لڑکے کے ساتھ باپ کا نام لکھا ہوا ہو تو اس کے اعداد بھی نہیں لینے ہیں۔ (6) - حزمہ "ہ" بعض مقام پر الف کے اعداد کا تقاضا کرتا ہے بعض مقامات پر "ہ" کے اعداد "ی" کے لئے جاتے ہیں مثلاً صائمہ، فائزہ، شائستہ، پائندہ وغیرہ۔ یہاں "ہ" کے اعداد "ی" کے اعداد لئے جائیں گے۔ (7) - لڑکی کے اعداد کو بھی 9 پر تقسیم کیا جائے گا اور لڑکے کے اعداد کو بھی 9 پر تقسیم کیا جائے گا جو حاصل قسمت ہوگا جدول سے دیکھا جائے گا جسکی مثالیں آخر پر واضح کر دی گئی ہیں۔ (8) - اگر اعداد پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر جس عدد کے ساتھ تقسیم کیا گیا ہے یعنی 9 عدد بس اسی کو حاصل قسمت سمجھا جائے گا۔

## ابجد قمری

حروف	ا	ب	پ	ج	چ	د	ڈ	ه	و	ز	ح	ط	ی	ے	ک	گ	ل	م	ن
قیمت	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50					
حروف	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ					
قیمت	60	70	80	90	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000					

اگر دونوں کا "ا" اور "ا" باقی بچ جائیں تو ان شاء اللہ یہ جوڑا نہایت سعد ثابت ہوگا۔ اور اگر

۱ اور ۲	بادشاہی زندگی گزارنے کی علامت ہے۔	۲ اور ۶	ایک دوسرے پر الزام لگانے والے ہوتے ہیں۔	۳ اور ۵	انجام جدائی طلاق ہوگا۔
۱ اور ۳	نا اتفاقی، خانہ جنگی، اہمیتنا ضروری ہے۔	۲ اور ۷	ایچھے اور خوب ہوتے ہیں۔	۳ اور ۶	یہ جوڑا بھی بہت عمدہ رہتا ہے۔
۱ اور ۴	دائمی جدائی انجام طلاق ہوگا۔	۲ اور ۸	خوب رہے ہیں مگر کم عمر کے بعد محبت شروع ہوجاتی ہے۔	۳ اور ۷	اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔
۱ اور ۵	معتدل دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔	۲ اور ۹	خوب ایچھے رہتے ہیں۔	۳ اور ۸	خوب رہتے ہیں۔
۱ اور ۶	نہایت عمدہ زندگی بسر ہوگی۔	۳ اور ۳	شادی محبت کی ہوگی انجام بے وفائی۔	۳ اور ۹	جنگ جدال، الزام تراشی کرنے والے۔
۱ اور ۷	ایسے لوگ اولاد کا غم دیکھتے رہتے ہیں۔	۳ اور ۳	طلاق دائمی جدائی۔	۵ اور ۵	انجام جدائی طلاق ہوگا۔
۱ اور ۸	غربت مظنی رخ و غم میں گزرے گی۔	۳ اور ۵	طلاق اور جدائی۔	۵ اور ۶	موافقت رہے گی۔
۱ اور ۹	انجام بہتر ہوگا معتدل رہے گی۔	۳ اور ۶	طلاق جدائی فراق۔	۵ اور ۷	عمدہ زندگی گزرے گی۔
۲ اور ۲	یہ بھی عمدہ زندگی بسر کرتے ہیں۔	۳ اور ۷	ایک دوسرے پر جان بچھا کر کے والے ہوتے۔	۵ اور ۸	دونوں میں پیار محبت بہت ہوگا۔
۲ اور ۳	انجام طلاق۔	۳ اور ۸	یہ عمدہ رہیں گے۔	۵ اور ۹	دونوں معتدل رہتے ہیں۔
۲ اور ۴	فقدان محبت بڑائی بھگتا۔ طلاق نہ ہوگی۔	۳ اور ۹	معتدل بڑ بھگتا ایک دوسرے کی بات مان لینگے۔	۶ اور ۶	خوب رہتے ہیں۔



عالم کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی باتوں پر انتقاد کرتا ہے اور اقسام نظری حقیقتوں پر آگاہی رکھتا ہے (امام حسین علیہ السلام) 2020

۳ اور ۲	انجام طلاق ہوگا۔	مثال نمبر ۱: لڑکی کا نام: ڈیانا لڑکے کا نام: چارلس	لڑکے کا نام:
۵ اور ۲	سکون حاصل نہیں ہوگا۔	ڈ 04	شوکت حسین رضوی
۶ اور ۷	دونوں معتدل رہتے ہیں۔	ی 10	ش 300
۶ اور ۸	اچھی زندگی گزرتی ہے۔	ا 01	د 6
۶ اور ۹	دونوں معتدل رہتے ہیں۔	ن 50	ک 20
۷ اور ۷	اچھی زندگی گزرتی ہے۔	ا 01	ت 400
۷ اور ۸	ابتدا اچھی نہیں ہوتی۔ بعد میں اچھی زندگی بسر ہوتی ہے۔	ب 9/294	حسین 128
۷ اور ۹	مزاج میں اختلاف۔ پسند و نفوس کی جدا جدا ہوتی ہے۔	باقی 6 بچے 32-6	ر 200
۸ اور ۸	شادی مبارک ہوتی ہے۔	باقی 3 بچے 7-3	ض 800
۸ اور ۹	خوشیاں بھری شادی ہوتی ہے۔	9/66	ی 6
۹ اور ۹	بچکڑا فساد کرتے رہتے ہیں اسکی شادی نہیں کرنا چاہئے۔	9/1870	ی 10

نوٹ: نام کا صحیح ہونا لازمی ہے۔ اگر 9 پر پورا تقسیم ہو جائے تا 9 عدد ہی تصور ہوگا۔ نام جب تک مکمل طور پر درست نہیں ہوگا نتیجہ صحیح نہیں نکل سکتا۔

### دعاے قربانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فِطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَوةَیْ وَنُسُکَیْ وَمَحِیْاَیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا یُبَدِّلُ لَکَ وَبِئَا لَکَ اُھْمُرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْکَ وَکَلِّ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ

☆ اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا شروع کرے اگر خود اکیلا قربانی دے رہا ہو تو یہ الفاظ کہے **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ** اور اگر چند آدمیوں سے مل کر قربانی کی ہو تو **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا** کہے۔ ☆ اگر کسی دوسرے شخص کی طرف سے ہو تو **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْهُ** کہے اگر کئی دوسرے افراد کی طرف سے ہو تو **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْھُمْ** کہے بہتر ہے کہ **مِثْنِیْ۔ مِثْنَا۔ مِثْنُہ۔ مِنْھُمْ** کی جگہ ان لوگوں کا نام لیا جائے۔ (بشکریہ نوائے صالحین)

### عقیقہ سے شفاء

☆ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے ساتویں دن بہتر ہے یہ تاجد بلوغت باپ پر سنت ہے بعد میں خود کرے۔  
☆ بچے کے بال منڈوا کر ان بالوں کے برابر چاندی یا چاندی کی رقم صدقہ کرے  
☆ عقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط کا ہونا مستحب ہے۔  
☆ گوشت کم از کم 10 مومنوں کو کھلائیں یا کچا تقسیم کر دیں۔  
☆ والدین اور گھر کے وہ افراد جو والد کی کفالت میں ہوں عقیقہ کا گوشت نہ کھائیں  
☆ سری پائے اور کھال صدقہ کرے قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔  
☆ بوقت ذبح درج ذیل دعا پڑھے (کبیر سے اوپر والا سینہ لڑکے کیلئے اور نیچے والا لڑکی کیلئے ہے)

برائے حصول علم: **عِدَّةَ الذِّعَامِ** میں مذکور ہے کہ اگر بچہ کا دل علم کے حصول میں نہ لگتا ہو تو یہ درج ذیل آیات لکھ کر اسکے گلے میں ڈالیں اور پانی پر پڑھ کر پلائیں تو ذہن و عقل کی تیزی کے لیے مجرب ہے۔ (سورۃ اہلق: ۵۴)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَاقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّکَ الْاَکْزَمُ ۝ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ۝

Imamia Jantri Official By Ifrikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

## جدول تاریخ چاند اور تعبیر خواب (تعبیر الرویا علامہ مجلسی)

تاریخ شب	تعبیر خواب	تاریخ شب	تعبیر خواب	تاریخ شب	تعبیر خواب
یکشنبہ	اس شب کا خواب صحیح نہیں۔	گیارہویں	اس شب کا خواب صحیح ہے مگر اس کی تعبیر دیر میں ظاہر ہوگی بروایت تین روز میں ظاہر ہوگی۔	اکیسویں	اس شب کا خواب جھوٹا ہے۔
دوسری	اس شب کا خواب صحیح نہیں۔	بارہویں	اس شب کا خواب صحیح ہے مگر تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی۔	بیسویں	اس شب کا خواب سچا ہے۔
تیسری	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔	تیرہویں	اس شب کا خواب صحیح ہے اور تعبیر فوراً روز میں ظاہر ہوگی بروایت اس شب کا خواب جھوٹا ہے۔	تیسویں	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔
چوتھی	اس شب کا خواب صحیح ہے مگر اس کی تعبیر دیر میں ظاہر ہوگی۔	پندرہویں	اس شب کا خواب صحیح ہے مگر اس کی تعبیر ۲۶ یا ۲۷ روز کے بعد ظاہر ہوگی بروایت اس شب کا خواب جھوٹا ہے۔	چاندیسویں	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔
پانچویں	اس شب کا خواب صحیح ہے مگر اس کی تعبیر دیر میں ظاہر ہوگی۔	سولہویں	اس شب کا خواب صحیح ہے مگر اس کی تعبیر ۲۷ یا ۲۸ روز کے بعد ظاہر ہوگی بروایت اس کی تعبیر برعکس ہے۔	چھبیسویں	اس شب کا خواب جھوٹا ہے۔
چھٹی	اس شب کا خواب سچا ہے مگر تعبیر ایک دو روز بعد ظاہر ہوگی۔	سترہویں	اس شب کا خواب سچا ہے مگر اس کی تعبیر ۲۸ یا ۲۹ روز کے بعد ظاہر ہوگی بروایت اس کی تعبیر برعکس ہے۔	ستائیسویں	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔
ساتویں	اس شب کا خواب سچا ہے۔	اٹارہویں	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔	اٹھارہویں	اس شب کا خواب سچا ہے۔
آٹھویں	اس شب کا خواب سچا ہے۔	انیسویں	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔	انیسویں	اس شب کا خواب سچا ہے۔
نویں	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔	بیسویں	اس شب کے خواب کی تعبیر برعکس ہے۔	بیسویں	اس شب کا خواب سچا ہے۔
دسویں	اس شب کا خواب جھوٹا ہے۔	بیسویں	اس شب کے خواب صحیح اور موثر ہے۔	تیسویں	اس شب کا خواب راست صحیح اور موثر ہے۔

### آپ کا معاون و مبارک نگینہ (نگینوں کا تعلق راس کے ساتھ)

برج	ستارہ	رنگ	متعلق نگینہ	برج	ستارہ	رنگ	متعلق نگینہ
حمل - بیکہ	مرخ	سرخ	ہیرا، ہونگا، یا قوت، جنتیق یعنی، اوہل	میزان - ثلثا	زہرہ	سفید سیاہی مائل	مرجان، ہیرا، بکھراج، ڈنڈ نجف، لہسنیہ
ثور - بیکہ	زہرہ	سفید	مرجان، سرخ، ہیرا، ڈنڈ نجف، موتی	مغرب - برجک	مرخ	سرخ	ہیرا، یا قوت، ہونگا، جنتیق
جوزا - مقنن	عطارد	سرخ مائل	بکھراج، زمرہ، زبرجد	قوس - دمن	مشتزی	زرد	فیروزہ، بکھراج، زرد، لہسنیہ، زمرہ
سرطان - کرک	قر	سفید	نیلیم، جہرا، جنتیق، زرد، بکھراج، زرد، لہسنیہ	جدی - مکر	زحل	سیاہ نیلا	موتی، نیلیم، جنتیق یعنی، ڈنڈ نجف
اسد - سنگھ	شس	نارنجی	نیلیم، مرجان، جنتیق، یا قوت	دلو - کنبہ	زحل	نیلا سیاہ	جنتیق، سرخ، نیلیم
سنبلہ - کنیا	عطارد	سفید	جنتیق، زرد، زبرجد، اوہل	حوت - مین	مشتزی	زرد پیازی	بکھراج، سفید، ڈنڈ نجف

### ہر ماہ کی پیدائش سے نگینوں کا تعلق

جنوری	کومدیک، یا قوت، لعل، جنتیق، سرخ	اپریل	ہیرا، نیلیم، یا قوت، جنتیق	جولائی	یا قوت، جنتیق یعنی، گہرا، سرخ	اکتوبر	اوہل، ڈنڈ نجف، زبرجد
فروری <th>نیلیم، لاجورد، جہرا، قر</th> <th>مئی</th> <th>زمرہ، جنتیق یعنی</th> <td>اگست</td> <td>مرجان، یا قوت، جنتیق یعنی</td> <td>نومبر</td> <td>بکھراج، زبرجد</td>	نیلیم، لاجورد، جہرا، قر	مئی	زمرہ، جنتیق یعنی	اگست	مرجان، یا قوت، جنتیق یعنی	نومبر	بکھراج، زبرجد
مارچ	فیروزہ، ڈنڈ نجف، زبرجد	جون	موتی، زمرہ	ستمبر	نیلیم، یا قوت، جنتیق زرد	دسمبر	لاجورد، یا قوت، فیروزہ

# شیخ زوار رضا جاوا Sheikh Zavar Raza Jawa

www.humaliwalayazar.com

”سحر کلم الیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات“

بامرہ ان فی ذالک لایت القیوم المظنون



## زائچہ / BirthChart

اپنے مسائل کی تشخیص اور ان کے حل کے لیے آئمہ طاہرین کے پاک و پاکیزہ علم، علم جعفر و نجوم سے مدد حاصل کیجئے۔ جس میں زندگی کے تقریباً تمام اہم شعبہ جات پر مفصل روشنی ڈالی جائے گی۔ مثلاً شخصیت، مالی پوزیشن، عزیزو اقارب سے تعلقات، اندرون ملک سفر، سماجی حیثیت، پراپرٹی، خاندان اور ان جیسے دیگر امور اور مسائل پر روشنی اور ساتھ ساتھ انکا حل بھی بتایا جا رہا ہے۔

## Match Making/Compatibility

شادی سے قبل یہ ضرور دیکھ لیں کہ لڑکے اور لڑکی کے مابین تعلقات کیسے رہیں اس طرح آپ شادی کے بعد کی بہت سی قباحتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شادی کب کرنا بہتر نتائج کا حامل ہوگا یا شادی میں روکاوت کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔

## الواح / Alwah

تمام سیارگان شمس، قمر، مشتری، زہرہ، عطارد، مریخ، زحل کے اوج و شرفات کی الواح (لوح رنخوست سیارگان، مجرب انگشتریاں، عدد ۹ والی انگوٹھی، حرز والی انگوٹھی، حرز جان، حروف مقطعات، لوح فتح نامہ، لوح تسخیر خلافت، لوح سات سلام، بخور خاص بھی دستیاب ہے)

## Gems Lab

نگینہ نام اور تاریخ پیدائش کے حساب سے تجویز کیا جاتا ہے۔ قسمت اور حالات میں بہتری، ستاروں کی نحوست رفع کرنے، بیماری اور سحر جادو، آسیب کے اثرات کو روکنے کے لیے بہترین نگینہ تشخیص کروائیں۔

## صدائے کواکب / Youtube

دیکھیے نیچے Youtube چینل

(Sheikh Zavar Raza Jawa شیخ زوار رضا جاوا)

(Raza Jawa رضا جاوا)

ہفتہ وار / ماہانہ زائچے اور دیگر موضوعات پر ویڈیوز

## ویب سائٹ (Website)

اب گھر بیٹھے اپنی پسند کے جواہرات نگینے منگوانے کے لیے ہماری ویب سائٹ "Jawa Gem" اور فیس بک پیج Jawa Gems بروٹ کریں۔

Website: www.jawagems.com

Youtube : Sheikh Zavar Raza Jawa, Jawa Gems

Instagram: zavarrazajawa

Twitter : @sheikhzavarraza

Facebook: Sheikh Zavar Raza Jawa, Raza Jawa



یقینی تحفظ بے خوف زندگی



www.humaliwalayazar.com



کیا آپ اب بھی آگ سے کھیل رہے ہیں؟

**زرا سوچیئے!!**

**آگ کا سب سے بڑا سبب شارٹ سرکٹ**

PVC انسولیشن کیبل نہ صرف آگ لگنے کا سبب بنتی ہے بلکہ جلنے کے بعد اس کا زہریلا دھواں دم گھٹنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے بعد **فائر ریزسٹنٹ پولیمر سے تیار کردہ FR Cables** اب پاکستان میں پہلی بار۔

① 950°C تک حرارت برداشت کرنے کی قوت ② آگ اور شارٹ سرکٹ سے محفوظ ③ زہریلے دھوئیں سے محفوظ ④ زیر وپیلو جن میٹریل ⑤ 99.99% فل گجج خالص کا پر ⑥ بجلی کے مل میں یقینی بچت ⑦ مصدقہ اداروں سے تصدیق شدہ

Pakistan's First Fire Resistant Cables

**Spell Petrochemicals (Pvt) Ltd.**

88-E-1, Model Town Lahore, Pakistan.

UAN: 042-111-177-355 Fax: 042-35884854

E-mail: frcables@spellgroup.com

Web: www.frcables.com



قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو شہید کے خون سے تولا جائے گا اس وقت علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ 2020

شیخ زوار رضا جاوا

(ماہر فلکیات)

148 شادمان 1 جیل روڈ لاہور

0321-9477284

0300-0891363

www.enlighteningspirits.com  
E-Mail: jawa1215@gmail.com

# یک سالہ زائچے 2020

## کے فلکی اثرات



نوٹ: مندرجہ ذیل دعا 9 مرتبہ روزانہ مقررہ وقت پر پڑھ کر 9 مرتبہ روزانہ پڑھ کر دم کریں۔ مشکلات آسان ہوں گی۔

Plase Subscribe Our Youtube Channale [www.youtube.com/SheikhZawarRazaJawa](http://www.youtube.com/SheikhZawarRazaJawa)

دعا: رد نحوست سیارگان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِیْمُ يَا عَلِیُّ يَا عَظِیْمُ

يَا كَافِيُّ يَا غَنِيُّ يَا مَالِكُ يَا قُدُوْسُ يَا كَبِيْرُ يَا مُتَعَالُ يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ يَا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِحْفَظْنِيْ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمِنْ نُحُوْسَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْعَطَارِدِ وَالزُّهْرَةِ وَالْيَدْبُغِ وَالْمَشْرِئِ وَالرُّحْلِ وَالرَّاسِ وَالذَّنْبِ بِحَقِّ يَا اَللّٰهُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدٌ وَيَحَقِّ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَقَاطِمَةً وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ ابْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدًا ابْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّدٍ وَمُؤَسَى ابْنَ مُؤَسَى وَمُحَمَّدًا ابْنَ عَلِيٍّ وَعَلِيَّ ابْنَ مُحَمَّدٍ وَحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَالْحَجَّةَ ابْنَ الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

جنوری فروری مئی کی دسویں موجودگی آپکو زحل کی سعادتوں سے محروم کر دے گی۔ زحل گیارہویں گھر آخر مارچ میں خوش بختی کے گھر میں داخل ہوگا مگر مئی تا ستمبر زحل کی رجعت آپکو سعادتوں سے محروم رکھے گی۔ انشاء اللہ نومبر دسمبر حالات بہتر ہونگے دوسری جانب مئی اپریل میں طالع میں شرف یاب ہوگا اور جون میں مریخ کی طالع میں آمد آپکو معاملات سنبھالنے میں معاونت فراہم کرے گی عزت وقار میں اضافہ ہوگا۔

**صحت، جاب، ملازمین** آپکے بیت الصحت کا حاکم سیارہ ایک تیز رفتار سیارہ ہونے کی وجہ سے ہر سال آپکی صحت پر اچھے برے دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا رہتا ہے 3 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی 6 تا 27 ستمبر آپکو اپنی صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی یہی وہ دورانیہ ہے جب آپکی صحت کیساتھ ساتھ آپکی جاب بھی خطرے میں ہوگی ان ایام میں ان دونوں معاملات پر خاص توجہ دیں اور جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔

**منگنی اولاد انعامی بانڈز** ابتدائے سال تا 20 مارچ نسبت طے ہونے کے امکانات انتہائی کم ہونگے اگر کوئی بات بنے گی بھی تو دیر پانہ ہوگی۔ 20 مارچ تا 22 اگست حالات آپکے حق میں ہونگے اور نسبت یا منگنی طے پا سکتی ہے تاہم 22 اگست تا 23 اکتوبر حالات میں تبدیلی مشکلات لاسکتی ہے۔ 24 اکتوبر تا 21 دسمبر قدرت ایک بار پھر آپ پر مہربان ہوگی اس دوران انعامی اسکیموں سے انعام گلنے یا بانڈز میں انعام گلنے کے ساتھ اولاد کے خواہشمند افراد کی امیدیں بھی برآئیں گی۔ جنوری تا 20 مارچ اور 23 اگست تا 23 اکتوبر بچوں کے ساتھ معاملات کشیدہ ہو سکتے ہیں از حد محتاط رہیں۔

**برج: حمل** **ARIES** **سیارہ: مریخ**

رنگ: گلابی، لکنا نیلا  
منصر: آئینی  
جواہر: مرجان، یاقوت، اولہ، جیش، یخنی  
بہترین شریک حیات: اسد قوس  
ناموافق ساتھی: سرطان، میزان، جدی

بیماریاں: جین بخار، امصابی تاز، السر، شدید مرکا زرد، ذرہ شیتہ

دن: منگل عدد: 9  
حروف: ا، ل، ع، ی  
21 Mar to 20 Apr

**اہم نکات** سال 2020 برج حمل والوں کے لئے تبدیلیوں کا سال ہے۔ اس سال دونوں بڑے سیارے مشتری اور زحل برج تبدیل کریں گے۔ جو کسی بھی برج کے لوگوں کے لئے خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور برج حمل والوں کے کیریئر خوش بختی اور روزگار پر کیا اثرات مرتب ہونگے یہ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں جبکہ ذاتی ستارہ مریخ کا پانچویں گھر شرف اور مریخ کا طالع میں شرف، زہرہ عطارد کے شرف و ہیبت آپکے معاملات زندگی پر خاصے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں اس سال 4 قمری اور 2 شمسی گرہن زائچے کے اہم ترین گھروں کو متاثر کر رہے ہیں۔

**آپکی شخصیت اور شخصی وقار** برج حمل سے وابستہ کاروباری حضرات کو اس سال زیادہ احتیاط کرنا ہوگی کیریئر کے گھر گذشتہ دسمبر سے مشتری حالت وبال آجانے سے آپکی کاروباری ساکھ داؤ پر ہوگی۔ مشتری تمام سال دسویں قیام پذیر رہتے ہوئے آپکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں لاتا رہے گا۔ دوسری جانب دسویں کا حاکم زحل مارچ تک دسویں سے لگائیکن

حالات موافق نہ ہونے کے کاموں میں التوا راجتی امور میں تاخیر اور عدالتی فیصلے آپ کے خلاف ہونے کے امکانات ہونگے محتاط رہیں۔

**حج زیارات، بیرون ملک سفر اعلیٰ تعلیم** 2 دسمبر 2019 سے درج بالا معاملات کا حاکم مشتری ایک سال تک ہیوٹ میں چلے جانے سے معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہونگی۔ ویزہ کے حصول میں رکاوٹ آپ کے سفرات میں التوالائے گی جبکہ روحانی معاملات میں از حد محتاط رہیں ورنہ آپ اپنی روحانی تسکین کیلئے غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں کسی بھی معاملہ میں اندھا اعتماد آپکو نقصان پہنچا سکتا ہے جبکہ حج زیارات کے خواہش مند حضرات کو خاص صدقات اور وردا خانائف کی ضرورت ہوگی۔

**معیشت کیرنیر روزگار** معیشت روزگار کے حوالہ سے آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا مشتری گذشتہ دسمبر سے 13 ماہ کیلئے دسویں کیرنیر کے گھر میں آچکا ہے اور اسکے ہیوٹ زدہ ہونے کی وجہ سے آپ مشتری کی سعادتوں سے محروم ہیں دوسری جانب زل 23 مارچ کو گیارہویں چلے جانے سے آپکے کیرنیر روزگار معیشت پر گہرے اور سدا اثرات مرتب ہونگے مگر 11 مئی تا 29 ستمبر رجعت کی وجہ سے کاموں میں التوالائے گا۔ جاری منصوبوں میں التوا کے ساتھ ملازم پیشہ افراد کو اپنے سینرز سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپکی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے سال کا باقی عرصہ قدرے بہتر رہے گا (ان شاء اللہ)

**دوست احباب خواہشات کاروباری فوائد** آپکے گیارہویں گھر کا مالک ستارہ زحل ابتدائی تین ماہ تک دسویں گھر رہتے ہوئے خوش بختی کے معاملات میں بہتری لائے گا مگر اسی دوران شمس کی 20 جنوری تا 19 فروری گیارہویں وبال کی حالت میں موجودگی امیدوں خواہشات کی تکمیل میں التوالا سکتی ہے 21 مارچ زل کا داخلہ گیارہویں اپنے ہی گھر ہونے سے معاملات میں تیزی سے مثبت تبدیلی آئے گی 11 مئی تا 29 ستمبر زل کی رجعت کاموں ست روی اور التوا لاسکتی ہے۔ دوست احباب کے ساتھ تعلقات کشیدہ اور بننے کاموں میں رکاؤ آسکتا ہے اور باقی دورانیہ سال کا اچھا گذرے گا یہ سال انشاء اللہ آپکی امیدوں خواہشات کی تکمیل کا سال ہوگا۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن خفیہ معاملات** 19 دسمبر تک مشتری ہیوٹ میں رہنے کی وجہ سے امیگریشن سے متعلق حالات مفاہق نہ ہونگے، 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری کی رجعت بیرون ملک مقیم افراد کو بھی واپسی کی راہ دکھا سکتی ہے بیرون ملک مقیم افراد کا کیرنیر روزگار دلا ہو پر لگ سکتا ایسے افراد کو روحانی تدارک کی اشد ضرورت ہوگی۔ مشتری کا ہیوٹ جہاں نکالیف اور بریشائیاں لارہا سے وہیں آکے خلاف ہونے والی خفیہ سازشوں کو

**شادی شراکتی ازدواجی تعلقات** شادی کے حوالہ سے ابتدائے سال سے ہی حالات آپکے موافق ہونگے۔ مگر درست وقت کا انتخاب آپکی ازدواجی زندگی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ 23 جنوری تا 7 فروری 5 مارچ تا 13 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 21 نومبر کا دورانیہ نکاح یا شادی کے لئے مناسب ہوگا۔ اس دوران ایام عزاء کو ملحوظ خاطر رکھیں اسی دوران آپکو شراکت داری کی آفر بھی مل سکتی ہے شریک کار یا شریک حیات کے ساتھ آپکے تعلقات اچھے رہیں گے تاہم 8 فروری تا 5 مارچ 3 تا 12 اکتوبر 21 نومبر تا آخر سال حالات موافق نہ ہونگے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں جبکہ زانچہ پیدائش میں سیارے مطابقت نہیں رکھتے انکے مابین علیحدگی ہو سکتی ہے یہ دورانیہ نئی شادی یا کاروباری شراکت کے لئے بھی مناسب نہ ہوگا۔

**گھر خاندان پر اپرٹی** آپکے خانگی امور کا سیارہ قمر چونکہ ایک تیز رفتار سیارہ ہے اسلئے ہر ماہ گھریلو حالات تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر آپ شاپتے ہیں کہ گھریلو سکون قائم و دائم رہے تو ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب کا خاص خیال رکھا کریں۔ ہیوٹ قمر کے دنوں میں چاول آنا یا دودھ دیکھو صدقہ دینا اپنا معمول بنالیں۔ آپکے گھریلو سکون کو پروردگار محفوظ رکھے گا اسی طرح ہر قمر کا شرف گھریلو ماحول میں سکون بھی لیکر آتا ہے ان دنوں میں اہم گھریلو فیصلے کرنا سود مند ہوتے ہیں۔ اس سال 21 جون تا 7 جولائی شمس کا چوتھے گھراوج اور 7 اگست تا 6 ستمبر کا دورانیہ گھر کی تبدیلی یا پرپرٹی لین دین کے حوالہ سے نیک ثابت ہوگا اس وقت کو نوٹ کر لیں اس وقت میں خریدی گئی ایشاء یا پرپرٹی انشاء اللہ منافع بخش ثابت ہوگی۔

**ابتدائی تعلیم نزدیکی سفرات تحریری معاہدے سماجی تعلقات** گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپکو کئی ایک نزدیکی سفرات کا موقع ملے گا تیسرے کا حاکم ستارہ عطارد اوائل تا 2 فروری 11 تا 27 اپریل 12 مئی تا 6 ستمبر اور 27 ستمبر تا 2 دسمبر بہترین حالت میں رہتے ہوئے درج بالا معاملات میں بہتری لائیگا، اس عرصہ میں نزدیکی سفرات سماجی تعلقات اور کاموں میں اور تحریری معاملات میں بہتری لائے گا۔ سال کا باقی دورانیہ آپکو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی اور سفر سے قبل صدقہ ضرور ادا کریں۔

**قرضہ وراثت اور مشترکہ مالی معاملات** 31 مارچ تا 28 جون 9 ستمبر تا 14 نومبر آپکے وراثتی معاملات حل ہونے کے قوی امکانات ہونگے اسکے ساتھ مالی منافع کا حصول ممکن ہوگا جبکہ قرض لینے کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر تک حالات ملے چلے رہیں گے اور کاموں میں قدرے رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 31 مارچ تا 27 جون

بھی دبا دے گا پروردگار عالم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال چار قمری اور دو شمسی گرہن لگیں گے جو کہ زائچہ حمل افراد کے خانگی معاملات بچوں عزیز و اقارب کیریئر اور بیرون ملک سفرات اور عزیز و اقارب کے ساتھ سسرالی معاملات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ جتنی ہذا سے نوٹ کر لیں ان تواریخ میں صدقات اور نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں۔ اس بارے مزید مکمل تفصیلات آپ میرے youtube چینل Sheikh Zawar Raza Jawa پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ **صدقہ** 31 مارچ تا 28 جون ہر منگل 900 گرام وال مسور یا مرغی کی کچی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں اور تمام سال ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا 3 پاؤ بڑا گوشت کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں۔ **نوٹ** صدقہ کسی بھی راہگزر میں ہرگز نہ ڈالیں **ورد خاص** روزانہ بعد از فجر سورۃ شوریٰ آیت نمبر 19 ایک تسبیح ورد کریں بعد اول و آخر 16-16 مرتبہ درود پاک، دوران ورد گفتگو سے پرہیز کریں۔

31 مارچ تا 28 جون اور 10 ستمبر تا 14 نومبر آپکو شرکتی و ازدواجی معاملات پر خاص توجہ دینا ہوگی معاملات کو بڑے حوصلہ سے حل کرنا ہوگا ورنہ آپکی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے۔

**مالی پوزیشن** آپکے مالی امور کا سیرہ عطار ایک تیز رفتار سیرہ ہے اس لیے آپکے مالی معاملات تیزی سے تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں۔ 3 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی اور 6 تا 27 ستمبر اور 2 تا 21 دسمبر آپکو بہت محتاط رہنا ہوگا، مالی معاملات تحریری معاہدے یا لین دین سے گریز کریں 31 مارچ تا 13 مئی کیریئر کے گھر مرخ کی موجودگی آپکے کاروباری معاملات کے لئے کسی طور پر بھی سود مند نا ہوگی از حد محتاط رہنا ہوگا اس دوران کیریئر یا کاروباری معاملات میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔

**عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفرات** آپکے بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ 28 قمر دن میں سیر افلاک کرتا ہوا ایک بار پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا اسکی بنیادی وجہ نئے چاند کا طلوع ہونا ہے۔ اسی دوران قمر اوج حنیض شرف طرح فرخ کی منازل طے کرتا ہوا آپکے تعلقات پر اچھے برے ہر طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے اسی طرح جہاں شرف قمر ہر ماہ آپکے عزیز و اقارب سفرات ابتدائی تعلیم پر سعد اثرات مرتب کرتا ہے وہیں ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپکے تعلقات میں بگاڑ بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ درج معاملات کو بہتر طریقہ سے چلانے کے لئے قمر کی حالت کے اوقات کو جتنی سے نوٹ کریں اور اسکے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو فالو کریں تاکہ آپکو بروقت اطلاع مل سکے ہر ماہ قمر در عقرب میں دو کونوٹا چاول کا صدقہ دینا خود پر لازم کر لیں۔

**گھر خاندان، پراپرٹی** آپکے زائچہ کا چوتھا گھر آپکے گھریلو حالات آرام سکون اور خانگی معاملات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے آپکے گھریلو معاملات کا حاکم ستارہ شمس ہے جو کہ آغاز سال تا 19 فروری 20 مئی تا 20 جون 22 ستمبر تا 23 اکتوبر اور 21 دسمبر تا آخر سال شمس سعد نا ہوگا یہ وہ دورانیہ ہے جب آپکے خانگی معاملات سر اٹھائیں گے اس دوران گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کا لین دین بہتر نا ہوگی۔ جبکہ 22 ستمبر تا 23 اکتوبر کا دورانیہ اس حوالہ سے شمس ترین دورانیہ ہوگا۔ 20 مارچ تا 19 مئی اور 21 ستمبر تا 24 اکتوبر تا 20 دسمبر کا دورانیہ بالعموم اور 7/8 مارچ اور 11/12 جولائی بالخصوص وہ ایام ہونگے جب گھر کی تبدیلی یا خرید و فروخت کے لئے حالات آپکے حق میں ہونگے اور آپکو گھریلو سکون میسر ہو سکے گا۔

**اولاد انعامی بانڈن لائٹری** 2020 اس حوالہ سے ملا جلا سال

**برج: ثور** **TAURUS** **سیارہ: زہرہ**

رنگ: \_\_\_\_\_ گھرائلا  
 منکر: \_\_\_\_\_ خاکی  
 جواہر: \_\_\_\_\_ الماس، نیلم، فیروزہ  
 بہترین شریک حیات: \_\_\_\_\_ سنبلہ، جدی  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_ اسد، عقرب، دلو

بیماریاں: حلق اور کانوں کے امراض، پھوڑے، پشیمان، تولیدی مسائل

دن: جمعہ ۶: \_\_\_\_\_ 21 Apr to 21 May \_\_\_\_\_ حروف: ب، و

**اہم نکات** سال 2020 برج ثور والوں کے لئے تبدیلیوں کا سال ثابت ہوگا کیریئر کا حاکم زحل کا اپنے ہی گھر آنا اور وسط مئی تا آخر ستمبر رجعت کے دوران کاروباری معاملات پر اہم اثرات مرتب کرے گا۔ جبکہ مشتری دسویں ہبوط کے گھر میں گذشتہ سال دسمبر سے آچکا ہے جو کہ 14 مئی تا 23 ستمبر رجعت میں ریکر خواہشات کی تکمیل پر منفی اثرات مرتب کرے گا ساتویں بارہویں کا حاکم مرخ جہاں شرف میں رہتے ہوئے سعد اثرات مرتب کرے گا وہیں حنیض کے اوقات میں ازدواجی معاملات اور بیرون ملک سفرات قیام اور تعلقات کو بری طرح متاثر بھی کرے گا۔

**شخصی وقار** آپکا ذاتی ستارہ زہرہ اس سال 8 فروری تا 5 مارچ، 3 اکتوبر تا 28 اکتوبر اور 21 نومبر انتہائی مثبت پوزیشن میں ہوتے ہوئے آپکی شخصیت پر نہایت سعد اثرات مرتب کرے گا مگر اسکے ساتھ ساتھ آپکو دیگر عوامل پر بھی توجہ دینا ہوگی اور اپنے معاملات کو تحمل اور بردباری سے حل کرنا ہو

منافع کا حصول آپ کے لئے مشکل ہوگا اگر آپ پہلے سے شراکت داری کر رہے ہیں تو اس حوالہ سے کوئی روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفرات حج و زیارات آپ کے**  
نویں گھر کا حاکم زحل گذشتہ دو سالوں سے آپ کے زائچے کے نویں گھر رہتے ہوئے بیرون ملک سفرات کی راہیں ہموار کرتا رہا ہے۔ اسی طرح اکثر ثور افراد نے روحانی مدارج بھی طے کئے اور انکا تعلق اپنے خالق حقیقی سے زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اس سال آپ کے قدرے طے چلے اثرات کا سامنا رہے گا مشتری نویں گھر ہیوٹ میں رہتے ہوئے آپکو امتحان سے دو چار رکھے گا۔ دوسری طرف زحل اپنے برج میں دسویں گھر مارچ میں چلے جانے سے مشتری کے اثرات کو دبا دے گا البتہ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت آپ کے بیرون ملک سفرات میں رکاوٹ کا باعث ہوگی ان دنوں میں ویزہ پلائی کرنے سے اجتناب کریں یہ بعد از امتحان اگلی کلاس میں منتقلی کا سال ہوگا۔

**معیشت، کیرئیر، روزگار ترقی و تنزلی**

2020 معیشت کیرئیر کے لحاظ سے ایک مالا جلا سال نظر آ رہا ہے گوکہ بہتری زیادہ ہے تاہم کچھ دورانیہ احتیاط طلب ہوگا۔ 20 جنوری تا 21 فروری کیرئیر کے گھر شمس کا وبال آپ کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ 19 فروری تا 31 مارچ تک حالات قدرے بہتر ہونگے۔ 31 مارچ کو مریخ دسویں بحالت حسیض دسویں گھر آجایگا اور 13 مئی تک یہیں قیام پذیر رہتے ہوئے کاروبار کیرئیر روزگار کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے بالخصوص وہ افراد جو کسی طور پر مشتری کا روبرو سے منسلک ہیں انکے لئے یہ وقت کسی طور بہتر نہ ہوگا۔ سال کا باقی دورانیہ حالات انشاء اللہ موافق رہیں گے تاہم آپکو تیز رفتار اور کم مدت کے منصوبوں سے گریز کرنا ہوگا زحل ہمیشہ طویل دورانیہ کے کاموں میں معاون ہوتا ہے زحل یہاں کیرئیر کے گھر میں اڑھائی سال تک قیام پذیر رہے گا۔

**دوست احباب، خواہشات کاروباری فوائد** جیسا کہ پچھلی طور میں بتایا گیا ہے کہ مشتری اس سال ہیوٹ میں رہے گا مشتری جو آپ کے گیارہویں خواہشات کے گھر کا حاکم ہے قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے آپکو مطلوبہ نتائج دینے سے قاصر ہوگا اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں دوست احباب سے واسطہ تو قعات بھی شاید پورا نہ ہو سکیں جتنی آپ امید رکھتے ہیں اس سال اٹھائے گئے کاروباری اقدامات کا ثمر اس سال کم جبکہ آئندہ سال بھر پور ثمرے کا البتہ جن افراد نے مشتری کی نحوست سے بچاؤ کوئی روحانی تدارک کر لیا وہ انشاء اللہ مطلوبہ نتائج کا حصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن** اس حوالہ سے آپکو اس سال

ہوگا۔ یکم تا 2 فروری 11 تا 28 اپریل اور 12 مئی تا 6 ستمبر، 2 تا 21 دسمبر آخر سال آپ کو بچوں کے ساتھ وقت صرف کرنے کے بہتر مواقع میسر آئیں گے آپ خود کو خاصہ پرسکون محسوس کریں گے۔ بے اولاد حضرات کو 12 مئی تا 8 ستمبر خصوصی طور پر اولاد کے حوالہ سے خوش خبری مل سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں کے حوالہ سے 12 مئی تا 5 ستمبر اور 27 ستمبر تا 2 دسمبر کا دورانیہ ایسی اسکیموں میں انوشنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ ثور افراد کو 3 فروری تا 10 اپریل اور 6 ستمبر تا 27 ستمبر بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی آپ کے تعلقات بچوں سے کشیدہ ہو سکتے ہیں۔

**صحت، ملازمت، ملازمین** آغاز سال 13 جنوری سے ہی ملازمت کے حوالہ سے ماحول مناسب ملنا شروع ہوگا۔ 13 جنوری تا 8 فروری 5، مارچ تا 13 اکتوبر، اور 28 اکتوبر تا 15 دسمبر آپکو صحت اور ملازمت دونوں جانب سے حالات انتہائی سازگار ملیں گے بہتر جاب کا حصول اور جاب کا سوچ کرنا ممکن ہوگا۔ اس دوران ملازمین رکھنا چاہئیں تو بہتر اور با اعتماد ملازمین مل سکیں گے۔ جبکہ 8 فروری تا 4 مارچ اور 3 تا 27 اکتوبر 15 تا 31 دسمبر آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا جاب چھوڑنے کی قطعی غلطی نہ کریں ورنہ دوبارہ جاب کا حصول مشکل ہو سکتا ہے 6 تا 27 ستمبر صحت کا خاص خیال رکھیں آپکی صحت بوجہ جادو جحر متاثر ہو سکتی ہے۔

**شادی، ازدواجی تعلقات، شراکت داری** آپ کے بیت الذوج کا حاکم سیارہ مریخ آغاز سال تا 30 مارچ بہترین حالت میں رہتے ہوئے آپکی ازدواجی و شراکتی معاملات پر اچھے اثرات مرتب کر رہا ہے بالخصوص 16 فروری تا 30 مارچ کا دورانیہ انتہائی آپکو خوشیوں سے ہمکنار رکھے گا انشاء اللہ۔ آپکی شادی طے پانے کے قوی امکانات ہونگے شادی شدہ جوڑوں میں انتہائی جذباتی نوعیت کے عمدہ تعلقات بڑھیں گے اور آپکو نئی شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ کی پہلے برج دلو میں حسیض کی حالت اور پھر برج حوت میں بحالت طرح رہنے سے آپ کے مابین کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا۔ 28 جون کو مریخ برج حمل آ جانے سے آپکو اپنے تعلقات بحال کرنے کا موقع ملے گا۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت ایک بار پھر آپ کے بنے بنائے کاموں میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے اس دوران آپکی طے شدہ شادی بھی خدا نخواستہ رک سکتی ہے۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات اور قرضہ** اس حوالہ سے سیارگان موافق نظر نہیں آ رہے اس سال آپکو بوجہ ہیوٹ مشتری وراثتی اور مالی معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر اس حوالہ سے آپ کے کہیں عداوتی سطح پر ہیں تو فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے۔ اس سال شراکت داری سے



**برج: جوزا** **GEMINI** **سیارہ: عطارد**

رنگ: \_\_\_\_\_ پلازرد  
 منصر: \_\_\_\_\_ ہادی  
 جواہر: \_\_\_\_\_ زمرد، زبرجد، زرد تیش  
 بہترین شریک حیات: \_\_\_\_\_ میزان، دلو  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_ شہلہ، قوس، حملت

**بیماریاں:** مویں، سینے کے عوارض، کمر اور سانس کی تکالیف، اعصابی تکالیف

دن: بدھ عدد: ۵ 22 May to 21 Jun **حروف: ق، ک**



ملے جلے اثرات کا سامنا رہے گا۔ جہاں کچھ مسائل آئیں گے وہیں کچھ سیارگان امداد رپی بن کر آپ کی محافظت کا کام بھی سرانجام دیں گے۔ آغاز سال تا 16 فروری بالعموم اور 16 فروری تا 30 مارچ بالخصوص آپ کے بارہویں کا حاکم مریخ شرف میں رہتے ہوئے آپ کے ایگریگیشن سے منسلک مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ادھر 31 مارچ مریخ حقیض میں آجانے سے بیرون ملک قیام میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں تو 20 مارچ تا 19 اپریل شمس آپ کے بارہویں شرفی گھر میں قیام کرتے ہوئے مریخ کی نحوستوں کو کاٹ بھی رہا ہے البتہ 19 اپریل تا 28 جون مریخ کی منفی حالت اور 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت آپ کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال گرہن کثرت سے لگ رہے ہیں جس میں چار قمری اور دو شمسی گرہن لگ رہے ہیں یہ گرہن آپ کی مالی پوزیشن سماجی تعلقات، نزدیکی سفرات تحریر و تقریر اور مشرکہ مالی اور وراثتی معاملات کے ساتھ ازدواجی معاملات میں کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں بروقت صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی سے آپ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ گرہن کی توارخ امامیہ جنتری میں الگ صفحات پر دی گئی ہیں نوٹ کر لیں اسکے علاوہ دیگر تفصیلات یوٹیوب چینل شیخ زور رضا جاوید پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا تین پاؤ بڑا گوشت اور تین چمچ ہلدی کسی غریب مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈالیں۔ **ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 درود پاک نومرتبہ اول آخر کے ساتھ ورد کریں

**مجرب ترین نسخہ برائے شوگر**

درج ذیل 16 اشیاء ہم وزن لیکر سفوف بنا کر آدھا چمچ جائے والا یا حسب ضرورت منہ نہار پچا تک کر پانی پی لیا کرے چند دنوں کے اندر اندر شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (از علامہ ظفر عباس اسدی)

**نوٹ** نسخہ استعمال سے پہلے شوگر کا پوائنٹ چیک کر لیں بہت زیادہ کم ہونے پر دوائی کا استعمال کم کر دیں۔

- ① کلونجی ② کشلی جامن ③ گڑ مار بوٹی ④ خام کرلیہ ⑤ چم شمش ⑥ تنبہ
- ⑦ گوند کیکر ⑧ تخم آ ⑨ زیری سیاہ ⑩ تخم نیم ⑪ ما جو ⑫ کپور
- ⑬ رسونت ⑭ ہرڑ سبز ⑮ کالے پنے ⑯ فسطین۔

برائے گمشدہ: درج ذیل آیت مع دعا چند مرتبہ پکرا کر کریں تو گمشدہ چیز مل جائیگی

اِنَّ اللّٰهَ وَاٰتِ الْيَوْمِ الْآخِرِ عَلٰمٌ لِّمَا تُعْمَلُوْنَ ﴿۱﴾ يَا مُعِيذُ زِدْ اِلَيْ (گمشدہ کا نام لیں)

**اہم نکات 2020** آپ کے لئے اہم اور تبدیلیوں سے بھرپور سال ہے اس سال زحل اور مشتری دونوں ہی اپنے گھر تبدیل کر رہے ہیں زحل آٹھویں سے نویں اپنے ہی ذیلی گھر برج دلو میں داخل ہو جانے سے آپ کے روحانی سفر کا آغاز ہو جائے گا گذشتہ اڑھائی سال سے زحل جو کہ آپ کے آٹھویں گھر میں تھا جن مشکلات سے آپ دوچار رہے ہیں ان مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا مشتری گذشتہ 2 دسمبر سے آپ کے زائچے کے آٹھویں برج جدی ہبوط کے گھر میں آچکا ہے اب آپ کے شراکتی ازدواجی اور بالخصوص کاروباری مسائل آپ کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس حوالہ سے خصوصی طور پر کوئی روحانی تدارک کر لینا مناسب ہوگا۔ چھٹے گیارہویں کا حاکم مریخ شرف یاب ہو کر آپ کی صحت اور ملازمت پر اچھے سعد اثرات مرتب کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپریل تا جون مریخ کی نحوست آپ کے کیریئر روزگار اور بیرون ملک سفرات کو بھی متاثر کر رہا ہے

**شخصی وقار** اس سال دو چیزیں اس حوالہ سے آپ کے لئے اہم ہونگی ایک عطارد جو آپ کا اپنا ستارہ ہے 3 فروری تا گیارہ اپریل، 28 اپریل تا بارہ مئی، اور 27 تا 2 ستمبر، 21 تا دسمبر منفی ہوگا یہ اوقات آپ کے شخصی وقار کے حوالہ سے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ حضرت علیؑ کا فرمان ذیشان ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اسکی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں علم نجوم میں سیارہ عطارد آپ کی زبان اور سوچ پر حکومت کرتا ہے تو اس دورانیے میں آپ کو تحریر و تقریر پر خصوصی توجہ دینا ہوگی دوسری اہم بات سیارہ مشتری کی آٹھویں ہبوط کے گھر موجودگی ہے آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے آپ کے شراکتی ازدواجی و کاروباری معاملات لوگوں میں آپ کی شہرت کو متاثر کر سکتے ہیں۔

**مالی پوزیشن** آپ کے مالی معاملات کا حاکم ستارہ قمر ایک ماہ میں اچھے برے ہر طرح کے حالات سے گذرتے ہوئے آپ کے مالی معاملات پر خاصے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جوزا افراد کبھی کفایت شعار نظر آتے ہیں تو کبھی نہایت ہی فضول خرچ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مالی

Imamia Jantri Official By Ifrikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

ایک شخص نے امام حسنؑ سے پوچھا بزدلی کیا ہے؟ فرمایا: دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا۔ حضرت امام حسنؑ

معاملات کو بہتر اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو دو کلو ٹونا چاول یا دودھ کا صدقہ دینا معمول بنالیں اور ہر قدر عقرب (قدر عقرب کی تواریخ جنتری میں دی گئی ہیں) پر دیا کریں۔ اسکے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں۔ اس سال کیرئیر روزگار کا ستارہ مشتری بہبوط میں ہوگا جسکی وجہ سے آپ کے مالی معاملات متاثر ہونگے چونکہ یہ ایک طویل مدت (13 ماہ) تک محسوس رہے گی لہذا اس کا روحانی تدارک لازمی کریں

### عزیز و اقارب، نزدیکی سفرات، اور ابتدائی

جو افراد یوں بھی خاصے سوشل واقع ہوتے ہیں اس سال آپ کو عزیز و اقرباء کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے اور بھی زیادہ مواقع ملیں گے۔ چونکہ لٹریچر پڑھنا اور لکھنا آپ کو زیادہ پسند ہے لہذا آپ کے تعلیمی میدان میں بھی آپ خاص کامیاب نظر آتے ہیں ماسوائے ان افراد کے جن کا عطار وقت ولادت غروب کی حالت یا نحس حالت میں ہو۔ اسی طرح آپ کو کئی سفرات آپ کی بادی طبع کے مطابق میسر آئیں گے۔ 20 مارچ تا 19 مئی، 21 جون تا 21 ستمبر، 23 اکتوبر تا 21 دسمبر کا دورانیہ آپ کے لئے نہایت بہترین ثابت ہوگا سال کے دیگر اوقات میں آپ کو نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔

**گھر خاندان پر اپرٹی** آپ کے گھر سکون کا دار و مدار پروردگار کے بعد آپ کے موڈ پر ہوتا ہے اس سال آغاز سال تا 2 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر اور آخر سال تک کا دورانیہ انشاء اللہ بہتر رہے گا۔ اہل خانہ و خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات بہتر ہونگے جبکہ پر اپرٹی جائیداد کے لین یا تبدیلی کی صورت میں موافق حالات ہونگے۔ سال کا باقی دورانیہ بہتر نا ہوگا محتاط رہیں اس دوران گھر کی تبدیلی یا پر اپرٹی کے لین دین سے گریز کریں۔

**اولاد انعامی بانڈز لٹری** بچوں کے حوالہ سے اس سال آپ کو قدرے ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا۔ 13 جنوری تا 7 فروری اور 5 مارچ تا 2 اکتوبر، اور 28 اکتوبر تا بیس نومبر بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات انشاء اللہ تعالیٰ بہتر رہیں گے۔ جبکہ بے اولاد جوڑوں کو بفضل تعالیٰ اولاد کی خوشیاں نصیب ہونگی یہی وہ دورانیہ ہوگا جب آپ کو کوئی بڑا انعام لگ سکتا ہے اس دوران حسب ضرورت کوشش کر سکتے ہیں۔ دیگر اوقات میں 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر، اور 21 نومبر تا آخر سال آپ کو بچوں کی جانب سے پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، بالخصوص حاملہ خواتین کو ان اوقات میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہوگی جبکہ اس دوران آپ کو بچوں کی جانب خصوصی توجہ اور بچوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی۔

**صحت ملازمت اور ملازمین** اس سال آپ کو صحت اور ملازمت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی آغاز سال تا 30 مارچ آپ کو موافق حالات ملیں گے جبکہ آپ کو نئی ملازمت کی آفر ملنے کی امید ہے اور صحت بہتر رہے گی۔ مگر 31 مارچ تا 27 جون آپ کو صحت اور ملازمت دونوں پر توجہ دینا ہوگی اسی دوران آپ کو خدا نخواستہ سرجری سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے پروردگار آپ کو اپنی امان میں رکھیں۔ 28 جون سے حالات میں بہتری آئے گی مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر بوجہ جمعیت مشتری آپ کو ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

**شادی ازدواجی زندگی شراکت داری** 2020 آپ کی شادی اور ازدواجی زندگی دونوں کے حوالہ سے بہتر سال نا ہوگا۔ آپ کے بیت الزوج کا حاکم ستارہ مشتری سارا سال بہبوط میں رہتے ہوئے آپ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے گا بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ کسی امتحان سے کم نا ہوگا اگر معاملات کو تحمل اور برداشت کی روش پر نا سلجھا یا تو آپ کی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سال نئی شادی کے حوالہ سے گریز کریں تو بہتر ہوگا ورنہ اس سال کی گئی شادیاں اچھے انجام کو نا پہنچ سکیں گی اسی طرح یہ سال شراکت داری کے لحاظ سے بھی اچھا نا ہوگا۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ** اس سال مشترکہ مالی امور شراکتی اور وراثتی مسائل بوجہ بہبوط مشتری آپ کی پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں نئے عدالتی کیسز داخل کرنے سے گریز کریں جبکہ گذشتہ جاری کیسز کا فیصلہ بھی آپ کے خلاف آنے کی توقعات ہوگی۔ باہمی طور پر اندرون خانہ معاملات حل کرنے کی کوشش کریں اس سال بینکوں کی جانب سے سہولیات ملنے کی خاص امید نا ہے اور نا ہی قرضہ ملنے کا کوئی امکان ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفرات، حج و زیارات** آپ کے نویں گھر کا حاکم ستارہ 21 مارچ کو نویں گھر داخل ہوجانے سے آپ کے بیرون ملک سفرات جانے کی راہیں کھل جائیں گی۔ آپ کے حج یا زیارات کے سفر کی خواہشات بفضل تعالیٰ پوری ہونگی۔ زحل جیسے معلم ستارے کا نویں گھر میں آنا آپ کو روحانی علوم کے حصول میں انتہائی معاونت فراہم کرے گا مگر یہ علوم صرف وہ افراد حاصل کر سکیں گے جو توکل کریں گے۔ اعلیٰ تعلم حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو بھی انشاء اللہ کامیابیاں نصیب ہونگی 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت قدرے رکاوٹ کا باعث ہوگی۔

**معیشت کیریئر روزگار ترقی تنزلی** جیسا آپ پچھلی طور میں پڑھ چکے ہیں کہ مشتری اس سال بہبوط میں رہے گا۔ مشتری آپ کے کیریئر روزگار کا ستارہ بھی ہے مشتری کا یہ بہبوط اس سال آغاز سال تا 19 دسمبر جاری رہے

**برج: سرطان** **CANCER** **سیارہ: قمر**

رنگ: \_\_\_\_\_ ستیہ دروہیا  
 عنصر: \_\_\_\_\_ آبی  
 جواہر: \_\_\_\_\_ بکراج موتی، زمرد، حقیق  
 بہترین شریک حیات: \_\_\_\_\_ عقرب، حوت  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_ حمل، مہدی، میزان

بیماریاں: بھیمڑوں اور سانس کی تکلیف، مدہ، گردوں اور عیاشی کی تکالیف

دن: \_\_\_\_\_ بصر \_\_\_\_\_ عدد: ۲ \_\_\_\_\_ حروف: ۲۰

22 June to 23 July



گا اس سال نئے منصوبوں کی بنیاد رکھنے یا نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا ہوگا پوری توجہ گذشتہ جاری کاموں کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچانے میں لگانا ہوگی تا کہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جاسکے، اسکے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو بھی ترقی ملنا مشکل ہوگی اس سال اپنے کیریئر روزگار کو بچانے کے لئے لازمی ہوگا کہ روحانی تدارک از قسم صدقہ ورد و خائف کی صورت میں ضرور کریں تاکہ مشکلات سے بچا جاسکے۔

**دوست احباب خواہشات کاروباری فوائد** سال کا آغاز ہی آپکی خواہشات کی تکمیل سے ہو رہا ہے۔ آپکی خوش بختی عروج پر ہوگی گیارہویں کا مالک مریخ آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگا اور دوست احباب کا بھر پور تعاون میسر رہے گا۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ کے پہلے طرح اور پھر حقیض میں رہنے کی وجہ سے خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اٹھائیس جون کے بعد حالات ایک بار پھر آپکے حق میں ہونگے اور رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے جبکہ مریخ کی رجعت 10 ستمبر تا 14 نومبر رہتے ہوئے ایک بار پھر آپکی مشکلات میں اضافہ ہوگا دوست احباب سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن خفیہ سازشیں** آپکے زائچہ کا بارہواں گھر بیرون ملک قیام سفرات اور امیگریشن سے منسوب ہے اس کا حاکم سیارہ زہرہ آغاز سال تا 8 فروری انتہائی سعد حالت میں رہے گا بیرون ملک قیام کی کوششیں کامیاب ہوگی اس دوران ویزہ اپلائی کرنا نہایت سود مند ہوگا۔ 5 مارچ تا 28 اکتوبر 28 اکتوبر تا اکیس نومبر امیگریشن اپلائی کرنے کے حوالہ سے نہایت مفید اوقات ہونگے۔ سال کے باقی دوران میں ایسے اقدامات سے گریز کریں۔ اللہ کے نظام کائنات میں جہاں کسی کام کے فوائد ہوتے ہیں وہی کسی جگہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جس دوران امیگریشن کے لئے حالات سازگار ہونگے اسی دوران خفیہ سازشوں کا میدان بھی آپکے خلاف سرگرم ہوگا آپکا زہد محتاط رہنا ہوگا۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے چار قمری اور دو شمسی گرہن بالخصوص ازدواجی شراکتی سماجی تعلقات مالی پوزیشن اور وراثتی و مشترکہ مالی مفادات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ آپ جنتری سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ الگ شائع کئے جاسکے ہیں۔

**ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح اول آخر بارہ بار مرتبہ درود پاک سورۃ طلاق کی آیت نمبر دو اور تین کا ورد کریں (و من یتق الله تالله یتقہ) صدقہ ہر جمعرات کم از کم 300 گرام بڑا گوشت اور 3 چمچے ہلدی کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں۔

سال 2020 یوں تو تمام بروج میں تبدیلیوں کا سال ہوگا تاہم برج سرطان کے لئے یہ تبدیلیاں زندگی کے اہم امور میں اہم نوعیت کی ہونگی۔ مارچ میں زحل اس سال ساتویں برج جدی سے نکل کر آٹھویں گھر میں داخل ہوگا۔ جبکہ چھٹے گھر موجود مشتری ساتویں گھر ہیوٹ میں داخل ہو کر ازدواجی شراکتی سماجی معاملات، صحت جاب اور بیرون ملک سفرات روحانیت اور سسرالی عزیز واقارب کو متاثر کرے گا۔

**شخصی وقار** آپکا ذاتی ستارہ قمر ایک ماہ میں چار مثبت اور چار منفی حالات سے گذرتے ہوئے آپ کی شخصیت پر اچھے برے دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شخصی وقار کو ملحوظ بنانا چاہتے ہیں تو جنتری سے قمر کی مثبت اور منفی حالات کو نوٹ کریں اور ہر منفی حالت میں دو کلوٹونا چاول دودھ یا آنا کسی مستحق کو دینا معمول بنالیں۔ 21 جون تا 23 جولائی مریخ کا طالع میں اوج میں آنا اور 7 اگست تا 6 ستمبر زہرہ کی طالع میں موجودگی آپکی شخصیت وقار میں اضافہ اور مضبوطی کا باعث بنیں گے۔ البتہ اس سال آپکو شراکتی ازدواجی و سماجی معاملات پر خاص توجہ دینا ہوگی آپکے منسوبہ معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔

**مالی پوزیشن** آپکے مالی امور سے منسوب سیارہ شمس جنوری تا 20 مارچ، 20 مارچ تا 21 جون، اور 22 ستمبر تا 21 اکتوبر، اور 21 دسمبر تا آخر سال اچھی پوزیشن میں ہوگا۔ ان اوقات کو کر لیں اور ان ایام میں کسی لین دین اور مالی معاملات سے گریز کریں ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں جبکہ 21 مارچ تا 19 مئی، اور 21 ستمبر تا 23 اکتوبر تا 20 دسمبر کا دورانیہ آپکی مالی پوزیشن زیادہ مستحکم رہے گی بالخصوص 21 جون تا 22 اگست کا دورانیہ آپکی مالی پوزیشن بہتر بنانے کے لئے کئی ایک مواقع لے کر آ رہا ہے۔

**عزیز واقارب، نزدیکی سفرات، و ابتدائی تعلیم** آپکے بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ عطارد یک جنوری تا 3 فروری، 11 تا 28 اپریل، اور 21 مئی تا 6 ستمبر اور 27 ستمبر تا 2 دسمبر بہتر پوزیشن میں رہے گا آپکی ابتدائی تعلیم پر مثبت اثرات مرتب کرے گا اس دوران کئی ایک نزدیکی سفرات آپ کو درپیش ہونگے۔ بہن بھائیوں اور قریبی اقرباء کے ساتھ آپکے

تعلقات بہتر رہیں گے جبکہ 3 فروری تا 11 اپریل کا دورانیہ اور 26 تا 27 ستمبر تا دورانیہ محتاط روش کا متقاضی ہوگا بہن بھائیوں سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں اس دوران سفر میں اپنے سامان اور کاغذات وغیرہ کا خاص خیال رکھیں۔

**گھر خاندان پر اپرٹی** اس سال آپ کے گھریلو حالات ملے جلے رہنے کا امکان ہے 1 تا 13 جنوری اور 8 فروری تا پانچ 5 مارچ 27 تا 28 اکتوبر اور 21 نومبر تا آخر سال خانگی ماحول سازگار نہ ہوگا جبکہ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں مسائل اور رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اسکے ساتھ ہی خاندان کے افراد سے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جبکہ 14 جنوری تا 8 فروری 6 مارچ 2 تا 28 اکتوبر تا 20 نومبر آپ کے حالات موافق رہیں گے اس دوران گھر کی تبدیلی حسب خواہش ممکن ہو سکے گی جبکہ گھریلو سکون اور معاملات بہتر رہیں گے۔

**اولاد انعامی بانڈز اور لائبریری و اسٹاک مارکیٹ** اس سال آپ کو بچوں کے معاملات پر خصوصی توجہ دینا ہوگی آپ کے پانچویں گھر کا حاکم مرنج اس سال شرف حقیض اور طرح جیسے حالات اور رجعت کا شکار ہوگا 3 جنوری تا 30 مارچ حالات انتہائی موافق رہیں گے آپ کا کوئی انعام نکل سکتا ہے اس دوران بے اولاد سرطان جوڑوں کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ بڑے بچوں سے تعلقات اچھے رہیں گے جبکہ 31 مارچ مرنج برج دلو میں چلے جانے سے حالات میں کشیدگی پیدا ہوگی اور 28 جون تک رہے گی یہ سال کا سب سے مشکل دورانیہ ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں حاملہ سرطان خواتین کو اس دوران خاصی احتیاط برتنا ہوگی اپنی صحت کا خیال رکھیں صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ 29 جون سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جبکہ 10 ستمبر تا 14 نومبر مرنج کی رجعت کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں مگر پہلے کی نسبت کم کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے والے افراد کے لئے 3 جنوری تا 31 مارچ کا دورانیہ قسمت آزمائی کے لئے انتہائی موزوں ہوگا۔

**صحت ملازمت اور ملازمین سال 2020** میں آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ مشتری اس سال ابتدا سے 19 دسمبر تک ہبوط میں رہتے ہوئے آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری کی رجعت آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے جبکہ آپ کو سرجری سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے اسی طرح یہ دوران آپ کی ملازمت کے حوالہ سے بھی اچھا نہ ہوگا اس دوران ملازمت کی تبدیلی یا چھوڑنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اس دوران آپ کو اپنے ملازمین پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی بالخصوص ایسے افراد جو اشتراکی کاروبار سے منسلک ہیں انہیں احتیاط برتنا ہوگا۔

**شادی ازواجی تعلقات و شراکتی معاملات** آپ کے

ازدواجی معاملات کا حاکم ستارہ اپنے ہی گھر رہتے ہوئے سال گذشتہ سے آپ کے لئے بہت آسانیاں پیدا کرتا رہا ہے اس سال بھی 22 مارچ تک زل کی اپنے ہی گھر میں موجودگی حالات کو موافق رکھے گی۔ دوسری جانب آغاز سال سے ہی مشتری ساتویں بیہوش کی حالت میں موجود ہے۔ زل کے اگلے گھر چلے جانے سے اس کے منفی اثرات میں اضافہ ہو جائے گا آپ کو ہر قدم محتاط ہو کر رکھنا ہوگا 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری رجعت جلتی پرتیل کا کام کرے گی اور آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ سرطان افراد کی طے شدہ شادیاں التوا کا شکار ہو سکتی ہیں جبکہ حالات انتہائی کشیدہ علیحدگی کی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا سرطان افراد کا اس سال شادی نہ کرنا بہتر ہوگا۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ** 20 جنوری تا 19 فروری شمس کی آٹھویں گھر موجودی وراثتی معاملات کے لحاظ سے اچھی نہ ہوگی۔ 22 مارچ زل کی آٹھویں گھر آمد سے معاملات بہتر ہونا شروع جائیں گے۔ آپ کے روکے ہوئے وراثتی معاملات بننا شروع ہو جائیں گے آپ کے روکے ہوئے پیسے کی واپسی ممکن ہوگی جبکہ کسی نیک شخص سے قرض لینا چاہیں تو مل سکتا ہے۔ 11 مئی تا 29 ستمبر زل کی رجعت کے دوران کاموں میں رکاوٹ اور التوا کا سامنا ہوگا مگر کام انشاء اللہ بنتے رہیں گے۔

**روحانیت اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سفارت حج و زیارات** نویں گھر کا حاکم مشتری آغاز سال تا 19 دسمبر ساتویں بیہوش کے گھر میں رہتے ہوئے منسوبی کاموں میں التوا اور ناکامی کا سامنا لا سکتا ہے جبکہ اس سال ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے قبل کوئی روحانی تدارک کروانا از حد ضروری ہوگا۔ روحانی معاملات میں آپ کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ کوئی بھی عقیدہ تحقیق کی بنیاد پر بنانا بہتر ہوگا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے لئے ماحول سازگار نا ہوگا 3 تین فروری تا 11 اپریل تک کا دورانیہ خاصہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔

**معیشت کیرئر روزگار ترقی تنزلی** کیرئر روزگار کے حوالہ سے آپ کو ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا۔ 3 جنوری تا 16 فروری کا دورانیہ بہتر گزرے گا اس دوران ملازمت پیشہ افراد کو بہتر ملازمت کا حصول ممکن ہوگا۔ 16 فروری تا 31 مارچ مرنج کی شرف کے گھر موجودگی ملازم پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے اسکے ساتھ ہی اپنا کاروبار کرنے والے افراد کے لئے بھی حالات انتہائی سازگار ہونگے۔ 31 مارچ تا 28 جون مرنج کی حقیض اور طرح کی حالت میں موجودگی آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے گی اس دوران ملازمت تبدیل کرنے کی حماقت نہ کریں 28 جون کے بعد حالات ایک بار پھر آپ کے حق میں بہتر ہونگے۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر مرنج کی رجعت آپ کی ترقی کی رفتار کم کر دے گی۔

**برج: اسد** **LEO** **سیارہ: شمس**

رنگ: کولڈن، نارنجی  
 عنصر: آتش  
 جواہر: ہیرا، ہسٹیا  
 بہترین شریک حیات: حمل، قوس، ثور  
 ناموافق ساتھی: عقرب، دلو



بیماریاں: ہائی بلڈ پریشر، ریڑھ کی ہڈی، کمر کی تکلیف، دل کی تکلیف

دن: اتوار، جمعہ: 24 July to 23 Aug  
 حروف: م، ہ

**اہم نکات** برج اسد والوں کے لئے سال 2020ء سال گذشتہ کی نسبت مختلف ثابت ہوگا دونوں بڑے ستارے اپنے برج تبدیل کرتے ہوئے آپ کی شخصیت صحت اولاد ایجوکیشن ازدواجی سماجی خانگی و شرابی معاملات پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اور دیگر سیارگان شمس و قمر زہرہ عطارد و مریخ آپ کے لئے کیا اثرات لارہے ہیں یہ اگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**شخصی وقار** آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس آغاز سال تا 20 مارچ 22، ستمبر تا 23 اکتوبر بہتر پوزیشن میں نہ ہوگا اس دوران زیادہ ہیلیک پلیس پر جانے یا سماجی تقریبات میں جانے سے گریز کریں اپنے شخصی وقار کو بچانے کے لئے گفتگو میں احتیاط برتیں۔ ہر اتوار کم از کم ایک کلو یا دس کلو گندم یا دال چنا کا صدقہ دینا معمول بنالیں۔ اسکے علاوہ اس سال ہونے والے شمسی گرہن بالترتیب 21 جون اور 31 دسمبر بھی آپ کی عزت تو قیور کو متاثر کر سکتے ہیں ان ایام میں گرہن کے صدقات دیں اور نماز آیات ادا کر کے بروقت خود کو بڑے اثرات سے بچا سکتے ہیں۔

**مالی پوزیشن** آپ کے مالی امور کا ستارہ عطارد اس سال یکم جنوری تا 2 فروری 11، تا 27 اپریل، 12، مئی تا 5 ستمبر، اور 27 ستمبر تا یکم دسمبر بہتر پوزیشن میں ہوگا آپ کی مالی پوزیشن مستحکم رہے گی جبکہ 3 فروری تا 11 اپریل، 22، اپریل تا 11 مئی اور 6 تا 27 ستمبر آپ کو آمد حد محتاط رہنا ہوگا بہتر ہوگا ان اوقات میں کسی بھی قسم کے تحریری یا زبانی معاہدوں اور لین دین میں کسی قسم کی غلطی سے گریز کریں بالخصوص چیک وغیرہ لکھ کر دینے سے گریز کریں کسی غلطی سے آپ قانونی معاملات میں پھنس سکتے ہیں۔

**عزیز واقارب ابتدائی تعلیم نزدیکی سفرات**

اس حوالہ سے آپ کو اس سال بے جملے حالات کا سامنا رہے گا ابتدائے سال میں 13 جنوری تا 8 فروری، 5، مارچ تا 2 اکتوبر، 28، اکتوبر تا 20 نومبر حالات کافی بہتر ہیں گے عزیز واقرباء کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے اس دوران آپ کو کئی ایک نزدیکی سفرات کا موقع بھی ملے گا جبکہ اسد بچوں کے لئے بھی یہ خاصہ بہتر

**دوست احباب خواہشات کاروباری فوائد** آپ کی خوشنیتی

کا ستارہ زہرہ اس سال 13 جنوری تا 7 فروری، 5، مارچ تا 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر حالتوں شرف اوج و فرح میں رہتے ہوئے آپ کی خواہشات کی تکمیل اور دوست احباب سے تعلقات کو بہتر بناتا رہے گا۔ اس دوران آپ کو بہتر کاروباری فوائد ملتے رہیں گے جبکہ اسکے علاوہ باقی اوقات میں آپ کے معاملات میں رکاوٹیں اور بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن اور خفیہ سازشیں**

3 فروری تا 11 اپریل، 28، اپریل تا 12 مئی اور 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 20 دسمبر حالات آپ کے موافق نہ ہونگے آپ کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے جبکہ یکم جنوری تا 1 فروری، 11، تا 27 اپریل اور، 12، مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا 1 دسمبر حالات آپ کے موافق رہیں گے اس دوران آپ کا بیرون ملک قیام ممکن ہوگا اور اسی دورانیہ میں آپ کو امیگریشن اپلائی کرنا بہتر ہوگا مگر ہوشیار رہیں اسی دوران آپ کے خفیہ دشمن بھی آپ کے خلاف صف آراء ہو سکتے ہیں۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن

سب سے زیادہ آپ کو متاثر کریں گے چونکہ قمر آپ کا اپنا ستارہ ہے اور شمس آپ کے مالی معاملات کا ستارہ ہے۔ قمری گرہن آپ کے وقار عزت اور شخصیت کو متاثر کرے گا جب کہ شمس آپ کے مالیات کا حاکم آپ کے مالی معاملات کو متاثر کرے گا۔ اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن صحت جاب ازدواجی و شرابی تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کے بیرون ملک قیام کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ جنتری سے نوٹ فرمائیں اور ان تواریخ میں صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی لازمی کریں تاکہ گرہن کی نحوستوں سے بچا جاسکے۔

**صدقہ ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا 3 پاؤنڈ گوشت کسی مستحق کو دیں یا**

**پرنڈوں کو ڈالیں۔ ورد خاص** روزانہ بعد نماز فجر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 دہر کریں جبکہ روزانہ بعد از نماز عشاء سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ایک تسبیح روزانہ ورد کریں۔

**اعلیٰ شفاء**

بچوں کے ناسلر بغیر آپریشن کے صرف ایک کورس میں ختم، گلے کا کینسر اور دیگر کینسر کے لیے مشورہ ضروری ہے، ہائی ولولڈ پریشر کا کامیاب علاج صرف دو دن میں کورس پورا کرنا لازمی ہے۔ لیکور یا صرف ایک کورس میں ختم یتیم بچوں، بیوہ عورتوں کا علاج فری ہے۔ صرف پرچی فیس -50 روپے

**سہیل اشرف ہاشمی** ہر بل کینسر سپیشلسٹ  
 WhatsApp 0092-323-8564171

Imamia Lantri Official Ru. Iftikhar Bank Namant. Nauwanhad from Canalbankau. JNCshaurava

شادیاں یا نسبت طے نہیں ہوئی یا جو عقد ثانی کے خواہش مند ہیں انکی مرادیں بر آئیں گی۔ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت شراکتی و ازدوجی معاملات میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ محتاط رہیں اور یہ وقت تحمل اور بردباری سے گزاریں۔ زحل کے اثرات سے بچاؤ کے لئے کوئی اچھا روحانی تدارک کریں یا ہفتہ کے دن کالے ماش 800 گرام کا صدقہ دینا بہتر ہوگا سال کا باقی دور انشاء اللہ اچھا گزرے گا۔

**وراثت مشترکہ مالی معاملات قرضہ جات** جیسا کہ پچھلی سطروں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشتری اس سال ہبوط میں شخص ہوتے ہوئے بجائے سعد کے شمس اثرات مرتب کرے گا۔ مشتری آپ کے زائچے میں آٹھویں گھر کا حاکم ہوتے ہوئے وراثتی معاملات میں مسائل پیدا کرے گا ایسے افراد جنکے وراثتی معاملات عدالتوں میں ہیں انکے مقدمات میں التوا یا فیصلہ توقع کے برعکس آسکتا ہے اسی طرح مشترکہ مالی مفادات میں کام کرنے والے افراد بھی مالی فوائد سے محروم رہیں گے جبکہ دوسروں سے واسطہ مالی مفادات یعنی قرضہ لینا یا دینا جیسے معاملات میں بھی مشکلات درپیش آئیں گی۔

**روحانیت بیرون ملک سفرات حج و زیارات** اسل ابتداء سے ہی معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے روحانیت اور روحانی علوم میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی جب کہ بیرون ملک سفرات حج یا زیارات کے حوالہ سے ویزہ کے حصول کے لئے 3 جنوری تا 31 مارچ کا وقت نہایت موافق رہے گا۔ یکم اپریل تا 28 جون حالات آپ کے حق میں نہ ہونگے اس حوالہ سے شرف مرخ کی لوح آپ کے مسائل میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ اسی دوران دال مسور 900 گرام یا کلہجی کا صدقہ بروز منگل دینا بہتر ہوگا۔ 28 جون سے حالات میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ جبکہ 10 ستمبر تا 14 نومبر بوجہ رجعت مرخ ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔

**معیشت کیرئیر روزگار ترقی و تنزلی** آپ کے روزگار اور معیشت سے منسوب ستارہ زہرہ اسل 13 جنوری تا 7 فروری شرف کے گھر رہتے ہوئے آپ کے معاملات میں بے حد بہتری کا باعث ہوگا اس دوران آپ حسب منشاء ترقی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ 5 مارچ تا 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 20 نومبر حالات ایک بار پھر آپ کے حق میں ہونگے اس دوران آپ کو کیرئیر روزگار اور کاروبار کے حوالہ سے بہتر فیصلے کرنے اور نئے مواقع ملنے کا امکان ہوگا جبکہ 8 فروری تا 3 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر اور 21 نومبر تا آخر سال حالات آپ کے حق میں موافق نہ ہونگے اس دوران روزگار میں اہم فیصلے کرنے اور ملازمت تبدیل کرنے سے گریز کریں۔

**دوست احباب خواہشات اور کاروباری فوائد** اس

وقت رہے گا البتہ 9 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 28 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال ہوا آپ کے مخالف ہوگی اس دوران آپ کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں احتیاط اور تحمل کے ساتھ یہ وقت گزارنا بہتر ہوگا۔ اس دوران چھ کلہجی کا صدقہ دینا حالات میں بہتری لائے گا **گھر خاندان، پراپرٹی سواری** بیت الارض چوتھے گھر کا حاکم مرخ اسل زیادہ تر اچھا رہے گا تاہم کچھ وقت تلخیوں کا بھی آسکتا ہے۔ آغاز سال تا 30 مارچ مرخ برج قوس اور شرفی برج جدی میں رہتے ہوئے آپ کے خانگی معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ آپ کے لئے گھر پراپرٹی اور سواری کے لین دین میں بہتری پیدا ہوگی انونٹ کی غرض سے جائیداد کی خریداری کا بہترین وقت میسر ہوگا۔ 31 مارچ تا 27 جون حالات اتنے نہ ہونگے اس دوران خانگی معاملات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران گھر جائیداد سواری کی تبدیلی یا لین دین سے گریز کریں۔ 28 جون کے بعد حالات میں بہتر مثبت تبدیلی آئے گی۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر مرخ کی رجعت کی وجہ سے حالات میں تناؤ اور کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔

**اولاد انعامی بانڈز لٹری** آپ کی زندگی کا یہ شعبہ اس سال خصوصی توجہ کا طالب ہوگا۔ مشتری سارا سال ہبوط میں رہتے ہوئے آپ کے تعلقات بچوں کے ساتھ کشیدہ کر سکتا ہے۔ اسد بچوں میں ضد اور قنوطیت کا غلبہ رہے گا۔ اسد خواتین جو حاملہ ہوں انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ وگرنہ آپ کو صحت کے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انعامی اسکیموں کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لئے موافق نہ ہوگا بہتر ہے پیسہ ضائع نہ کریں۔

**صحت ملازمین اور ملازمت** سال گذشتہ سے بیت الصحت کا حاکم زحل چھٹے گھر میں موجود رہنے سے آپ کی جہاں صحت بہتر ہو رہی ہے وہیں کچھ افراد بوجہ حسد و جادو کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اس سال آپ کو صحت اور ملازمت دونوں پر خصوصی توجہ دینا ہوگی کیونکہ گذشتہ سال دسمبر سے مشتری بیت الصحت میں ہبوط یافتہ موجود ہے آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کو متاثر کر رہا ہے۔ مارچ میں زحل کے ساتویں گھر چلے جانے سے زحل کی سعادتوں سے محروم ہو جائیں گے جسکی بنا پر مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے خصوصاً صحت پر توجہ دیں اور ملازمت چھوڑنے کی قطعی حماقت نہ کریں۔ اس سال آپ کو کوئی پرانا اور وفادار ملازم چھوڑ کر جاسکتا ہے۔

**شادی ازدواجی زندگی شراکت داری** آپ کے ساتویں بیت الزوج کا حاکم ستارہ زحل مارچ میں ساتویں گھر داخل ہو جائے گا شراکتی ازدواجی معاملات میں خاصی بہتری آجائے گی۔ وہ اسد افراد جن کی اب تک

**بیروج: سنبلہ VIRGO سیارہ: عطارد**

**رنگ:** گہرا زرد، پیلا  
**مکس:** خاک  
**جواہر:** گومیدک زرد، جیٹیل، فیروزہ  
**بہترین شریک حیات:** جدی، ثور  
**ناموافق ساتھی:** قوس، حوت، جوزا

**بیماریاں:** معدہ، بجر، آنسوؤں کی بیماریوں، السر، کان کی تکلیف

**دن: بدھ عدد: ۵** **24 Aug to 23 Sep** **حروف: پ، س، ش**



سال آپ کی خوش بختی عروج پر ہوگی آغاز سال تا 3 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر آپ کو موافق حالات ملیں گے دوست احباب سے واسطہ تو قعات پوری ہو سکیں گی۔ کاروباری معاملات میں اٹھائے گئے اقدامات کا پھل آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے اوقات ہیں جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل آپ کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہوگا۔ دوست احباب سے واسطہ تو قعات پوری نہ ہو سکیں گی۔ 6 تا 26 ستمبر اور 2 دسمبر تا آخر سال کا دورانیہ بھی آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا آپ کو محتاط روش اپنانا ہوگی۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن خفیہ سازشیں** ہر ماہ ہونے والا شرف قمر آپ کے مسائل میں جہاں بہتری لاتا ہے وہیں ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپ کے مسائل میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ ہر ماہ قمر در عقرب میں ٹوٹا چاول کا صدقہ دینا اپنا معمول بنالیں تاکہ آپ کا بیرون ملک قیام اور امیگریشن سے متعلقہ کام متاثر نہ ہوں اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپ کو دشمنوں کی خفیہ سازشوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے یہ قدرت کا ایک خوبصورت نظام بھی ہے۔ اس سال ہونے والے چار قمری گرہن آپ کے بیرون ملک قیام کو مخدوش بنا دیں گے اس بارے میں مکمل تفصیلات ہمارے یوٹیوب چینل شیخ زوار رضا جاوید پر دیکھ سکتے ہیں۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال دو شمسی و چار قمری گرہن ہونگے۔ یہ گرہن آپ کے بیرون ملک قیام امیگریشن مراحل اور اولاد بچوں صحت دوست احباب سے کشیدگی اور اور خوش بختی کی تسخیر کا باعث بن سکتے ہیں جبکہ شمسی گرہن بالخصوص آپ کی شخصیت اور مالی پوزیشن اور امیگریشن اور اولاد سے منسوب معاملات کو بالعموم متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ کو جنٹری ہذا سے نوٹ کر لیں اور بروقت صدقات کے ساتھ نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی پروردگار کی قربت کا باعث بھی ہوگی اور آپ کو گرہن کی محسوسات سے بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔

**صدقہ** ہر اتوار ایک کلو گندم یا دال چنا کا صدقہ اور ہر جمعرات کو 300 گرام یا تین پاؤ بڑا گوشت ہمراہ تین چمچ ہلدی کے ساتھ کسی مستحق کو دیں یا پندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح سورۃ حشر آیت نمبر 22 ورد کریں اور بعد از نماز فجر و عشاء گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک تلاوت کریں۔

**اہم نکات:** 2020ء سنبلہ افراد کیلئے خاص طور پر اہم سال ثابت ہوگا دونوں بڑے سیارگان آپ کے زائچے میں بروج تبدیل کرتے ہوئے آپ کی زندگی پر خاصے اہم اثرات مرتب کر رہے ہیں اسماں چوتھے ساتویں کا حاکم مشتری تقریباً تمام سال ہیوط میں رہتے ہوئے آپ کے خانگی اور شرکاتی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے پانچویں چھٹے کا حاکم زحل زائچے کے چھٹے آنے سے جہاں آپ کی صحت و ملازمت میں بہتری آئے گی وہیں آپ خدا نخواستہ سحر جادو کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔

**شخصی وقار:** آپ کی شخصیت، پبلک امیج کا حاکم سیارہ عطارد اسماں یکم جنوری تا 2 فروری، 11 تا 17 اپریل، 12 مئی تا ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی سوجھ بوجھ میں اضافہ کرے گا لوگوں میں آپ کا وقار بلند ہوگا جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل بالخصوص آپ کو محتاط رہنا ہوگا عطارد کا ہیوط آپ سے غلط گفتگو اور فیصلے کروا سکتا ہے یہ وقت بالخصوص شادی شدہ خواتین و حضرات کو متاثر کر سکتا ہے اسکے علاوہ 28 اپریل تا 11 مئی، 6 تا 27 ستمبر، 2 تا 31 دسمبر بھی آپ کو محتاط روش سے گزارنا ہوگا اپنی گفتگو، تحریر کا ہر لفظ بہت سوچ سمجھ کر ادا کریں آپ کی ضرورت سے زیادہ بے محل گفتگو آپ کے شخصی وقار کو متاثر کر سکتی ہے

**مالی پوزیشن** گذشتہ کی طرح اسماں بھی آپ کو قدرے ملے جلے مالی حالات کا سامنا رہے گا یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا یکم دسمبر آپ کو اپنی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع ملے گا اور انشاء اللہ پروردگار کا فضل رہے گا جبکہ 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر اور 2 تا 31 دسمبر آپ کو ہر قسم کی فضول خرچی سے گریز کرنا ہوگا ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں اس دوران کسی بھی قسم کے بڑے مالی فیصلے کرنے یا چیک وغیرہ دینے سے گریز کرنا بہتر ہوگا مجموعی طور پر یہ سال مالی اعتبار سے بہتر رہے گا۔

**عزیزو اقارب ابتدائی تعلیم نزدیکی سفر:** اسماں ابتداء سے ہی آپ کے تعلقات عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے بہتر رہے گا یکم جنوری تا 30 مارچ کئی ایک نزدیکی سفر متوقع ہیں اور سماجی تعلقات میں بہتری آئے گی 31 مارچ تا 27 جون مرغ کی خراب حالت کیوجہ سے

**الحمد فیبرکنس**  
**لیڈیز کپڑے کی تمام ورائٹی**  
**بارعانت دستیاب ہے۔**  
**نزد افتخار بک ڈپو اسلام پورہ لاہور**  
**محمد علی محمد عظیم**  
**0302-4406438**

**نظری تیزی کے لیے آزمودہ نسخہ**  
**مصری، بونف، بادام ہم وزن لیکر**  
**کوٹ لیں۔ صبح کو تیار منہ اور رات کو**  
**سوختے سے قبل ایک چمچ دودھ کے**  
**ساتھ لیں**  
**محمد عظیم الحمد فیبرکنس**  
**0346-4406438**

Imamia Jantri Official By Ifthikhar Rana Dhanot Downloaded from QuranJantra.com

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ: مشتری کے**

ہبوط اور شرکاتی تعلقات میں خرابی کے باوجود سال کی ابتداء بہتر ہو رہی ہے آپ کے مشترکہ مالی منصوبہ جات سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا اگر آپ قرض کے خواہشمند ہیں خواہ وہ کسی فرد ہو یا بینک سے تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے۔ 31 مارچ تا 27 جون حالات موافق نہ ہونگے مشترکہ مالی معاملات اور وراثتی معاملات آپ کے مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں 28 جون کے بعد حالات میں مثبت تبدیلی آئے گی 10 ستمبر تا 14 نومبر مرغ کی رجعت آپ کے کاموں کی رفتار کو سست کر دے گی مگر آپ کو نچلے سے کام لینا ہوگا

**روحانیت، بیرون ملک سفر اور حج و زیارات: آپ کے**

ناویں گھر کا حاکم زہرہ امسال 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 21 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک سفر کی راہیں کھول رہا ہے اس دوران ویزہ وغیرہ اپلائی کرنا بہتر ہوگا آپ روحانی علوم اور درود و وظائف کی جانب متوجہ ہونگے امسال آپ کی حج و زیارات مقدرہ کی خواہش پوری ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں 8 فروری تا 4 مارچ 3، 27 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال ایسی کسی بھی کوشش سے گریز کرنا بہتر ہوگا اس وقت اپلائی کیے گئے ویزے وقت اور پیسہ کا ضیاع ہونگے۔

**معیشت، کیریئر روزگار، ترقی، تنزلی آپ کا اپنا حاکم**

سیارہ عطارد ہی آپ کی معیشت کی تیز رفتاری اور ترقی تنزی کو باذن اللہ کنٹرول کرتا ہے امسال عطارد یکم جنوری تا 3 فروری، 11، 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر 27، ستمبر تا یکم دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ترقی کے بہتر مواقع فراہم کرے گا آپ کو حسب مقدرہ ترقی مل سکے گی کیئر تیر کے حوالے سے بہتر مواقع اور بہتر فیصلے کرنے کا موقع ملے گا جبکہ 3 فروری تا 11 اپریل بالخصوص اور 28 اپریل تا 12 مئی، 6، 27 تا 31 دسمبر بالعموم آپ کو محتاط رہنا ہوگا اس دوران کسی بھی قسم کے بڑے کاروباری تبدیلی یا اہم اگریمینٹس وغیرہ سے گریز کرنا ہوگا

**دوست، احباب، خواہشات اور کاروباری فوائد**

عمومی طور پر یہ سال آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاون سال ہوگا مگر چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا ہر ماہ ہونے والے قدر درعقرب کو ضرور مد نظر رکھیں اور بروقت صدقے کی ادائیگی کریں ہر قدر درعقرب کی تواضع کو جنتری میں نمایاں کر دیا جاتا ہے اسکے علاوہ اس بارے میں میرے فیس بک پیج پر بھی اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے مزید برآں امسال ہونے والے 4 قمری گرہن جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو لگ رہے ہیں ان پر ضرور نظر رکھیں اور بروقت صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے اپنے کاروباری

آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں ان ایام میں سفر اور تیز رفتاری سے گریز کرنا ہوگا 28 مارچ کے بعد آپ کے تعلقات میں گو کہ بہتری آجائے گی مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر مرغ کی رجعت انیکبار پھر آپ کے مابین کشیدگی پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے مرغ کے صدقات دینا بہتر ہونگے۔

**گھر خاندان پر اپرٹی: جیسا کہ اولین سطور میں بتا چکا ہوں امسال**

مشتری کے ہبوط میں ہونے سے گھر کا ماحول خاصہ متاثر ہو سکتا ہے خاندان کے افراد سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں امسال گھر یا پر اپرٹی کی خرید و فروخت بہتر نہ ہوگی آپ کے گھر سے منسوب اقدامات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی بہتر روحانی تدارک کر لینا بہتر ہوگا مشتری سے منسوب صدقات تمام سال اپنا معمول رکھنا بہتر ہوگا اسی طرح امسال سواری کی خرید و فروخت بھی بہتر نہ ہوگی۔

**اولاد، انعامی بانڈ، لائبریری گذشتہ تمام سال زحل کی پانچویں اپنے**

ہی گھر موجودگی نے بچوں سے آپ کے تعلقات خاصے بہتر رکھے ہیں مگر گذشتہ دسمبر سے مشتری آپ کے بیت الاولاد میں بحالت ہبوط میں آجائے سے آپ کے مابین کشیدگی بڑھ سکتی ہے مشتری 19 دسمبر 2019 تک یہیں قیام کرے گا اور 14 مئی تا 13 ستمبر رجعت میں بھی رہے گا یہ دورانہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے پروردگار عالم آپ سب پر اپنا فضل فرمائے آپ کو مشتری کے اثرات سے بچاؤ کیلئے یقیناً کوئی تدارک کرنا ضروری ہوگا اپنے ہاتھ میں زرد پتھر یا فیروزہ پہنیں۔ انعامی سکیموں میں حصہ لینے والے افراد کیلئے یہ سال موافق نہ ہوگا۔

**صحت، ملازمت اور ملازمین آپ کے بیت الصحت میں شمس**

20 جنوری تا 19 فروری وبال میں ہونے سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے محتاط رہیں اسکے بعد 22 مارچ کو زحل آپ کے چھٹے اپنے ہی گھر آجائے سے آپ کے جاری مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کے لیے بہتر ملازمت اور ملازمین کا حصول ممکن ہوگا 11 مئی تا 29 ستمبر زحل رجعت میں رہتے ہوئے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے آپ کی صحت بوجہ سحر جادو متاثر ہونے کا اندیشہ ہوگا جاب کی تبدیلی یا چھوڑنے سے گریز کریں باقی سال انشاء اللہ بہتر گزرے گا۔

**شادی، ازدواجی تعلقات، شراکت داری: امسال بوجہ**

ہبوط مشتری آپ کے ازدواجی تعلقات انتہائی متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں بالخصوص 3 فروری تا 11 اپریل جب کہ آپ کا اپنا سیارہ عطارد بھی عین بیت الزوج میں ہبوط زدہ ہوگا آپ کے ازدواجی تعلقات خرابی کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اپنے احتیاط سے کام نہ لیا تو بات علیحدگی تک پہنچ سکتی ہے آپ کو اپنی گفتگو میں ازحد احتیاط کرنی ہوگا 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانہ بوجہ رجعت مشتری اور بھی خطرناک ہوگا۔ امسال آپ کے شرکاتی تعلقات اور ازدواجی تعلقات دونوں داؤ پر ہونگے۔



فوائد، دوست احباب سے تعلقات اور خواہشات کی تکمیل کو محفوظ کر سکتے ہیں

### بیرون ملک قیام ، امیگریشن اور خفیہ

سازشیں: آپ کے زائچے کے بارہویں کا حاکم شمس آغاز سال تا

20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون، 22 ستمبر تا 23 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر بہتر پوزیشن

میں نہ ہوگا اس دوران آپ کا بیرون ملک قیام مشکل ہو جائے گا امیگریشن وغیرہ اچانکی

کرنے سے گریز کریں جبکہ 20 مارچ تا 19 اپریل کا دورانیہ بالخصوص بہترین

وقت ہوگا اسکے بعد 21 جون تا 21 ستمبر، 22 نومبر تا 20 دسمبر کا دورانیہ بھی

امیگریشن اچانکی کرنے کے لیے بہتر اور آپ کے بیرون ملک قیام میں معاون ہوگا

### شمسی و قمری گرہن

اس سال کثرت سے گرہن لگ رہے ہیں جن میں 4 قمری اور 2 شمسی گرہن لگیں گے یہ گرہن آپ کے کیریئر روزگار

، خانگی، والدہ اور پراپرٹی کے علاوہ دوست احباب سے کشیدگی اور خوشنہی کو متاثر

کرنے کا باعث بن سکتے ہیں اس حوالہ سے جنتری میں ایک الگ بیج دیا جاتا ہے

جس میں گرہنوں سے متعلقہ تمام تفصیلات دی جاتی ہیں وہ ضرور دیکھ لیں اور

بروقت صدقہ اور نماز کسوف خسوف ادا کر کے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں اس بارے میں

مزید تفصیلات آپ میرے یوٹیوب چینل شیخ زور رضا جاوید پر بھی دیکھ سکتے ہیں

### صدقہ: ہر جمعرات 3 پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت اور 3 چمچ بلدی یا 3 پاؤ

دال چنا کسی بھی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔

### ورد خاص: روزانہ ایک تسبیح بعد از فجر سورہ صافات آیت

182/181/180 ورد کریں بعد اول و آخر 16/16 مرتبہ درود پاک۔

مرخ اور عطارد بھی رجعت یافتہ ہو کر آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ اس

سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن اور دیگر سیارگان زہرہ عطارد و مرخ و شمس و قمر

سیر افلاک کی سیر کرتے ہوئے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کریں گے یہ

اگلی سطور میں ملاحظہ کریں۔

### شخصی وقار اس سال آپ کا ذاتی ستارہ زہرہ آغاز سال تا 7 فروری اور

5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی

شخصیت اور شخصی وقار میں بہترین اضافہ کرے گا جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کو

مخاطب روش اختیار کرنا ہوگی جبکہ آپ کے بیت الاقرباء کا حاکم مشتری اس سال

چوتھے ہبوط میں رہتے ہوئے عزیز واقرباء کے ساتھ تعلقات کشیدہ رکھے گا جس

سے گھر کا ماحول متاثر رہے گا آپ کے اختلافات کی بڑی وجہ پراپرٹی ہو سکتی ہے۔

یہ معاملات آپ کے شخصی وقار کو متاثر کر سکتے ہیں آپ کو نہایت محتاط رہنا ہوگا۔

### مالی پوزیشن آپ کے مالی معاملات کا حاکم ستارہ مرخ اس سال آغاز

سال تا 16 فروری عمومی اور 16 فروری تا 31 مارچ خصوصی طور پر آپ کے مالی

معاملات پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرے گا آپ کو مالی پوزیشن مستحکم کرنے

کے مواقع ملیں گے جبکہ یکم اپریل تا 28 جون تک مرخ کی کمزور حالت آپ کے

مالی معاملات اخراجات و آمدن میں توازن نہ آنے دے گی آپ کو احتیاط برتنا

ہوگی ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 28 جون کے بعد حالات میں

بہتری آئے گی مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر مرخ کی رجعت ایک بار پھر آپ کو محتاط

ہوجانے کی ضرورت ہوگی۔

### عزیز واقرباء ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفرات

آپ کے بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ مشتری آغاز سال تا 19 دسمبر چوتھے ہبوط میں

رہتے ہوئے بہن بھائیوں اور قریبی تعلق داروں سے اور خانگی معاملات کو کشیدہ

رکھے گا۔ اس سال نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو صبر برداشت اور تحمل سے کام لینا

ہوگا اس سال میزان بچون کو بھی تعلیمی میدان میں مشکلات کا سامنا ہوگا اور آپ

کے طے شدہ نزدیکی سفرات بھی یا تو التوا کا شکار ہونگے یا سفرات سے فوائد کا

حصول ناممکن ہوگا۔ سیارہ مشتری کی ٹھوسوں سے بچنے کے لئے باقاعدگی کے

ساتھ آخر میں دیا گیا صدقہ دیں۔ لوح مشتری پاس رکھیں اور روزانہ دعائے رد

نحومت سیارگان نومرتبہ ورد کرنا معمول بنالیں۔

### گھر خاندان پراپرٹی و سواری جیسا کہ آپ کو اولین سطور

میں بتایا گیا ہے کہ مشتری بیت الارض میں تقریباً سارا سال رہتے ہوئے خانگی

معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن رہا ہے اسکے ساتھ ہی آغاز سال تا 20

جنوری شمس بھی نہیں منفی حالت میں ہوتے ہوئے مشکلات میں اضافہ تو کرے

**برج: میزان LIBRA سیارہ: زہرہ**

<b>رنگ:</b> نیا زردی، نل، ہر، نارنجی	
<b>معدن:</b> ہوا	
<b>جواہر:</b> ہیرا، اوبلی	
<b>بہترین شریک حیات:</b> دوز، جوزا	
<b>ناموافق ساتھی:</b> جدی، حمل	

**بیماریاں:** نزل، زکام، سر درد، گردوں کا درد، آنکھوں کی بیماریاں

**دن:** جمعہ **عدد:** ۶ **حروف:** 24 Sep to 23 Oct

### اہم نکات سال 2020ء آپ کے لئے تبدیلیوں کا سال ہوگا ستارہ زحل

ڈھانکی سال بعد برج تبدیل کرتے ہوئے آپ کے زائچے کے پانچویں گھر مارچ

میں داخل ہو رہا ہے اور طالع کو مثبتیت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ دوسرا اہم ستارہ

مشتری سال گذشتہ دسمبر سے برج تبدیل کرتے ہوئے چوتھے گھر آجائیگا اور

تمام سال ہبوط میں رہے گا۔ مشتری سعد اکبر ستارہ ہوتے ہوئے بھی اس سال

آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ زحل مشتری کے علاوہ اس سال زہرہ

حالات میں بہتری آئے گی اور اسکے بعد 10 ستمبر تا 14 نومبر مرخ کی رجعت ایک بار پھر حالات کشیدہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ جات** اس حوالہ سے یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 21 نومبر کا دورانیہ موافق ہوگا اس دوران آپ کے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے مشترکہ مالی فوائد کا حصول ممکن ہوگا منافع مل سکے گا اسکے ساتھ ہی قرض کے خواہش مند افراد کو قرض کا حصول بھی ممکن ہوگا جبکہ پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لئے اقدامات مثبت نتائج دیں گے جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کے لئے مشکلات کا باعث ہوگا رکاوٹیں آئیں گی اپنے معاملات کو کاموں کو دئے گئے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کریں تاکہ مشکلات اور مسائل سے بچا جاسکے۔

**روحانیت بیرون ملک سفرات حج و زیارات** اسل آ پکو بیرون ملک سفرات حج و زیارات کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے البتہ ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے کے لئے مناسب وقت کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا۔ اسل 3 فروری تا 11 اپریل 28 اپریل تا 12 مئی اور 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 31 دسمبر ویزہ کے حصول کی درخواست دینا مناسب نہ ہوگا۔ باقی تمام سال ویزہ اپلائی کرنے کے لئے بہتر ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند اور روحانی علوم کے خواہش مند افراد کے لئے بھی یہی سال کا دورانیہ بہتر رہے گا۔

**معیشت کیرئیر روزگار ترقی و تنزلی** آپ کے کیرئیر اور روزگار پر سب سے زیادہ اثرات قمر کے ہوتے ہیں۔ چونکہ قمر ایک سرچ المرفقار ستارہ ہے ایک ماہ میں شرف ہیبوط اور اچھی بری حالت سے گذرتے ہوئے آپ کے کیرئیر اور روزگار پر اچھے برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سال چار قمری گریہن واقع ہونگے جو کہ بالترتیب جنوری جون جولائی اور نومبر میں لگیں گے اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والا ہیبوط قمر (قمر در عقرب) بھی آپ کے کیرئیر اور روزگار پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان ایام کو جنتری میں سے نوٹ کر لیں یا میرے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج (شیخ زوار رضا جاوا) کو لائیک کریں تاکہ آپ کو بروقت اطلاع مل سکے اور ان ایام میں گریہنوں سے منسوبہ صدقات اور ورد وظائف ادا کر کے آپ اپنے کیرئیر کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والا شرف قمر کے ایام اور 21 جون تا 22 جولائی آپ کے کیرئیر کے گھر ہونے والا اوج شمس کے ایام میں آپ اپنے کیرئیر کو محفوظ اور مضبوط بنانے اور ترقی کے کام کر سکتے ہیں۔

**دوست احباب کاروباری فوائد اور خواہشات** یہ سال جہاں کچھ معاملات میں آپ کے لئے رکاوٹیں لا رہا ہے وہیں آپ کو خواہشات کی تکمیل میں بھی معاونت ملتی رہے گی۔ 20 مارچ تا 20 مئی اور 21 جون تا 21 ستمبر

کا تاہم دوسری جانب زحل یہاں مارچ تک قیام کرتے ہوئے معاملات کو سنبھالنے کے لئے حکمت عملی بنانے میں معاون ہوگا مگر بعد از مارچ تا آخر سال تک حالات کنٹرول کرنا مشکل ہونگے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری کے رجعت کے ایام میں تخفیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اسل آپ کو گھر پر اپرٹی کے حوالے سے مشکلات پیش آتی رہیں گی کئی افراد کو بوجہ جبوری گھر بیچنا یا تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر کے افراد کو والدہ سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ آپ کو اپرٹی کی خرید و فروخت سے اس سال فوائد ملنے کا امکان نہیں ہوگا۔

**اولاد انعامی بانڈز لٹری و اسٹاک مارکیٹ** بچوں کے حوالہ سے یہ ایک بہتر سال ہے جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ زحل ڈھائی سال کے لئے مارچ میں پانچویں گھر آجایگا بچوں پر مثبت اثرات مرتب ہونگی 19 فروری تا 20 مارچ شمس کی پانچویں شخص موجودگی متاثر کر سکتی ہے تاہم سال کا باقی دورانیہ بہتر رہے گا۔ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات نہایت مناسب اور بہتر رہیں گے جبکہ اکثر میزبان افراد کو اس سال اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے یہ سال میزبان افراد جو انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں انکے لئے ایک نہایت موافق سال ہوگا آپ کو کوئی بڑا انعام یا خلیفہ رقم مل سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے واسطہ افراد بھی نہایت بہتر فوائد اس سال حاصل کر سکیں گے۔

**صحت ملازمت اور ملازمین** آپ کے بیت الصحت کا حاکم ستارہ بھی مشتری ہے جو کہ اس سال دسمبر تک چوتھے منفی پوزیشن میں ہوگا جسکی وجہ سے آپ کی صحت کو خطرات لاحق رہیں گے اسکے علاوہ 3 فروری تا 11 اپریل عطارد کا چھٹے گھر میں ہیبوط بوجہ جادو و سحر صحت کو متاثر کر سکتا ہے اس حوالہ سے آپ کے لئے روحانی تدارک از حد ضروری ہوگا۔ اس سال حالات خواہ جیسے بھی ہوں ملازمت چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں ورنہ دوسری ملازمت کا حصول نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس سال آپ کو ملازمین کی جانب سے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

**شادی ازدواجی تعلقات شراکت داری** آپ کے بیت الزوج کا حاکم ستارہ مرخ آغاز سال سے ہی بہتر ہوگا آپ کو شادی بیاہ اور ازدواجی حالات انتہائی سازگار ملیں گے بالخصوص 16 فروری تا 31 مارچ حالات انتہائی سازگار ہونگے آپ کی شادی طے پا جانے کے نہایت قوی امکانات ہونگے اور یہی وقت شادی بیاہ کے لئے سال کا موزوں ترین وقت ہوگا۔ 31 مارچ کے بعد ہوا کا رخ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوگا اور حالات سازگار نہ رہیں گے۔ 28 جون تک آپ کو نہایت محتاط رہنا ہوگا ورنہ ازدواجی معاملات میں علیحدگی واقع ہو جانے کے امکانات ہونگے۔ نئی شادی کے لئے یہ وقت قطعی سازگار نہ ہوگا آپ کی شراکت داریاں بھی خطرے میں ہونگی۔ 29 جون کے بعد

**بوج: عقرب SCORPIO سیارہ: مریخ**

رنگ: نیلا، سرخ  
 منکس: آبی  
 جواہر: بھراچ، جیش، موتی  
 بہترین شریک حیات: عورت، سرطان  
 ناموافق ساتھی: دلو، ثور، اسد



بیماریاں: سر، مقلق دناک کی بیماریاں، بچپن، نزل، معدہ

دن: منگل عدد: ۹ 24 Oct to 22 Nov حروف: ن، ذ، ض، ظ

22 اکتوبر تا 21 دسمبر کا دورانیہ انشاء اللہ بہتر گزرے گا دوست احباب کا تعاون ملے گا اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی بالخصوص 22 جولائی تا 21 اگست کا دورانیہ انتہائی موافق ہوگا۔ اس سال دو شمس گریہن بالخصوص 21 جون اور 31 دسمبر واقع ہونگے۔ یکم جنوری تا 19 مارچ، 20 مئی تا 20 جون اور بالخصوص 21 ستمبر تا 22 اکتوبر کا دورانیہ بہتر نہ ہونگے ان ایام میں کیرئیر اور روزگار کے حوالے سے کسی بھی اہم یا بڑے فیصلے سے گریز کریں۔

**بیرون ملک قیام خفیہ سازشیں اور امیگریشن**

اس سال امیگریشن اپلائی کرنے جیسے اہم ترین کاموں کے لئے درست وقت کا انتخاب انتہائی ضروری ہوگا۔ 8 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی، 6 تا 27 ستمبر، اور 2 تا 31 دسمبر ایسی کسی بھی کوشش سے قطعی گریز کریں ان اوقات میں اپلائی کئے گئے کیسز رد کئے جاسکتے ہیں۔ اس دوران پہلے سے مقیم افراد کو بھی وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑسکتی ہے بتائے گئے عرصہ کے علاوہ باقی وقت انشاء اللہ اچھا گزرے گا مگر محتاط رہیں جہاں یہ وقت بیرون ملک امیگریشن کے حوالے سے بہتر ہوگا وہیں خفیہ دشمن بھی سازشیں کر سکتے ہیں۔

**شمسی و قمری گرہن**

اس سال ہونے والے شمس و قمری گرہن زانچہ کے اہم مقامات اور زندگی کے اہم امور کو متاثر کر سکتے ہیں دو شمس و چار قمری گرہن آپ کے کیرئیر دوست احباب روزگار خوش بختی ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفرات کے ساتھ روحانیت اعلیٰ تعلیم سسرالی رشتہ داروں اور سماجی معاملات میں خرابی حالات تعلقات میں کشیدگی اور سواری کے ساتھ والدہ کی صحت سلامتی تعلقات میں بگاڑ کے ساتھ جانیداد کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ گرہن کے دنوں میں خصوصی صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی کریں۔

**صدقات** ہر جمعرات تین پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت اور تین چھچھ ہلدی کے ساتھ کسی غریب یا مستحق کو صدقہ دیں یا پرندوں کو ڈالیں۔

**ورد خاص** روزانہ بعد از فجر وعشاء ایک تیج ورد کریں اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ فائدہ خیر حفظا و هو ارحم الرحیم سورۃ یوسف آیت نمبر 63

**علم جفر، نجوم اور رمل سے مسائل کی تشخیص**

ان شاء اللہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں سے آپ کو صحیح گائیڈ لائن دی جائے گی۔ کوائف میں مکمل نام، والدہ کا نام، تاریخ اور وقت پیدائش و مقام پیدائش اور سوال (1 تا 9) کے درمیان کوئی سے 4 ہندسے گرکار ہونگے۔ جاوید جمالی علاوی 0301-5503367

**اہم نکات** آپ کا 2020 ایک تبدیلیوں سے بھر پور سال ہے آپ کا نیا سیارہ مریخ اس سال شرف حسیض طرح اور فرح جیسی حالتوں سے گزرے گا اور آپ کے معاملات میں خاصی اہم تبدیلیوں کا باعث بنے گا۔ خانہ مال اور اولاد سے منسوبہ سیارہ مشتری تمام سال بہت گھبر رہتے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن اور بچوں سے منسوبہ مسائل پیدا کر رہا ہے زحل چوتھے مارچ میں آجانے سے پراپرٹی سواری اور خانگی ماحول کو بہتر کر رہا ہے۔

**شخصی وقار** آپ کا نیا سال سیارہ مریخ 3 جنوری تا 15 فروری بالعموم اور 16 فروری تا 30 مارچ بالخصوص شرفی گھر رہتے ہوئے آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کر رہا ہے۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ حسیض اور طرح میں رہتے ہوئے آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا ہے۔ آپ کے افسرز، بچوں اور منگنی سے متعلقہ معاملات اور خانگی معاملات میں آپ کی پریشانیوں کا باعث ہونگے۔ 28 جون کے بعد حالات میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی آپ کو حالات پر قابو پانے میں آسانی رہے گی آپ کا وقار بحال ہو رہا ہے مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت ایک مرتبہ پھر آپ کی پریشانی کا باعث ہوگی۔

**مالی پوزیشن** جیسا کہ آپ کو اہم نکات میں بتایا جا چکا ہے آپ کے خانہ مال کا حاکم مشتری گزشتہ دسمبر سے بہت کمزور ہے اور 19 دسمبر 2020 تک بہت کمزور رہے گا۔ اس سال آپ کو اپنے اخراجات کو بے حد احتیاط سے چلانا ہوگا کسی بھی قسم کی فضول خرچی سے قطعی گریز کرنا ہوگا۔ اس سال آپ کو آمدن کم اور اخراجات میں اضافہ کا سامنا رہے گا چونکہ یہ ایک طویل دورانیہ کی پرابلم ہے اس لیے اس کا روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**عزیز واقارب، نزدیکی سفر، ابتدائی سفر** آپ کے بیت الاقرباء میں مشتری کی موجودگی آپ کی سوشل لائف کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہیں گے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ مزید احتیاط کا تقاضی ہوگا جبکہ مشتری رجعت میں بھی ہوگا۔ اس سال ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں مشکلات پیش

شدہ عقرب افراد کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

آسکتی ہیں۔ اس سال ایسے عقرب افراد جنکا ذریعہ معاش کسی بھی حوالوں سے سفروں سے منوب ہے انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ اس سال 3**

فروری تا 27 اپریل، 27 تا 6 ستمبر، 2 تا 31 دسمبر آپکو مشترکہ طور پر کئے جانے والے کاموں میں خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان ایام میں آپکے وارثی مقدمات بھی التوا کا شکار ہو سکتے ہیں یا انکے فیصلے آپکے خلاف آسکتے ہیں تحمل اور بردباری سے درست وقت کرنا بہتر ہوگا۔

**گھر، خاندان، پراپرٹی** اس حوالے سے آپکو ماحول انتہائی سازگار ملے گا 20 جنوری 19 تا فروری چوتھے شمس کا وبال خانگی ماحول کو متاثر کر رہا ہے اس دوران گھر کی تبدیلی یا خرید و فروخت سے گریز کریں۔ والدہ کی جانب سے پرائلیم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 22 مارچ کو زمل کے چوتھے اپنے ہی برج میں آجانے سے آپکے خانگی معاملات میں بہتری آئے گی پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گھر کی تبدیلی کے لیے انتہائی موزوں وقت ہوگا، گھر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے والدہ اور خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی 11 مئی 29 تا ستمبر زمل کی رجعت قدرے مشکل وقت ہو سکتا ہے اس دوران ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش صدقہ دے کر خود کو محفوظ کر لیں۔

**روحانیت، بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم، حج و**

**زیارات** گزشتہ سال سے راہو آپکے زانچہ کے ناویں میں موجود ہے آپکو زندگی کا روحانی سفر بہت احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ راہو کی ناویں میں موجودگی آپکو دانستہ یا غیر دانستہ غلط یا غیر شرعی اعمال کی طرف لے جاسکتی ہے۔ آپکو اس سال کئی ایک بیرون ملک سفر مل سکتے ہیں مگر صرف ان لوگوں کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کے زانچہ پیدائش میں پرائلیم ہے اسی طرح اعلیٰ تعلیم اور حج و زیارات کے لیے بھی ماحول سازگار ملے گا البتہ ویزہ اپلائی کرنے کی تاریخ بہت اہم کردار ادا کرے گی، ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب اور اس سال ہونے والے 4 قمری گزرنے کے ایام میں ویزہ اپلائی کرنا بہتر نہ ہوگا یہ اوقات مدارج طے کرنے میں رکاوٹ ہوگا

**صحت، ملازمت، ملازم** آپکے بیت اصحت کا حاکم مرغ آغاز

سال 30 تا مارچ بہترین اثرات مرتب کر رہا ہے بالخصوص 16 فروری 30 تا مارچ کا دورانیہ انتہائی بہتر ہوگا آپکی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا دوسری طرف کیئریر، روزگار کا حاکم شمس بھی 20 مارچ کو اسی جگہ شرفی حالت میں آجانے سے آپکی ترقی کے مواقع بڑھ جائیں گے مگر آپکی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ 20 اپریل کو شمس کے اگلے گھر جانے اور مرغ کے منفی ہونے سے حالات آپکے موافق نہ ہونگے اس دوران آپکو ملازمین کی جانب سے مشکلات پیش آسکتی ہیں 28 اپریل سے حالت میں بہتری آئے گی۔

**معشیت، کرنیر، روزگار** اس سال آپکو ابتدائے سال 19 تا مارچ

20 مئی 21 تا ستمبر، 21 تا 31 دسمبر کا دورانیہ آپکے کیئریر، روزگار کے لیے بہتر نہ ہوگا ان ایام میں آپکے پہلے سے جاری کاموں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ 20 مارچ 19 تا اپریل سال کا سب سے بہتر دورانیہ ہوگا اسکے بعد 21 جون 21 تا ستمبر اور 22 نومبر 20 تا دسمبر حالات آپکے موافق ہونگے آپکو ترقی کے بہتر مواقع میسر رہیں گے ان ایام میں سرمایہ کاری کرنا بہتر ہوگا ملازم پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے

**اولاد، انعامی بانڈ، لائری** آپکے پانچویں گھر کا حاکم مشتری تمام

سال ہبوط میں رہتے ہوئے اس سال آپکو بچوں کی جانب سے پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے بہتر ہوگا بچوں پر خاص توجہ دیں۔ اس سال اپنے اور بچوں کے صدقات کثرت سے دیں عقرب کی حاملہ خواتین کو خاص طور پر احتیاط کرنا ہوگی اس سال سیموں میں حصہ لینا بہتر نتائج کا حامل نہ ہوگا۔

**دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد** آپکے

زانچے میں خوشحالی سے وابستہ گیارہویں گھر کا حاکم سیارہ عطارد اس سال یکم جنوری تا فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی 5 تا ستمبر، 27 تا یکم دسمبر بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے باذن اللہ آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہوگا اس دوران دوست احباب سے تعلقات بہتر رہیں گے آپکے کاروباری تعلقات بہتر رہیں گے آپکے کاروباری اقدامات کے بہترین فوائد آپکو مل سکیں گے اس دوران والد کی طرف سے مالی سپورٹ ملتی رہے گی۔ سال کا باقی دورانیہ آپکو اپنی خواہشات کو روکنا ہوگا اور دوست احباب سے اختلافات سے گریز کرنا ہوگا

**شادی، شراکتی ازدواجی تعلقات** اس سال آپکی شادی طے

پانے کے قوی امکانات موجود ہونگے عقرب کے ایسے خواتین و حضرات جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں انہیں اپنا زانچہ بنا کر دیکھ لینا چاہیے کہ پرائلیم کہاں ہے اس سال 13 جنوری 7 تا فروری 5، مارچ 2 تا اکتوبر 28، اکتوبر 20 تا نومبر کا دورانیہ نکاح و شادی کے لیے بہترین اوقات ہونگے ان ایام میں آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے آپکو نئی شراکت داری کی بھی آفر مل سکتی ہے جبکہ 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 12 اکتوبر اور 21 نومبر تا 31 دسمبر کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا اس دوران کی گئی شادیاں دیر یا ثابت نہ ہونگی اس دورانیے میں شادی

کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں آسکتا ہے بیرون ملک مقیم رہتے ہوئے سواری اور جگہ کی تبدیلی اس دوران کرنا بہتر ہوگا بتائے گئے عرصہ کے علاوہ امیگریشن اپلائی یا سواری کی تبدیلی بہتر نہ ہوگی یہ دورانیہ موافق نہ ہونے سے آپ کو وطن واپسی کی راہ دکھانا پڑسکتی ہے۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے 4 قمری و شمسی گرہن آپ کی زندگی پر خاصے گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں ان گرہنوں کے اثرات آپ کے مالی معاملات، نزدیکی سفر، عزیز واقارب، بنیادی تعلیم اور بیرون ملک سفروں روحانی علوم کیساتھ سسرالی عزیزوں سے متعلقہ معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان ایام کو جنٹری سے نوٹ فرمائیں اور ہر وقت صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے پروردگار کی امان حاصل کریں مزید تفصیلات کے لیے میری یوٹیوب چینل شیخ زور رضا جاوا کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔

**ورد خاص** روزانہ بعد از نماز فجر سورہ طلاق آیت نمبر 2 کا آخری اور تین اولین حصہ 100 مرتبہ ورد کریں بعد اول و آخر 12-12 مرتبہ درود پاک، روزانہ بعد از نماز عشاء سورہ انا انزلنا 9 مرتبہ تلاوت کریں مع اول و آخر 9-9 مرتبہ درود پاک **صدقہ** ہر منگل 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کچلی اور ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔

**برج: قوس Sagitarius سیارہ: مشتری**

رنگ:	سفید، ہنر
مکسر:	آتش
جواہر:	فیروزہ، جبرائیل
بہترین شریک حیات:	حمل، اسد
ناموافق ساتھی:	حوت، جوزا، سنبل

**بیماریاں:** عرق النساء، حادثات کی چوٹیں، ہاتھ کی خرابیاں

**دن:** ہمراہ عدد: ۳ 23 Nov to 22 Dec **حروف:** ف

**اہم نکات** اس سال آپ کے لئے اہم اور بڑی خبریں ہیں اس سال مارچ میں آپ کی ساڑھ تہی ختم ہو جائے گی اور آپ گذشتہ سات سال سے زائد جاری بحرانی کیفیت سے نکل آئیں گے۔ دوسری جانب آپ کا ذاتی ستارہ مشتری سارا سال دوسرے گھر جدی میں بہوٹ یافتہ ہوگا جسکی وجہ سے آپ کا شخصی وقار مالی پوزیشن، خاندانی اور گھریلو مسائل کے ساتھ پراپرٹی کے مسائل بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ سیارہ مشتری سال کے آخر میں تیسرے بیت الاقرباء آجائے سے آپ کی زندگی پر سعد اثرات مرتب ہونگے اسکے ساتھ ہی دیگر قمر، شمس، زہرہ، عطارد اور مریخ کی گردش آپ کے سال میں کیا ثمرات دے گی آنے والی سطور میں ملاحظہ کرتے ہیں۔

**شخصی وقار** اس سال آپ کو سب سے زیادہ توجہ اپنے شخصی وقار پر دینا ہوگی۔ ساڑھ تہی نے پہلے ہی آپ کے شخصی وقار کو خاصہ مجروح کیا ہوا تھا رہی کس مشرتی کا 19 دسمبر تک کا بہوٹ ہوگا اس دوران آپ کی شخصیت وقار خاصہ مجروح ہو سکتی ہے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر مشرتی کی رجعت کا دورانیہ آپ کے سماجی و معاشرتی مقام کو خراب کر سکتا ہے لیکن دین کے معاملات اور وقار میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں محتاط رہیں۔ اس حوالہ سے روحانی تدابیر از حد ضروری ہوگی۔

**مالی پوزیشن** آغاز سال تا 20 جنوری شمس کی منفی پوزیشن اور مشتری کی بہوٹ میں موجودگی آپ کی مالی پوزیشن کو از حد متاثر کر سکتی ہے کیونکہ شمس کی وجہ سے خانہ مال میں موجود زحل بھی اپنے سعد اثرات کھو دے گا اسکے بعد 22 مارچ کو زحل کے خانہ مال سے چلے جانے کے بعد مشتری کے منفی اثرات مزید کم ہو جائیں گے دوسری جانب زحل آپ کے تیسرے گھر اپنے ذیلی گھر میں رہتے ہوئے امداد رپی کے طور پر کام کرتا رہے گا اگر آپ کے پاس شرف مشتری ہے تو نور علی نور ورنہ سال میں مشتری کے صدقات دینا اپنا معمول بنالیں۔

**عزیز و اقارب، نزدیکی سفرات و تعلقات** اس سال 20 جنوری تا 19 فروری شمس کی تیسرے وبال میں موجودگی آپ کے تعلقات بالخصوص بہن بھائیوں اور زندگی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو متاثر کرے گا۔ 22 مارچ کو زحل کے تیسرے اپنے ہی گھر آجانے سے حالات میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی زندگی سفرات کھل جائیں گے اور بچوں کو بھی ابتدائی تعلیم میں بہتر ماحول میسر ہوگا البتہ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت کے ایام میں تعلقات میں کچھ اور تناؤ کی کیفیات رونما ہو سکتی ہیں آپ کے سفرات ملتوی ہو سکتے ہیں جبکہ سال کا باقی دورانیہ اچھا گذرے گا۔

**گھر خاندان پراپرٹی سواری** جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ زمین جائیداد پراپرٹی لے لحاظ سے یہ سال موافق نا ہوگا گھر کی تبدیلی پراپرٹی کی خرید و فروخت اور سواری کے لین دین یا تبدیلی سے گریز کریں آپ کو نقصان یا التوا کے خدشات لاحق ہونگے۔ اس سال آپ کو والدہ کی صحت یا اختلافات کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بالخصوص 19 فروری تا 20 مارچ کا دورانیہ اور 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ خدا نخواستہ مشکلات لاسکتا ہے اس سال مشتری کے منفی اثرات کا روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**اولاد انعامی بانڈز لٹری** اس سال آپ کو طے چلے اثرات کا سامنا رہے گا سال کی ابتدا خاصی بہتر رہے گی سال کے ابتدا 3 جنوری تا 16 فروری بچوں سے تعلقات کو انتہائی بہتر بنا رہی ہے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونگے بچوں کی قربت انتہائی اچھے ثمرات کی حامل ہوگی 16 فروری تا 31 مارچ

28 جون بچوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں تاہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ حاملہ خواتین کو اس دوران خاصی احتیاط برتنا ہوگی سال کا باقی دورانیہ انشاء اللہ اچھا گزرنے کے امکانات ہیں۔ 28 جون کے بعد حالات تیزی سے بہتر ہونگے جبکہ مریض کی رجعت 10 ستمبر تا 14 نومبر کے ایام میں آپکا احتیاط برتنا ہوگی۔

**صحت ملازمت اور ملازمین** اسماں 8 فروری تا 4 مارچ اور 13 اکتوبر تا 27 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال آپکا اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اس دوران ملازمت کا خاص خیال رکھیں اختلافات سے گریز اور چاب چھوڑنے کی غلطی نہ کریں اپنے ملازمین پر اس دوران خاص نگاہ رکھیں نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ 5 مارچ تا 12 اکتوبر اور 27 اکتوبر تا 20 نومبر کا دورانیہ چاب کی تبدیلی کے لئے بہتر ہوگا آپ کو حسب خواہش ملازمت مل سکتی ہے اس دوران آپکی صحت بھی بہتر رہے گی۔

**شادی ازدواجی زندگی شراکت داری** آپکے ساتویں کا حاکم اور دسویں کا حاکم ستارہ عطار دہے تیز رفتار ستارہ ہونے کی وجہ سے آپکی ازدواجی و شراکتی زندگی پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اسماں یک جنوری تا 12 فروری، 11 تا 27 اپریل، اور 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یک دسمبر آپکے ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے شریک حیات کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کا موقع ملے گا جبکہ اس دوران شراکتی معاملات بھی بہتر رہیں گے کسی نئی شراکت کی آفر بھی مل سکتی ہے جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل، 28 اپریل تا 11 مئی، 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 21 دسمبر کا دورانیہ آپکی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ وقت بہت احتیاط طلب ہوگا گفتگو میں احتیاط برتیں اور کسی سنی سنائی بات پر اندھا اعتبار مشکلات میں اضافہ کا باعث ہوگا جبکہ زوجین میں علیحدگی تک معاملات جاسکتے ہیں۔

**وراثت مشترکہ مالی معاملات قرضہ** اسماں آپکو معاملات حل کرنے کے کئی ایک مواقع دستیاب ہونگے۔ 13 جنوری تا 8 فروری اور 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 27 اکتوبر تا 21 نومبر کا دورانیہ اس حوالہ سے سال کے بہترین اوقات ہونگے اس دوران مشترکہ طور پر کام کرنے والے افراد کو بھی بہتر منافع ملنے کے امکانات ہیں حسب خواہش قرضہ لینے کے خواہش مند افراد کو قرض کے حصول میں کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے مالی معاملات بہتر بنا سکیں گے سال کا باقی دورانیہ آپکے لیے موافق نہ ہوگا احتیاط برتیں۔

**روحانیت اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سفارت حج و زیارات** اسماں آپکو بیرون ملک سفارت کے کئی ایک مواقع ملیں گے اور

ان شاء اللہ آپ حسب خواہش حج عمرہ و زیارات مقدسہ کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ روحانیت کی جانب آپکی توجہ مبذول ہوگی لیکن آپ متزلزل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپکا اپنا ستارہ مشتری جو کہ مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے آغاز سال تا آخر ہیبت میں ہوگا۔ آغاز سال 20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون اور 22 ستمبر تا 23 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر کا دورانیہ ایگریشن کے کاموں ویزہ کے حصول کے حوالہ سے موزوں نہ ہوگا ان ایام میں گئی کو ششماں تا کامی سے دوچار ہوگی جبکہ اعلیٰ تعلیم یا بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو بھی تا کامی ہو سکتی ہے۔

**معیشت کیرئیر روزگار ترقی و تنزلی** آپکے کیرئیر روزگار سے متعلقہ ستارہ آغاز سال 2 فروری، 11 تا 28 اپریل، 11 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا 2 دسمبر کا دورانیہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپکے کام کاروبار روزگار پر بہتر اثرات مرتب کرے گا اس دوران ملازمت پیشہ افراد کو ترقی کے امکانات بھی روشن ہونگے اس دوران نئی انوسٹمنٹ کرنا اور کیرئیر روزگار کے حوالہ سے بڑے فیصلے لینا موزوں ہوگا جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل، 29 اپریل تا 12 مئی، 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 20 دسمبر کا دورانیہ اہم فیصلوں اور تبدیلیوں کے لحاظ سے بہتر نہ ہوگا اپنی تحریر اور تقریر میں احتیاط برتیں اس دوران تحریری و زبانی معاہدے کرنے سے گریز کریں۔

**دوست احباب، خواہشات کاروباری فوائد** ہرزانچہ کا گیارہواں گھر دوست احباب خوش بختی اور خواہشات کی تکمیل کا گھر ہوتا ہے اس گھر سے منسوب ستارہ زہرہ اس سال یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 12 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاونت دیتا رہے گا گذشتہ اوقات میں کئے گئے کاروباری اقدامات سے فوائد لینے کا یہ بہترین وقت ہوگا سال کا باقی دورانیہ بہتر نہ ہوگا اپنی خواہشات کو محدود رکھیں دوست احباب سے واسطہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں گی۔

**بیرون ملک قیام خفیہ سازشیں اور ایگریشن** آغاز سال 31 مارچ تک کا دورانیہ ایگریشن اور بیرون ملک قیام کی کوششوں میں انشاء اللہ کامیابیاں لائے گا۔ یکم اپریل تا 28 جون کا دورانیہ قطعی موافق تا ہوگا مریض کی منفی حالت آپکے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا دے گی بیرون ملک مقیم افراد کو واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے اس دوران نئے ویزہ کے حصول کے لئے ایگریشن کے لئے آغاز کرنا بہتر نہ ہوگا۔ 28 جون کے بعد حالات قدرے بہتر رہیں گے تاہم 10 ستمبر تا 14 نومبر کا دورانیہ مریض کی رجعت کے ایام کی وجہ سے آپکی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن

گر بن آپکی عزت مالی پوزیشن شراکتی وراثتی و ازدواجی معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں گرنہوں کے ایام اور دورانیے جنتری میں الگ سے صفحات پر دئے جاتے ہیں ان ایام کو نوٹ کر لیں اور صدقہ و نماز کسوف و خسوف کی بروقت ادائیگی سے آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں آسکتے ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات 300 گرام یا تین پاؤ بڑا گوشت اور تین چمچ ہلدی کسی غریب مستحق کو دیں یا پرنوں کو ڈالیں۔ **ورد خاص** روزانہ بعد از نماز عشاء دعائے رنجوست سیارگان ورد کریں مع اول آخر 9-9 مرتبہ درود پاک روزانہ بعد از نماز فجر سورۃ شوریٰ کی آیت نمبر 19 ایک تسبیح ورد کریں۔

**برج: جدی CAPRICORN سیارہ: زحل**

رنگ:	سرخ، بھورا، خاک
مکمل:	خاک
جواہر:	شیرنگ، سیمائی، یاقوت
بہترین شریک حیات:	ثور، سنبلہ
ناموافق ساتھی:	حمل، سرطان، میزان

**بیماریاں:** دانتوں کی بیماریاں، امعاء کی تازہ سردی، کھانسی، سرفہ

**دن:** ہفتہ عدد: ۸ 23 Dec to 20 Jan **حروف:** ج، خ، گ

**اہم نکات** جدی افراد اس سال ساڑھ تکی کے تیسرے اور آخری ڈھائی سالہ دور میں 22 مارچ کو داخل ہو جائیں گے زحل آپکے خانہ مال میں اپنے ہی گھر آجانے سے آپکے مالی معاملات میں مثبت اثرات مرتب کرے گا دوسری طرف آغاز سال 19 دسمبر مشتری طالع میں بہو ط زدہ رہتے ہوئے آپکی عزت و توقیر اور سماجی تعلقات کو بڑی طرح متاثر کر رہا ہے اس سال اس حوالہ سے کوئی روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا دیگر سیارگان میں مرخ طالع میں شرف یاب ہونے سے آپکے شخصی وقار کو سہارا مل رہا ہے گھر پر اپنی کی خرید و فروخت بہتر ہوگی یہ دورانیہ مختصر مگر خوش بختی سے بھر پور ہوگا دیگر سیارگان میں شمس و قمر عطارد زہرہ اس سال آپکے حالات پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں یہ اگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**شخصی وقار** گزشتہ سال طالع میں زحل کی موجودگی سے آپکو خاصے بہتر حالات میسر رہے مگر اس سال حالات خاصے مختلف نظر آ رہے ہیں گزشتہ سال دسمبر سے مشتری بہو ط زدہ آپکے طالع میں موجود رہتے ہوئے آپکی عزت و توقیر کو نقصان پہنچا سکتا ہے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر جبکہ مشتری طالع میں بحالت رجعت بھی ہوگا اس سال گفتگو میں بہت احتیاط کرنا ہوگی اسکے علاوہ یکم 20 جنوری جبکہ شمس طالع میں بحالت حسیض ہوگا اور 12 تا 21 دسمبر کا دورانیہ بھی موافق نہ ہوگا اس سال مشتری کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے کوئی سدباب از حد ضروری ہوگا۔

**مالی پوزیشن** اس سال 20 جنوری تا 19 فروری خانہ مال میں سمش کا

دوال آپکی مالی پوزیشن کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتی ہے بالخصوص وہ افراد زیادہ متاثر ہونگے جو مشتری کے طور پر کام کر رہے ہیں اسکے علاوہ خانہ مال میں زحل کی موجودگی آپکی مالی پوزیشن کو بہتر بنا رہی ہے چونکہ یہ زحل کا اپنا ذیلی برج ہے 11 مئی تا 29 ستمبر بوجہ رجعت روپیہ پیدا آتا رہے گا مگر رفتار آہستہ ہو جائے گی ان ایام میں لین دین میں محتاط رہیں باقی تمام سال ان شاء اللہ بہتر گزرے گا۔

**عزیز واقارب، اقدانی تعلیم، نزدیکی سفر** جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے مشتری جو کہ آپکے بیت الاقرباء کا حاکم سیارہ ہے تمام سال بہو ط میں رہے گا اس طرح یہ تمام سال آپکو اس حوالہ سے بہت محتاط روش اختیار کرنا ہوگی بالخصوص 3 فروری تا 11 اپریل جبکہ عطارد آپکے بیت الاقرباء میں بہو ط زدہ ہوگا عزیز واقارب کی جانب سے آپکو الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس دورانیہ میں کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں وگرنہ آپکے مابین تکیاں مزید بڑھ جائیں گی اسکے علاوہ 14 مئی تا 13 ستمبر بوجہ رجعت مشتری بھی آپکے تعلقات بگاڑ کا شکار رہیں گے اس طرح جدی بچوں کو بھی اس سال تعلیمی مدارج کی تکمیل میں مشکلات کا سامنا رہے گا اگر احتیاط نہ کی گئی تو آپکا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے اس سال آپکے طے شدہ سفر بھی منسوخ ہو سکتے ہیں اور آپکو دوران سفر اپنی دستاویزات کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔

**خاندان، پراپرٹی** ابتدائے سال میں 3 جنوری تا 16 فروری مرخ کی بارہویں میں موجودگی گھریلو حالات متاثر کر سکتی ہے خاندان کے افراد پر پردہ آپکے خلاف مصروف ہونگے اس دوران پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا بہتر نہ ہوگا 16 فروری کو مرخ طالع میں شرفی گھر آجانے سے حالات میں بہتری آئے گی اب 31 مارچ تک پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گھر رہائش کی تبدیلی بہتر ہوگی۔ خاندان کے افراد سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ یکم اپریل تا 27 جون حالات قطعی موافق نہ ہونگے آپکو بے حد محتاط رہنا ہوگا اس دوران پراپرٹی کی خرید و فروخت سے قطعاً گریز کریں گھر کا ماحول ایک مرتبہ پھر خراب ہو رہا ہے والدہ کی جانب سے پریشانی ہو سکتی ہے 28 جون کے بعد حالات میں بہتری متوقع ہے۔

**اولاد، سنگنی، انعامی بانڈ** زحل دوسرے گھر رہتے ہوئے چوتھی نظر سے بیت اولاد کو دیکھ رہا ہے جو کہ بہتر صورت حال نہ ہوگی اسکے علاوہ 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر پانچویں کا حاکم زہرہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے بچوں کی طرف سے آسودگی فراہم کر رہا ہے اولاد کے خواہش مند افراد کو خوشخبری مل سکتی ہے بڑے بچوں سے تعلقات بہتر رہیں گے انعامی سکیموں میں حصہ لینے والے افراد کے لیے بھی یہی دورانیہ موافق ہوگا سال کا باقی دورانیہ موافق نہ ہوگا۔

ستمبر، 2 تا 20 دسمبر ویزہ اپلائی کرنے سے قطعی گریز کریں ان ایام میں عملیات کے شائق افراد اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے جدی افراد کو بھی مشکلات پیش آسکتی ہیں آپ کو از حد محتاط رہنا ہوگا۔

**معشیت، کیرنیر، روزگار، ترقی تنزلی** آپ کے کاروباری معاملات اس سال 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر ان شاء اللہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے اس دوران نئے کاروباری معاہدوں اور کاروبار میں انوکھٹ کا موقع ملے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو حسب مقدر ترقی مل سکتی ہے۔ 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال ہوا کارخ مخالف سمت میں ہوگا اس دوران نئے کاروباری منصوبہ جات یا انوکھٹ سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کو اس دوران محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔

**دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد** اس سال آپ کے گیارہویں گھر کا حاکم مریخ 16 فروری تا 31 مارچ شرفی گھر رہتے ہوئے آپ کی خوش بختی میں اضافہ کر رہا ہے اس دوران دوست احباب کا بھرپور تعاون میسر رہے گا۔ 31 مارچ تا 28 جون کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا آپ کو اپنی خواہشات کو روکنا ہوگا اس دوران دوست احباب سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں محتاط رہیں۔

**بیرون ملک قیام، امیگریشن** آپ کے زائچہ کا بارہواں حصہ آپ کے بیرون ملک قیام اور امیگریشن سے متعلق ہوتا جس کا حاکم سیارہ مشتری تمام سال آپ کے طالع یعنی زائچہ کے گھریا ہو پڑ رہے گا اس طرح اس سال آپ کے لیے امیگریشن کا حصول از حد مشکل ہوگا بلکہ پہلے سے مقیم افراد کو بھی وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے اس حوالہ سے کوئی روحانی تدارک کرنا آپ کے لیے از حد ضروری ہوگا الغرضی بے حد نقصان کا باعث ہوگی۔

**شمسی و قمری گرہن** جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے اس سال کثرت سے گرہن لگ رہے ہیں اس سال لگنے والے گرہن آپ کے شرارتی، ازدواجی معاملات، شادی میں رکاوٹ، بیرون ملک قیام اور امیگریشن کے علاوہ آپ کی صحت اور عزت و وقار سے متعلقہ معاملات کو بڑی طرح متاثر کر سکتے ہیں ان ایام کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھیں اور ہر وقت صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی ان شاء اللہ آپ کو ان مشکلات سے محفوظ رکھے گی۔

**صدقہ** ہر جمعرات کو کم از کم 300 گرام یا 3 پاؤ بڑا گوشت اور 3 چمچ ہلدی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ ہر منگل 900 گرام دال مسور یا مرنی کی کچلی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ بعد از نماز فجر ایک تسبیح ورد کریں مع اول و آخر 11-11 مرتبہ ورد پاک **يَا اِلٰهَ الْاِلٰهَ الرَّبِّيعُ جَلَالَهٗ**

**صحت، ملازمت، ملازمین** آپ کے بیت الصحت کا حاکم عطارد اس سال یکم جنوری تا 2 فروری 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر تا یکم دسمبر 21 تا 31 دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی صحت اور جاب دونوں پر مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے آپ کے لیے بہتر جاب اور ملازم کا حصول ممکن ہوگا جبکہ 3 فروری 11 تا 28 اپریل 28، 6 مئی تا 26 ستمبر، 20 تا 2 دسمبر کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا۔ اس دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ملازمت چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں ورنہ دوبارہ ملنا مشکل ہوگی اس دوران آپ کو اپنے ملازمین کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔

**شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری** اس حوالہ سے اس سال آپ کو کچھ ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا اس سال کثرت سے قمری گرہنوں سے آپ کے شرارتی، ازدواجی تعلقات خاصے متاثر ہو سکتے ہیں آپ کو ان گرہنوں (قمری گرہن) پر خصوصی توجہ دینی ہوگی جو کہ 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو ہو رہے ہیں گرہنوں کے ایام میں خاص طور پر صدقہ اور نماز کسوف و خسوف کا اہتمام از حد ضروری ہوگا ورنہ یہ آپ کے مابین علیحدگی کروا سکتے ہیں اسکے علاوہ ہر ماہ قمری ہبوط (قمر در عقرب) پر بھی لازمی صدقہ دیں تاکہ آپ کے تعلقات بچے رہیں۔ اس سال 21 جون تا 22 جولائی کا دورانیہ ساتویں شمس کی اوجی نشست کی وجہ سے بہتر رہے گا یہ قدرت کا اعلیٰ ترین مدافعتی نظام ہے جو کہ آپ کو 5 جون، 21 جون اور 5 جولائی کے شمسی و قمری گرہنوں سے ان شاء اللہ محفوظ رکھے گا۔ گرہن اور قمری ایام میں نکاح شادی قطعی گریز کریں۔

**وارثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ** ساڑھتی کے مشکل ترین دور میں اکثر جدی افراد وارثت کے حصول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ مالی پوزیشن کو مستحکم کر سکیں۔ اس سال یکم جنوری تا 20 مارچ 20 مئی تا 21 جون 22، ستمبر 23 تا 21 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر آپ کو وارثت کے حصول میں مشکلات پیش آسکتی ہیں اس دوران قرضہ خواہ بھی آپ کے مسائل میں اضافہ کا باعث ہو گئے محتاط رہیں جبکہ 20 مارچ تا 19 مئی، 21 جون تا 21 ستمبر، 23 اکتوبر تا 20 دسمبر آپ کے لیے حالات موافق ہو گئے وارثت کا حصول اور مشترکہ انوکھٹ سے مالی منافع مل سکے گا اس دورانیہ میں قرض کے خواہشمند افراد کے لیے قرض کا حصول ممکن ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم** اس سال آپ کے بیرون ملک سفر کی خواہش پوری ہو سکتی ہے مگر ذہن میں رکھیے گا اس سال امیگریشن اپلائی کرنا قطعی موافق نہ ہوگا۔ آپ کو حج و زیارات کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے مگر ویزہ اپلائی کرنے کے لیے درست وقت کا انتخاب از حد ضروری ہوگا۔ 3 فروری 10 تا 28 اپریل، 28 اپریل 11 مئی، 26 تا 6



**برج: دلو AQUARIUS سیارہ: یورینس**

رنگ: خاک، بھورا، نیلا  
 عنصر: ہوا  
 جواہر: لیم، ہمدید، جتیس سیاہ  
 بہترین شریک حیات: جوزا، میزان  
 ناموافق ساتھی: ثور، اسد، عقرب



بیماریاں: آنسو کی بیماریاں، خشک آنسو، قلبی دوسہ

دن: ہفتہ عدد: ۸ 21 Jan to 19 Fer حروف: س، ش، ص، ٹ

پروردگار سے منسلک رہتے ہوئے اس صورتحال کا بہتر سدباب کیا جاسکے گا۔  
**عزیز واقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی** سال 3 جنوری  
 16 فروری آپ کے تعلقات خاصے بہتر رہیں گے مگر 16 فروری تا 31 مارچ مریخ  
 کی بارہویں شرفی نشست عزیز واقارب کی ریشہ و انیاں بڑھادے گی۔ اسکے بعد  
 31 مارچ تا 28 جون بھی آپ کے تعلقات کشیدہ رہیں گے ان ایام میں نزدیکی سفروں  
 سے گریز کرنا بہتر ہوگا دلو بچوں کو بھی مشکلات پیش آسکتی ہیں۔ 8 جون کے بعد  
 حالات میں قدرے بہتری آئے گی سال کا باقی دورانیہ پہلے سے بہتر رہے گا۔

**گھر، خاندان، پراپرٹی** جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے زحل کی چوتھی  
 نظر اس حوالہ سے بہتر نہ ہوگی پھر بھی 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2  
 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر کے دوران زانچے کے چوتھے کا حاکم زہرہ بہتر  
 پوزیشن میں رہتے ہوئے خانگی ماحول میں بہتری کا باعث بنے گا گھر کی تبدیلی  
 پراپرٹی کی خرید و فروخت اور تزئین و آرائش بہتر رہے گی اس دوران گھر کا  
 ماحول بہتر رہے گا خاندان کے افراد سے بھی تعلقات ان شاء اللہ بہتر رہیں گے

**اولاد، منگنی، انعامی بانڈ** اس سال 16 جنوری تا 3 فروری،  
 11 تا 28 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر کا دورانیہ بچوں کے  
 حوالہ سے ان شاء اللہ بہتر گزرے گا بے اولاد دلو افراد کو حسب خواہش اولاد کی  
 خوش خبری مل سکتی ہے یہ دورانیہ انعامی سکیموں میں حصہ لینے یا پرائز بانڈ کی  
 خرید و فروخت کے حوالہ سے بہتر رہے گا سال کا باقی دورانیہ آپ کو بے حد محتاط  
 روش سے گزارنا ہوگا بالخصوص 3 فروری تا 10 اپریل، 6 تا 26 ستمبر کا دورانیہ  
 قلمی موافق نہ ہوگا ان ایام میں اور 30 نومبر کو دلو حاملہ خواتین کو بالخصوص احتیاط  
 کرنا ہوگی آپ کے بڑے بچوں میں سرکشی کا عنصر بڑھ رہا ہے۔

**صحت، ملازمت، ملازمین** اس سال آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ  
 دینا ہوگی اس سال 4 قمری گرہن جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی  
 اور 30 نومبر کو ہورہے ہیں آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کو بڑی طرح متاثر کر  
 سکتے ہیں اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والے قمری ہیوط (قمر درعقرب) کو بھی خاص  
 طور پر نظر میں رکھیں ان ایام میں خصوصی طور پر صدقات کا اہتمام کرنا از حد  
 ضروری ہوگا اسکے علاوہ اس سال نئی تک راہ بھی آپ کے بیت الصحت میں موجود  
 رہتے ہوئے آپ کی صحت بوجہ نظر بد یا سحر جادو متاثر کر رہا ہے گا۔

**شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری** گوکہ اس سال  
 آپ کی شادی طے پانے کے قوی امکانات موجود ہیں مگر زحل کی ساتویں نظر آپ کی  
 راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اسکا سدباب ضروری ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اپنی  
 ساڑھستی کا کوئی سدباب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں کر لیں تاکہ زندگی کی

**اہم نکات** آپ اس سال مارچ میں ساڑھستی کے دوسرے ڈھائی سالہ دور  
 میں داخل ہو جائیں گے زحل طالع میں اپنے ذیلی گھر آ جانے سے جہاں عزت  
 وقار میں اضافہ ہوگا وہیں ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی زحل کی چوتھی ساتویں  
 نظر آپ کے پراپرٹی اور خانگی کے علاوہ ازدواجی، شرکاتی معاملات کو متاثر کر سکتا  
 ہے اس سال آپ کے زانچے کے گیارہویں اور دوسرے گھر کا حاکم مشتری ہیوط میں  
 جانے سے آپ کے مالی معاملات بہت متاثر ہو سکتے ہیں مزید معلومات اور دیگر  
 سیارگان شرف و قمر عطارد، زہرہ اور مریخ اس سال آپ پر کیا اثرات مرتب کریں  
 گے یہ نگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**شخصی وقار** 20 جنوری تا 19 فروری طالع میں شمس کا وبال آپ کی  
 عزت وقار کو متاثر کر سکتا ہے آپ کے شرکاتی ازدواجی تعلقات آپ کی مشکلات میں  
 اضافہ کر سکتے ہیں۔ مارچ آخر میں زحل طالع میں آ جائے گا زحل چونکہ آپ کے  
 اپنے سیارہ کا حاکم ہے تو اسکی طالع میں موجودگی آپ کے شخصی وقار میں اضافہ کر سکتی  
 ہے مگر زحل کی چوتھی، ساتویں نظر آپ کے خانگی اور ازدواجی تعلقات کو متاثر کر سکتی  
 ہے آپ کو بہت محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ اس سال مشتری بارہویں ہیوط زدہ  
 رہنے سے آپ کے خفیہ مخالفین کمزور رہیں گے ساڑھستی کے اس بحرانی دور میں یہ  
 امداد غیب سمجھیں۔ اس سال آپ کو اپنے مالی معاملات پر بے حد توجہ دینی ہوگی لیکن  
 دین کے معاملات میں بے ربطی آپ کی عزت توقیر کو متاثر کر سکتی ہے چیک یا  
 تحریری معاہدوں سے گریز کریں۔

**مالی پوزیشن** جیسا کہ اوپر آپ کو بتایا جا چکا ہے اس سال 19 دسمبر تک  
 یعنی تقریباً سارا سال آپ کے خانہ مال کا حاکم مشتری ہیوط میں رہتے ہوئے آپ کی  
 مالی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اس حوالہ سے مشتری سے منسوب صدقات اور  
 سورہ شوریٰ آیت نمبر 19 روزانہ بعد از فجر ورد کرنا اپنا معمول رکھیں اسکے علاوہ  
 3 فروری تا 11 اپریل خانہ مال میں عطارد کا ہیوط اخراجات میں تیزی اور مالی  
 بے قاعدگیوں کا باعث بن سکتا ہے آپ کے لیے 2020 مالی طور پر خاصہ مشکل  
 ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "مال آپ کے امتحان کا حصہ ہے"۔

سنین بک ہوماعل طالع سکھر عزیز بک سٹال اندرون حرم گیٹ ملتان حسین بک ڈپو افضل مارکیٹ مین بازار علی پور محمد طلع کورنوالہ

قطع کوئی توقع نہیں رکھنی یہ پرودگار کی طرف سے آپ کے لیے ایک سبق ہے آپ اس پر توکل کریں ان شاء اللہ مایوس نہیں ہونگے۔ اس سال آپ کو زیادہ محنت کرنا ہوگی تاکہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو سکے۔

**بیرون ملک قیام، امیگریشن** اس سال آپ کے زائچے کے بارہویں گھر مشتری بہبوط زدہ رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا دے گا بیرون ملک عارضی یا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے اس حوالہ سے اس سال امیگریشن اپلائی کرنا بھی قطعی بہتر نہ ہوگا اس سال اپلائی کیے گے یا تو ریفوز ہو جائیں گے یا طویل عرصہ سرد خانہ میں پڑے رہیں گے مختلف قسم کے اعتراضات کی نظر ہو سکتے ہیں اس حوالہ سے کوئی بہتر روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال کثرت سے گرہن ہونگے جو کہ آپ کی زندگی پر خاصے گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں اس سال کے گرہن آپ کی صحت، ملازمت، ملازمین، شراکت داری، ازدواجی زندگی، دوست احباب، خواہشات، اولاد، تعلیم سے متعلقہ معاملات کو متاثر کر سکتے ہیں ان گرنوں کے دوران صدقہ اور نماز سکوف و خسوف ہر وقت ادا کر کے آپ پرودگار کی امان حاصل کر سکتے ہیں اس حوالہ سے مزید معلومات آپ کو جنتری کے شمسی و قمری گرنوں کے صفحات یا میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر بھی مل سکتی ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا پائونڈا گوشت اور 3 چمچ ہلدی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو دال دیں۔ ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ صبح و شام 9 مرتبہ دعائے رنجوست سیارگان ورد کریں مع اول و آخر 9-9 مرتبہ درود پاک

### بوج: حوت PISCES سیارہ: مشتری

رنگ:	سبز، بھورا، خاک
مکس:	آبی
جواہر:	زمرد، یاقوت
بہترین شریک حیات:	سرطان، عقرب
ناموافق ساتھی:	جوزا، سنبلہ، قوس

بیماریاں: امراض قلب، درد شانہ، مری، سٹن کی بیماریاں

دن: جمعرات ۳، ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۳۱  
حروف: ۲۰ Fer to 20 Mar

**اہم نکات** سال 2020 برج حوت والوں کے لیے خاص طور پر ایک اہم سال ہے زل کے زائچے کے گیارہویں گھر آجانے سے آپ کی ساڑھتی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ زل کی تین ڈھائی سالہ ادوار میں سے پہلا دور ہوگا کل دورانہ ساڑھے سات سال ہے۔

مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ اس سال یکم جنوری تا 19 فروری، 20 مئی تا 21 جون، 22 ستمبر تا 23 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر کے دورانیہ بہتر نہ ہونگے آپ کی ازدواجی، شراکتی زندگی خطرے میں ہوگی جبکہ 20 مارچ تا 19 مئی، 21 جون تا 21 ستمبر، 23 اکتوبر تا 20 دسمبر کے دورانیہ آپ کے لیے خاصے بہتر رہیں گے۔ آپ کو اپنے شراکتی، ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا ان ایام میں آپ کی شادی طے پائے گی اور اسی دوران آپ کو نئی شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔

**وراثت، مشرکہ مالی معاملات**، اس سال 16 جنوری تا 2 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر آپ کے مشترکہ مالی معاملات میں آپ کو بہتر منافع کا حصول ممکن ہوگا اس دورانیہ میں آپ کو حسب خواہش قرضہ مل سکے گا جو کہ اس سال آپ کے لیے از حد اہم ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات بوج بہبوط مشتری خاصے دیگر گوں ہونگے ان ایام میں آپ کے لیے وراثت کا حصول ممکن ہوگا سال کا باقی دورانیہ آپ کے موافق نہ ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات** بفضل تعالیٰ اس سال آپ کو حج و زیارات کا موقع مل سکتا ہے تمام ترمالی مشکلات کے باوجود اگر آپ نے ساڑھتی کامل جائے نماز سے حاصل کر لیا ہے تو یقیناً آپ کو یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے ساڑھتی کامل روحانیت میں ہے اس لیے آپ کو اس سال اس شعبہ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس سال بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع ملیں گے۔ اس سال 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر ویزہ اپلائی کرنے کے لیے بہترین اوقات ہیں انہیں نوٹ فرمائیں سال کا باقی دورانیہ میں اپلائی کیے گے ویزے وقت اور روپیہ کا ضیاع ہوگا

**معشیت، کرنیں، روزگار** اس سال 3 جنوری تا 31 مارچ، 28 جون تا آخر سال کا دورانیہ کاروباری معاملات کے حوالہ سے ان شاء اللہ بہتر گزرے گا اس دوران روزگار کے حوالے سے لیے گے فیصلے آپ کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہونگے ان شاء اللہ اس دوران ملازم پیشہ افراد کو بھی حسب خواہش ترقی مل سکتی ہے۔ 31 مارچ تا 27 جون آپ کو از حد محتاط رہنا ہوگا اس دوران آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اس دورانیہ کو تحمل اور بردباری سے گزاریں ان شاء اللہ 28 جون کے بعد حالات موافق ہونگے۔

**دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد** 2020 آپ کی خواہشات کی تکمیل کے حوالہ سے قطعی موافق نہ ہوگا مگر آپ ان حالات کو یقینی طور پر بہتر بنا سکتے ہیں مگر روحانی تدارک سے۔ اس سال آپ کو اپنی خواہشات کو دبانا ہوگا جیسا کہ پرودگار کا حکم ہے۔ ان شاء اللہ اس اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہوگی۔ اس سال آپ کو دوست احباب سے

یہ گریہن بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو لگ رہے ہیں ان ایام میں ہر وقت صدقات کی ادائیگی آپ کو ان شاء اللہ مشکلات سے دور رکھے گی، اس بارے میں مزید تفصیلات جنتری میں دیئے گئے الگ صفحہ سے دیکھ لیں۔ اس سال بے اولاد حضرات کو بالخصوص 21 جون تا 22 جولائی خوشخبری مل سکتی ہے۔ انعامی سیکموں کے شائق افراد کے لیے یوں تو تمام سال بہتر ہے مگر 21 جون تا 22 جولائی امکانات زیادہ ہونگے۔

**صحت، ملازمت، ملازمین** آپ کی صحت، ملازمت کے حوالے سے 2020 ایک مالا جلا سال ہے۔ آغاز سال 20 مارچ، 20 مئی تا 20 جون، 22 ستمبر تا 22 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی اسکے علاوہ یہ دورانیہ آپ کی ملازمت کے حوالے سے بھی بہتر نہ ہوگا آپ کی لگائی جاب ختم ہو سکتی ہے اس دوران خود سے جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں وگرنہ دوبارہ جاب ملنا مشکل ہوگی جبکہ 20 مارچ تا 19 اپریل، 21 جون تا 22 اگست آپ کے لیے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا۔ سال کا باقی دورانیہ میں ان شاء اللہ بہتر گزرے گا اور اس سال اول الذکر دورانیہ میں آپ کو ملازمین کی جانب سے پریشانی ہو سکتی ہے۔

**شادی، ازدواجی تعلقات، شراکت داری** اس سال آپ کا اپنا سیارہ منی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے ازدواجی تعلقات بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہوگا از حد محتاط رہیں۔ اس سال 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر ان شاء اللہ آپ کی شادی، نکاح طے پا جانے کے قوی امکانات ہونگے اس دوران آپ کو نئی شراکت داری کی آفر بھی مل سکتی ہے۔ پہلے سے شادی شدہ افراد کو بہتر ازدواجی ماحول میسر رہے گا۔ جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل بالخصوص اور 6 تا 26 ستمبر، 2 تا 20 دسمبر بالعموم آپ کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محتاط رہیں وگرنہ آپ کے مابین خدا نخواستہ علیحدگی ہو سکتی ہے اس دوران شادی، نکاح کرنا بہتر نہ ہوگا۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ** اس سال آپ کے شراکتی، وارثی معاملات حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر آپ کے معاملات حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہونگے اس دوران مشترکہ طور پر کام کرنے والے افراد کو بھی بہتر منافع کا حصول ہو سکتا ہے۔ سال کا باقی دورانیہ بہتر نہ ہوگا آپ کو از حد محتاط اور تحمل سے رہنا ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم** اس سال آپ کو بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع میسر رہیں گے۔ آغاز سال 31 مارچ و بڑھ وغیرہ ایلمانی کرنے کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ اعلیٰ تعلیمی

دوسرا بڑا سیارہ مشتری جو کہ آپ کے اپنے برج کا حاکم بھی ہے یہ 19 دسمبر تک بہت طویل رہے گا اور آپ کے شخصی وقار اور کیریئر روزگار کو انتہائی بڑی طرح متاثر کر رہا ہے ساڑھ سٹی کے آغاز سے پہلے ہی آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا ساڑھ سٹی کے بارے میں تفصیلی ویڈیو آپ میرے یوٹیوب چینل شیخ زوار رضا جاوید پر دیکھ سکتے ہیں۔

**شخصی وقار** جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے حوت افراد کو اس سال بوجہ بہت مشتری جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے اس کا بہت بڑا آپ کے عزت وقار کو مجروح کرنے کا باعث بن سکتا ہے جب آپ کا اپنا سیارہ گردان کی حالت میں ہوتا ہے تو لوگوں میں آپ کی مقبولیت کو متاثر کرتا ہے اسکے علاوہ 8 فروری تا 4 مارچ، 13 اکتوبر تا 27 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال آپ کے سماجی تعلقات بھی آپ کی مشکلات کا باعث ہونگے۔

**مالی پوزیشن** اس سال ابتداء سال 16 فروری بالعموم اور 16 فروری تا 31 مارچ بالخصوص آپ کی مالی پوزیشن خاصی بہتر رہے گی، خانہ مال کا حاکم مریخ شرف کے گھر رہتے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن کو مستحکم بنا رہا ہے۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ کی منفی پوزیشن آپ کو مالی طور پر کمزور کر سکتی ہے اس دوران 7 مارچ کو خانہ مال میں شمس کا شرف قدرے بہتری کا باعث بھی ہوگا اس طرح اس مشکل صورتحال میں قدرے بہتری متوقع ہے۔ 28 جون کے بعد حالات تیزی سے بہتر ہونگے۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر روپیہ پیسہ کی آمدورفت میں قدرے کمی آئے گی اور اخراجات میں تیزی سال کا باقی دورانیہ ان شاء اللہ بہتر گزرے گا۔

**عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر** آپ کے بیت الاقرباء کا حاکم زہرہ اس سال یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے عزیز واقارب کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے گا اس دوران آپ کو کسی ایک سفر کرنے کا موقع ملے گا اور حوت بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں کامیابیاں میسر رہیں گی جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کو محتاط روش سے گزارنا ہوگا۔

**گھر، خاندان، پراپرٹی** اس سال یکم تا 16 جنوری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 2 تا 20 دسمبر پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گھر کی تبدیلی کے لیے بہتر اوقات ہونگے۔ آپ کو گھر کا سکون میسر رہے گا خاندانی افراد کیساتھ سے تعلقات بفضل خدا بہتر رہیں گے۔ جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل، 6 تا 26 ستمبر، 2 تا 20 دسمبر کے دوران آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت سے قطعی گریز کرنا ہوگا اس دوران خاندان کے افراد کے ساتھ رنجش پیدا ہو سکتی ہے۔

**اولاد، انعامی بانڈ، لائٹری** 2020 گزشتہ کی نسبت یہ سال نظر آ رہا ہے گزشتہ سال مانجوس مریخ کے بہت بڑے آپ کو خاصہ متاثر کیا ہے اس سال

## ڈینگی فیور کا علاج

تعویذ امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے۔

خدائے رحمان و رحیم کے گیارہویں معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام نے کئی سو سال پہلے اس بخار کے علاج کا نسخہ دنیا کو عطا فرما دیا اس بخار کا علاج امام معصوم کے ایک تعویذ کے ذریعے سے ممکن ہے کئی مریض خدا کے فضل و کرم سے ناطق قرآن کے اس عطا کردہ تعویذ کے فیض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تعویذ اس طرح سے بتائیں کہ پہلے پاک و طاہر لباس ہو پھر با وضو ہو کر قبلہ رخ ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجیں اور پھر تعویذ تحریر کریں (یا فَاَرْكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِيْوَاهِنِيْم) الانبياء آیت ۶۹ تعویذ لکھنے کے بعد کالی ڈوری کے ذریعے یا کسی پاک کپڑے میں کر کے تعویذ مریض کے سر پر باندھ دیں اور مریض پر ستر مرتبہ سورہ الحمد صبح دو پہر رات تین وقت پڑھ کر دم کریں۔ صبح کے وقت صبح صادق میں جب روشنی نمودار ہو رہی ہو اور رات کا اندھیرا جا رہا ہو۔ دو پہر میں ٹھیک زوال آفتاب کے وقت اور رات میں یعنی ٹھیک مغربین کے وقت جب روشنی جا رہی ہو اور اندھیرا چھا رہا ہو۔ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد مریض کی شفا یابی کیلئے دعا کریں اور مریض کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سنائیں انشاء اللہ مریض بہت جلد شفا پائے گا اور بخار تو فوراً چھٹا چھوڑ دے گا۔ یہ تعویذ فی سبیل اللہ ہے جو مومن تعویذ بنانے میں وقت محسوس کریں وہ خاکسار سے فی سبیل اللہ تعویذ بنا سکتے ہیں۔

0345-2370324  
021-6673960  
السید شمس عباس جعفری

معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں ان ایام میں حوت کی حاملہ خواتین کو از حد احتیاط سے کام لینا ہوگا ہر وقت صدقات کی ادائیگی اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے آپ پروردگار کی امان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سال 6 گرہن ہونگے جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 21 جون، 5 جولائی، 30 نومبر اور 31 دسمبر کو ہونگے۔ گرہنوں کی مزید تفصیلات اور دورانیے جنتی میں الگ سے دیئے جاتے ہیں وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی اسکے علاوہ آپ میرے فیس بک یا یوٹیوب چینل شیخ زوار رضا جاو پر مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات 3 پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت اور 3 چمچے ہلدی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ بعد از نماز پنجگانہ دعائے رنجوست سیارگان 9 مرتبہ مع اول و آخر 9-9 مرتبہ درود پاک ورد کریں

مدارج حاصل کرنے والے افراد کے لیے یہ سال کا سب سے بہترین وقت ہے آپ کو زیارات مقدسہ اور حج کے لیے ویزہ اپلائی کرنے کا موقع مل سکتا۔ 31 مارچ تا 28 جون ایسی کسی بھی کوشش سے قطعی گریز کریں 28 جون کے بعد حالات ایک مرتبہ پھر موافق ہونگے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد اور بیرون ملک سفر اختیار کرنے والے افراد کو 10-10 ستمبر تا 14 نومبر قدرے مشکلات پیش آسکتی ہیں محتاط رہیں۔

**معشیت، کیرنر، روزگار، ترقی، تنزلی** اس سال آپ کو بہت زیادہ توجہ شخصی وقار کے بعد اور اپنے اسی شعبہ پر دینا ہوگی تمام سال مشتری ہو طو زردہ رہتے ہوئے آپ کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بننا رہے گا۔ بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ جبکہ مشتری رجعت میں ہوگا۔ آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ کا باعث بن سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو ضروری ہوگا اسکا روحانی تدارک کریں یہ تمام سال آپ کو بے حد محتاط رہنا ہوگا کسی بھی قسم کی نئی انوسمنٹ سے قطعی گریز کریں۔

**دوست احباب، خواہشات** جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے اس سال 19 دسمبر تک آپ کا اپنا حاکم سیارہ مشتری آپ کے زائچہ کے گیارہویں ہبوط کی حالت میں قیام کرے گا مشتری کا یہاں قیام دوست احباب کیساتھ تعلقات کو کشیدہ کر سکتا ہے۔ اس سال آپ کو اپنی خواہشات کو محدود رکھنا ہوگا ورنہ خواہشات کا شکستہ ہونا آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیں ہر چیز پر قادر ذات پروردگار کی ہے اس سے اپنا رابطہ بڑھا کر آپ تمام سیارگان کے منفی اثرات کو قطع کر سکتے ہیں۔ روزانہ دعائے رنجوست سیارگان اور درود پاک کثرت سے پڑھنا اپنا معمول بنا کر آپ اس صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔

**بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازش** 20 جنوری تا 19 فروری شمس زائچہ کے بارہویں رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا رہا ہے اس دوران امیگریشن اپلائی کرنا بہتر نہ ہوگا۔ 22 مارچ کو زحل کے بارہویں آجانے سے آپ کے بیرون ملک قیام میں درپیش رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا مگر اسکے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف خفیہ سازشوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل رجعت میں ہونے سے آپ کے بیرون ملک قیام میں قدرے مشکلات آسکتی ہیں اس دوران امیگریشن اپلائی نہ کرنا بہتر ہوگا اس دوران اپلائی نہ کرنا بہتر ہوگا اس دوران اپلائی کیے گے کیسز تا دیر پینڈنگ رہیں گے۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن آپ کے کیرئیر، روزگار، برابری، سواری، والدہ اور بچوں، منگنی سے متعلقہ

غلام کبریا

0092-300-5537074

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا مجرب نقش

عزیزان گرامی میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ امامیہ جنتری کیلئے ایسے عام فہم اعمال تحریر کروں جو نہ صرف عام شخص کی سمجھ میں آئیں بلکہ تمام مومنین، مومنات ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ طلاق کی آیت کا ایک مجرب ترین عمل تحریر کر رہا ہوں جو وسعت رزق، تسخیر خلق یعنی ایسے لوگ جن کا عوام سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ حصول عزت و حرمت، قید و بند کی صعوبتوں سے نجات، سحر جادو کے خاتمے، بچیوں کی شادی، حصول ملازمت و ویزہ الغرض حاجت کوئی بھی ہو ان اعمال کے کرنے سے نہ صرف حاجت پوری ہوگی بلکہ دلی سکون بھی میسر آئے گا۔

بعد اختتام عمل بے شک اسے چمڑے وغیرہ میں بند کروا سکتے ہیں۔ عزیزم من یہ نقش اور عمل ہمیشہ آپ کی ڈھال بنا رہے گا اس نقش کہ دل و جان سے ہمیشہ پاس رکھیں۔ اور بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ **غلام کبریا** 0092-300-5537074 دارالعملیات، محمد کالونی شیر شاہ سوری روڈ کنڈیاں ضلع میانوالی۔ (پنجاب)

قارئین کرام عروج ماہ نوچندی اتوار یا جمعرات کی شب بعد نماز عشاء ان اعمال کو شروع کریں کوشش کریں عمل شروع کرنے سے تین دن قبل آپ کی کوئی نماز قضاء نہ ہو۔ استغفار کا ورد ہر وقت زبان پر جاری رہے۔ با وضو قبلہ رخ وقت اور جگہ کی پابندی کرتے ہوئے عمل کی ابتداء کریں۔ اول آخر گیارہ بار درود شریف اور آخر میں آیت (رب انی مغلوب فانتصر) اور **ومن یتق الله... لکل شیء قدرا۔** 100,100 بار پڑھ کر سجدہ میں رکھ کر اپنے رب کریم سے گڑگڑا کر دعا کریں انشاء اللہ عمل کے ایام کی معیاد پوری نہیں ہوگی کہ مراد برآئے گی۔ سب سے قبل جمعرات یا اتوار بعد طلوع آفتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درج دونوں نقش کا غذ کے دونوں طرف اس طرح تحریر کریں۔ تاکہ کوئی لکیر یا خانہ ادھر ادھر نہ ہو۔ نقش آگے پیچھے تحریر کرنا ہے پہلے حرفی نقش پھر عددی نقش تحریر کرنا ہے۔ حرفی نقش کی طرح عددی نقش کے اضلاع کا پورا خیال رکھیں اور حرفی نقش کی طرح عددی نقش تحریر کریں۔ نقش تیار کرتے وقت قواعد کا پورا پورا خیال رہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم			
رب انی مغلوب فانتصر			
بسم	الرحمن	اللہ	الرحیم
الرحمن	الرحیم	بسم	اللہ
الرحیم	اللہ	الرحمن	بسم
اللہ	بسم	الرحیم	الرحمن

(یہاں مقصد تحریر کریں)

۲۰۲	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱

جب بعد نماز عشاء عمل کی نیت سے بیٹھیں تو باادب ہو کر اپنا مقدمہ اللہ پا ک کے حضور پیش کریں پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، گیارہ بار درود پاک، 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل مکمل کریں بعد ازاں سو بار آیت (رب انی مغلوب فانتصر) اور آیت "ومن یتق الله... لکل شیء قدرا" 100 بار اور گیارہ بار درود پاک پڑھ کر فوراً سجدہ میں رکھ کر گڑگڑا کر رب کریم سے اپنے لئے دعا کریں۔ یہ عمل 21 ایام کریں۔ یہ احقر آپ کو یقین دلاتا ہے کہ دین و دنیا کی کوئی بھی پریشانی آپ کا مقدر بن چکی ہے تو ان 21 ایام کے دوران ہمیشہ کیلئے دور چلی جائے گی۔ یاد رہے۔ کہ بعد اختتام عمل اپنے پاس رکھ لیا کریں 21 یوم تک اسے کسی چمڑے یا دھات وغیرہ میں بند نہ کروائیں


## فالنامہ چہارمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام

اس فالنامہ کو شروع کرنے سے پہلے خیال رہے کہ آپ با وضو ہوں۔ سب سے پہلے چودہ مرتبہ درود محمد آل محمد پر بھیجئے بعد ازاں دو مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ تین مرتبہ سورہ کوثر، تین مرتبہ سورہ عصر اور ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد پھر چودہ مرتبہ درود محمد آل محمد پر بھیجئے۔ پھر نقشہ ذیل میں اپنا سوال تلاش کریں۔

### نقشہ سوالات

۱ - میری مراد پوری ہوگی یا نہیں؟	۵ - میرے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں؟	۹ - ارادہ سفر میرے لئے مبارک ہوگا یا نہیں؟
۲ - میری مالی حالت اس وقت کیسی ہے؟	۶ - مریش کو صحت ہوگی یا نہیں؟	۱۰ - میرے کاروبار اور نوکری کی کیفیت کیا ہے؟
۳ - مجھے حصول علم میں کامیابی ہوگی یا نہیں؟	۷ - میری ازدواجی زندگی یا میری المیہ کیسی ہوگی؟	۱۱ - جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے، اُس میں فائدہ ہوگا یا نقصان؟
۴ - مجھے اپنے گھر کا آرام نصیب ہوگا یا نہیں؟	۸ - قرض کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟	۱۲ - مجھے موجودہ مشکلات میں غلبہ ہوگا یا شکست؟

### دائرہ اقدس



اپنا سوال تلاش کرنے کے بعد یہ آئیے مبارکہ "سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ط" کا ورد کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دائرہ اقدس پر انگشت شہادت رکھیں۔ جس خانے میں انگلی آئے وہاں سے خانہ معصومین کی طرف رجوع کریں؛ پس جس خانہ امام پر رجوع ختم ہو اسی امام پاک کے نقشہ جوابات میں اسی نمبر پر جواب پڑھ لیں جس نمبر کا آپ کا سوال ہے انشاء اللہ جواب صحیح ہوگا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

- ۱ - اے صاحب فال تیری مراد پوری ہوگی۔
- ۲ - زکوٰۃ دینے والے کی مالی حالت اچھی ہوگی۔
- ۳ - علم خدا کی دین ہے متقی پرہیزگار کو ملتا ہے۔
- ۴ - جس نے صلہ رحمی کیا اس کو گھر کا سکون ملا۔
- ۵ - تیرے گھر میں ایک چراغ جلنے والا ہے۔
- ۶ - مریض کو کھجی صحت حاصل ہوگی۔
- ۷ - تیرا گھر آباد ہوگا۔
- ۸ - خدا کی نصرت سے تیرا کام جلد ہوگا۔
- ۹ - سفر وسیلہ نظر ہے۔
- ۱۰ - خدا روزی رساں ہے۔
- ۱۱ - خیرات کر کے اسی میں برکت و منفعت ہے۔
- ۱۲ - غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔

حضرت امام علی ابن ابی طالب

- ۱ - اگر مراد چاہتے ہو تو پوری ہوگی۔
- ۲ - جس نے خیرات نہیں کی اس کی حالت کیا اچھی ہوگی۔
- ۳ - جس نے علم کا شوق کیا علم اُسے حاصل ہوا۔
- ۴ - کاش تو بیوی بچوں کا حق پہچانتا۔
- ۵ - اے صاحب فال تو صاحب اولاد ہوگا۔
- ۶ - مریض دیر سے صحت یاب ہوگا۔
- ۷ - اے صاحب فال نیک بیوی اللہ کی رحمت ہے۔
- ۸ - ادائیگی قرض میں تاخیر ہے۔
- ۹ - سفر میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔
- ۱۰ - اللہ روزی کا سبب جلد بنائے گا۔
- ۱۱ - ذہ در و دنیا و ستر در آخرت۔
- ۱۲ - خدا کو یاد کر تا کہ تو غالب ہو۔

جناب سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا

- ۱ - اپنے رب کو یاد کرو ہی تیری مراد پوری کرے گا۔
- ۲ - کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا کہ زردار ہو۔
- ۳ - کچھ دین کا علم حاصل کر کہ تجھے دنیا کا علم ملے۔
- ۴ - سختی برداشت کرنا اور گھر کا سکھ ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔
- ۵ - خدا تجھے اولاد کا سکھ دے گا۔
- ۶ - مریض کو جلد صحت نصیب ہوگی۔
- ۷ - رفیقہ حیات سے مہربانی کا سلوک کرو۔
- ۸ - قرض ذرا دیر سے ادا ہوگا۔
- ۹ - سفر میں نقصان کا اندیشہ ہے۔
- ۱۰ - تیری روزی وطن سے دور ہے۔
- ۱۱ - دیکھو اس کام کو جلدی کر دتا کہ فائدہ ہو۔
- ۱۲ - مفاہمت ہی تیرا غلبہ ہے۔

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام

- ۱ - صاحب فال تیری مراد اصلاً پوری ہوگی۔
- ۲ - تجھے اچانک کہیں سے مال ملے گا۔
- ۳ - علم تجھے ہرگز ہرگز حاصل نہ ہوگا۔
- ۴ - تیرا خانہ آباد ہوا چاہتا ہے۔
- ۵ - اولاد کا سکھ تیری قسمت میں نہیں ہے۔
- ۶ - مریض کو جلد صحت نصیب ہوگی۔
- ۷ - شادی خانہ آبادی میں ابھی کچھ دیر ہے۔
- ۸ - کوشش جاری رکھو۔
- ۹ - یہ سفر قطعاً منفعت بخش نہیں۔
- ۱۰ - تیرا روزگار جلدی لگنے والا ہے۔
- ۱۱ - اس کاروبار میں تجھے بہت نفع ہوگا۔
- ۱۲ - مفاہمت کر کہ تجھے شکست کا اندیشہ ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام

- ۱ - مراد پوری ہوگی لیکن ذرا دیر سے۔
- ۲ - دولت تجھے خود کمائی پڑے گی۔
- ۳ - تیرا تعلیمی درجہ بلند ہوگا۔
- ۴ - جب کہ تو گھر میں نہ رہا تو گھر کا سکھ کیسا۔
- ۵ - اولاد تیرے لئے باعث پریشانی ہے۔
- ۶ - مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔
- ۷ - نیک بیوی کا ملنا بہت مشکل ہے۔
- ۸ - قرض محبت کی قہنی ہے۔
- ۹ - سفر دور کا ہے لیکن نفع دے گا۔
- ۱۰ - تیرا بیڑا ہوا کاروبار درست ہو۔
- ۱۱ - نفع و نقصان برابر برابر ہو۔
- ۱۲ - تجھے مقابل پر غلبہ ہوگا۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

- ۱ - کسی مدد سے مراد پوری ہوگی۔
- ۲ - دولت وراثت میں ملے گی۔
- ۳ - علم کثیر حاصل ہو۔
- ۴ - گھر کا سکھ نہیں مل سکتا۔
- ۵ - اولاد دکھ کا باعث بنے۔
- ۶ - مریض کو جلد شفا حاصل ہو۔
- ۷ - شادی ہو کر تنازعہ پیدا ہو۔
- ۸ - مشکلات ہی مشکلات ہیں۔
- ۹ - سفر قطعاً نہ ہو سکے گا۔
- ۱۰ - بگڑے ہوئے کام دیر سے درست ہوں۔
- ۱۱ - نقصان عظیم ہوگا احتیاط لازمی ہے۔
- ۱۲ - مقابلے میں عزت اور جان کا خطرہ ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

- ۱ - غیب سے مدد حاصل ہوگی اور کام ہو جائے گا۔
- ۲ - مال ملے لیکن جلد خرچ ہو۔
- ۳ - تعلیم ختم ہو۔
- ۴ - کسی دوسرے گھر میں آباد ہو۔
- ۵ - اولاد صالح پیدا ہو۔
- ۶ - مرض معمولی ہے جلد صحت ہوگی۔
- ۷ - بیوی تلخ مزاج ملے گی۔
- ۸ - رسوائیاں ہوگی۔
- ۹ - سفر ملک غیر کا درپیش ہو۔
- ۱۰ - ترقی کی جگہ تنزلی ہو۔
- ۱۱ - کھجلی زکوٰۃ ادا کر تجھے عظیم فائدہ ہو۔
- ۱۲ - ایک مقدمہ باعث پریشانی ہو۔

حضرت امام علی رضاعلیہ السلام

- ۱ - نیک مراد پوری ہوگی۔
- ۲ - غیب سے خزانہ ملے۔
- ۳ - علم و حکمت میں یکنائے زمانہ ہو۔
- ۴ - گھر میں امن پیدا ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے۔
- ۵ - صاحب نصیب فرزند پیدا ہو۔
- ۶ - مریض علاج روحانی سے صحت یاب ہوگا۔
- ۷ - قسمت والی زوجہ ملے گی۔
- ۸ - بہت مشکل ہے۔
- ۹ - سفر میں کوئی بڑا آدمی ملاقاتی ہو۔
- ۱۰ - کاروبار بنے اور عزت حاصل ہو۔
- ۱۱ - یہ کام نفع کا ہے جلدی کرو۔
- ۱۲ - غلبہ صاحب فال کو ہوگا۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

- ۱ - شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے۔
- ۲ - مال و دولت کثیر ملے گی۔
- ۳ - خداتجھے عالم باعمل بنائے گا۔
- ۴ - گھر والوں کی محبت ہی گھر کا سکھ ہے۔
- ۵ - اولاد تیرا نام روشن کرے گی۔
- ۶ - صدقہ و خیرات کر کے تجھے صحت ہو۔
- ۷ - دائم المریض رفیقہ حیات ملے گی۔
- ۸ - قرض میں اضافہ ہو۔
- ۹ - سفر میں حصول زر و مال ہو۔
- ۱۰ - ترقی میں ابھی ذرا دیر ہے۔
- ۱۱ - شرکت میں تجھے نقصان ہوگا۔
- ۱۲ - قرآن تجھے مغلوب بنائیں گے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

- ۱ - مراد پوری نہیں ہو سکتی۔
- ۲ - مال باعث ابتلاء ہو۔
- ۳ - حصول علم میں مشکل واقع ہو۔
- ۴ - گھر کا سکھ کسی عدوئے جان نے خراب کیا ہے۔
- ۵ - اولاد حمل میں ضائع ہو۔
- ۶ - غلط علاج مریض کی جان لے گا۔
- ۷ - بیوی صاحب نصیب ہوگی۔
- ۸ - قرض کی خاطر جان جانے کا اندیشہ ہے۔
- ۹ - سفر میں چند رکاوٹیں ہوگی۔
- ۱۰ - ترقی رفتاً رک جائے گی۔
- ۱۱ - تیرے لئے شراکت میں فائدہ ہے۔
- ۱۲ - مصیبت میں اور اضافہ ہو۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

- ۱ - مراد سدا مبارک ہو کہ تیری مراد عنقریب پوری ہو۔
- ۲ - مالی معاملات میں پریشانیوں جلد دور ہوں۔
- ۳ - صاحب فال کے علمی مدارج میں ترقی ہوگی۔
- ۴ - گھر میں امن چین رہے گا۔
- ۵ - اولاد تہاری قسمت میں نہیں ہے۔
- ۶ - مریض کو طبیب روحانی سے صحت ملے گی۔
- ۷ - یہ شادی خانہ آبادی نہ ہوگی۔
- ۸ - کوششیں بار آور ہوں گی۔
- ۹ - سفر نمونہ سفر در پیش ہوگا۔
- ۱۰ - کارگزاری صدابہ صحرا ثابت ہوگی۔
- ۱۱ - اس بیوپار میں خوب نفع حاصل ہوگا۔
- ۱۲ - اس مہم میں فتح صاحب مال کی ہے۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام

- ۱ - محمد و آل محمد مرادوں کے پورے کرنے والے ہیں۔
- ۲ - دولت دنیا اندازہ سے زیادہ ملے گی۔
- ۳ - کوشش کرو کہ دنیاوی علوم حاصل ہوں۔
- ۴ - ماں کو خوش کر کے تیرا گھر آباد ہو۔
- ۵ - اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔
- ۶ - مرض جلد دور ہو جائے گا۔
- ۷ - زوج مریض و منحوس ہو۔
- ۸ - کوششوں میں کامیابی حاصل ہو۔
- ۹ - سفر بالا ارادہ ترک ہو۔
- ۱۰ - کاروبار میں ترقی ہو۔
- ۱۱ - نفع نقصان سے زیادہ ہو۔
- ۱۲ - ابھی مقدمہ جیتنے میں دیر ہے۔

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

- ۱ - اللہ تیری سب مرادیں پوری کرے گا۔
- ۲ - دولت جیسی آوے ویسی جاوے۔
- ۳ - صرف دینی علم حاصل ہو۔
- ۴ - گھر کا سکھ کسی کی مدد سے ملے گا۔
- ۵ - خوش نصیب بچی پیدا ہوگی۔
- ۶ - مریض چند دن کا مہمان ہے۔
- ۷ - زوجہ صاحب جاندا ہو۔
- ۸ - کوششیں رایگان چائیں گی۔
- ۹ - سفر زک نہیں سکتا۔
- ۱۰ - کاروبار ختم ہو کر عزت میں فرق آئے۔
- ۱۱ - اس میں نقصان ہوگا۔
- ۱۲ - تم یہ مقدمہ جیتو گے۔

حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام

- ۸ - کوششیں دیر سے کوئی نتیجہ برآمد کریں گی۔
- ۹ - سفر میں رکاوٹ ہوگی اور یہ اچھا ہے۔
- ۱۰ - خدا پر دھیان رکھو وہ مسبب الاسباب ہے۔
- ۱۱ - کسی کی بدعتی سے اس کام میں نقصان ہوگا۔
- ۱۲ - فتح حاصل ہوگی۔

حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام

- ۶ - مریض کو صحت یاب ہونے میں ابھی دیر ہے۔
- ۷ - یہ شادی خانہ آبادی ہے۔

حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام

- ۱ - تمہاری مراد کسی صنف نازک سے پوری ہو۔
- ۲ - مال و دولت خوب ہاتھ آئے۔
- ۳ - علوم روحانی و طبی میں ترقی ہو۔
- ۴ - گھر میں امن حاصل نہ ہو سکے گا۔
- ۵ - اولاد کثیر ہوگی۔



## احکامات ایام ہفتہ

**ہفتہ** شنبہ کی شب میں غذا ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جناب امام صادق آل محمد سے روایت ہے کہ جو شخص شنبہ یعنی ہفتہ اور یک شنبہ یعنی اتوار کی شب میں پیہم غذا کو ترک کرے تو اس سے ایک ایسی قوت زائل ہو جاتی ہے جو 40 دن تک واپس نہیں آتی۔

**اتوار** یک شنبہ کا دن اکثر کاموں کے لیے مہیا ہے لیکن مکان بنانے، درخت لگانے، کھیت میں بیج ڈالنے یا کھیت کو تیار کرنے کے لیے خوب ہے۔ دو شنبہ کا دن ایام ہفتہ میں اس بنا پر منحوس ترین دن ہے کہ اس روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دشمنوں نے اسی دن کو عید قرار دیا جو شخص اس دن کی نحوست سے محفوظ رہنا چاہے اسے چاہیے کہ نماز صبح کے بعد سورہ ہل اتی کی تلاوت کرے۔

**منگل** سہ شنبہ کا دن طلب حاجت کے لیے خوب ہے اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس دن لباس قطع کرنا منحوس ہے ایسے کپڑے عموماً چوری ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منگل کو قطع کیا ہو لباس پہننے والا اس لباس میں دریا یا سمندر میں ڈوبے گا۔

**بدھ** چہار شنبہ کا دن کسی بھی نئے کام کی ابتدا کرنے کے لیے خوب ہے اس دن درخت کی قلم لگانا، جسم سے فاضل اور فاسد خون نکلوانے کے لیے جو تک/شاخ لگوانا یا بلڈ بنک کو خون کا عطیہ دینا، مسہل لینا اور حجام جانا خوب ہے۔

**جمعرات** پنجشنبہ کا دن خط بنوانے، بال کٹوانے، ناخن کاٹنے اور نیا کپڑا قطع کرنے کے لیے بہت خوب ہے بعض روایات میں ہے کہ اس روز بیمار گردوا ترک کر دے تو شفا یاب ہوتا ہے اس روز قبور مومنین پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔

**جمعہ** حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے روز صدقہ دینا ہزار صدقہ کے برابر ہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہزار گنا ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ جمعہ کو مسجد جانا اور نماز ادا کرنا بھی ثواب کثیر کا موجب ہوتا ہے۔ نماز جمعہ سے قبل سفر کرنا مکروہ ہے۔

آیت الکرسی کو **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** تک جو شخص اپنے نام کے اعداد کے مطابق 40 روز پڑھے۔ اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ بزرگ علماء کا آزمودہ ہے۔

## نقوش ایام ہفتہ

از حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

روزانہ دیکھنے کے نقوش

روز اتوار	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

روز اتوار	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

روز اتوار	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

روز اتوار	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ	روز جمعہ	روز منگل	روز بدھ
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

**فہرست اسلامی کتب 2019-2020**

**ملنے کا پتہ:** افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور **042-37223686**

**نوٹ:** کتاب کی اصل قیمت وہی ہوگی جو آڈر سلائی کے وقت مارکیٹ میں ہوگی۔ آڈر کی مکمل رقم ڈاک خرچ بذریعہ مٹی آڈر یا بینک ڈرافٹ روانہ کریں۔ یا وہی منگوانے کے لئے 1/2 رقم پیشگی روانہ کریں۔ اپنا پیسہ SMS کریں۔

Email: iftikharbookdepot@gmail.com, web: www.iftikharbookdepot.com

**قرآن مجید مترجم و تفسیر**

**نور القرآن**

قرآن مجید مترجم مولانا فرمان علی، علامہ ذیشان جوادی مولانا شیخ محسن علی نجفی، علامہ علی تقی، مختلف کاغذ و پائینڈنگ۔ مطبوعہ عمران کمپنی، چاند کمپنی، مصباح القرآن ثاقب کمپنی، نیاز کمپنی قرآن مجید معرا و سپارہ سیٹ پاک کمپنی، چاند کمپنی، تاج کمپنی، قدرت اللہ کمپنی، عمران کمپنی تفسیر القرآن: از مولانا ظفر حسن امروہوی 5 جلدیں 2000/-

نور القرآن قرآنی جہوں کے ساتھ، تلفظ و با محاورہ ترجمہ (تدوین مولانا یوسف علقین) 3 جلد فی جلد 1500/-  
ظہور القرآن (4 ترے) 600/-  
قرآن پاک (ترجمہ مولانا تمیز الحسنین) 1200/-

**سوانح سیرت - تواریخ**

تفسیر نمونہ 15 جلدیں فی جلد 700/- سیٹہ 10500/-  
تفسیر عمدۃ الایمان 5 جلدیں 3000/-  
تفسیر فصل الخطاب (علامہ علی تقی) 3 جلدیں 3000/-  
پیام قرآن (مکارم شیرازی) 10 جلد 5000/-  
تفسیر موضوعی (جعفر سبحانی) 12 جلد، سیٹ 4500/-  
میزان الفتوح 8 جلد کلاں (محمد ری شیری) 5000/-  
تفسیر نور الثقلین (9 جلدیں فی جلد) 700/-  
تفسیر صافی، (فیض کاشانی) 7 جلدیں 4750/-  
المیزان (آیت اللہ طباطبائی) 5 جلدیں 6000/-  
قرآن مجید کا پیام رحمت (آیت اللہ انصاری) 600/-  
تعلیم القرآن (مولانا ظہیر حسن زبیدی) 800/-  
تفسیر الکوثر (شیخ محسن نجفی) 10 جلدیں 7000/-  
تفصیل القرآن (مولانا ظفر حسن امروہوی) 700/-  
مجمع الایات (مولانا ظفر حسن امروہوی) 700/-

سیرت امیر المومنین (مفتی جعفر حسین) 1020/-  
سیرت النبی (7 جلدیں) (شبلی نعمانی) 2500/-  
سیرت رسول 4 جلدیں (مولانا ظفر حسن) 1250/-  
سیرتین ان اسلام (تحقیق 25 مصنفین) 500/-  
سیرت النبی (ابن ہشام) 1200/-  
سیرت مصطفیٰ (ہاشم معروف حسنی) 500/-  
سیرت النبی (آقائے جعفر سبحانی) 700/-  
سیرت سید الشہداء (عماد الدین امصہانی) 2 جلد 1000/-  
تذکرۃ الاطہار (شیخ مفید) 600/-  
احسن المقال (شیخ عباس قمی) اوّل 800/-  
احسن المقال (شیخ عباس قمی) دوّم 800/-  
تاریخ القرآن (ترجمہ سید انوار بکگرمی) 650/-  
سیرت اسماء بیبت (ہاشم معروف) 2 جلدیں 1450/-  
فقوش عصمت (علامہ ذیشان جوادی) 700/-  
کوکب ذری فی فضائل علی (اہل سنت مصنف) 550/-  
الصرراط السوی فی احوال مہدی 550/-  
ملاقات امام (مولانا سید محمد مجتہد) 450/-  
ملاقات بیامام زمان (حسن اعلیٰ) 2 جلد 750/-  
مجمع الفضائل (مناقب شہر آشوب) 950/-  
بحار الانوار (علامہ مجلسی) 12 جلدیں 5000/-  
القاروق (شبلی نعمانی) 420/-  
سیرۃ طاہرہ الزہراء (آغا سلطان مرزا) 400/-

- 650/- سیرت محمد (علامہ نصیر اجتہادی)
- 800/- علی کی بیٹی (ڈاکٹر علی قاسمی)
- 700/- ارجح المطالب (عبد اللہ امرتسری)
- 300/- شہدائے کربلا (علامہ علی تقی)
- 400/- مختار آل محمد (نجم الحسن کراروی)
- 350/- ذکر العباس (نجم الحسن کراروی)
- 350/- قصص الانبیاء و آئمہ (عزاد ارتقوی)
- مصرعہ طور (قیامت کی پیشگوئیاں) (علی گھوانی) (زیر طبع)
- 250/- انوار امامت و قیامت (مقدس اردبیلی)
- 700/- تاریخ اسلام (نجم الحسن کراروی)
- 450/- علی کی بیٹی (مظلومہ کربلا)
- 300/- حسین ابن علی (جشن افضل حیدر)
- 400/- تاریخ اسلام (علامہ علی تقی)
- 300/- ذکر قاطمہ (جشن افضل حیدر)
- 1200/- تاریخ یعقوبی 2 جلدیں
- 3000/- تاریخ میں سفر (آغا میر حسین)
- 480/- تاریخ تشیع (مولانا حسین محمد جعفری)
- 400/- تاریخ فقہ جعفری (ہاشم معروف حسنی)
- 5500/- تاریخ ابن خلدون (12 جلدیں)
- 5000/- تاریخ طبری (7 جلدیں)
- 550/- تاریخ نبی پاکدامن مولف: محمد بخش قریشی
- 2900/- تاریخ طبقات ابن سعد (3 جلدیں)
- 2000/- تاریخ فرشتہ 2 جلدیں
- 6000/- تاریخ ابن کثیر (9 جلدیں)
- 550/- تاریخ اخطفاء (جلال الدین سیوطی)
- 500/- المائدہ (تالیف: علامہ مدائے ظفر علی)
- 1500/- پند تاریخ (موسیٰ خسروی) (5 جلدیں)
- 500/- انتخاب طبری (مولانا صفدر حسین)
- 450/- الصواعق المحرقة (برق سوزاں)

**خطبات - احادیث**

- 1600/- نبی الفصاحت (خطبات رسول اکرم)
- 900/-, 700/- نبی البلاغہ (مفتی جعفر حسین)

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-10splaystore

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

☆ صحیح البلاغہ (مفتی جعفر حسین) اعلیٰ کاغذ - 1200/-	☆ زینت العابدین - منتخب نمازوں کا مجموعہ - 105/-	☆ دعائے کبیر (پاک) - 30/	☆ جشن کبیر (پاک) - 120/-
☆ صحیح البلاغہ (ذیشان حیدر جوادی) - 900/-	☆ کنز الحسین (ترجمہ) علی حسین شاہ - 500/-	☆ اسرارناوعلی (مہد علی ہروی) - 50/-	
☆ صحیح البلاغہ (انگریزی) - 800/-	☆ نقش سلیمانی - 300/-	☆ صحیفہ نماز (مہد علی ہروی) - 450/-	☆ سنی نافذ نمازیں - 300/-
☆ صحیح ست (احادیث) - 2700/-	☆ اقبال علی انسا نیگلو پیڈیا (ہفت شالی) - 500/-	☆ زیارت چہارہ مصومین پاک - 120/-	☆ وظائف ناوعلی - 45/-
☆ صحیح البخاری - 3200/-	☆ تحفہ پنجین پاک (الیاس عادل) - 800/-	☆ استخارہ سجادیہ (امام زین العابدین) - 75/-	
☆ جامع ترمذی - 1800/-	☆ برکات ام اعظم (ڈاکٹر سخاوت سندرالوی) - 500/-	☆ مکمل کساء توسل (آرٹ بیج) - 140/-	
☆ سنن ابن ماجہ - 1900/-	☆ آفتاب جفر (امام غلام عباس اعوان) - 250/-	☆ زیارت نادیہ - (آرٹ بیج) - 90/-	☆ وسیلہ النجات - 50/-
☆ مشکوٰۃ شریف - 2000/-	☆ مجرب عملیات و تعویذات (ایوب بشوی) - 300/-	☆ دعائے ندیہ (آرٹ بیج) - 120/-	☆ ذریعہ النجات - 100/-
☆ احادیث - 680/-	☆ تمام مشکلات کا حل (ایوب بشوی) - 250/-	☆ منتخب دعائیں امام زین العابدین (آرٹ بیج) - 100/-	
☆ مسائل الشرعیہ ترجمہ وسائل الشیعہ 20 جلدیں (ترجمہ) - 1125/-	☆ تحفہ قلندری 2 جلدیں - 400/-	☆ دعائے نور پاک مع ناوعلی مصغیر کبیر (آرٹ بیج) - 60/-	
☆ مولانا محمد حسین فاضل فی جلد - 350/-	☆ شمع شبستان 3 جلدیں - 400/-	☆ وظائف الصالحین 2 جلدیں - 220/-	
☆ تحفہ الابرار ترجمہ جامع الاخبار مولانا مظہر حسن امرہوی - 300/-	☆ شمس المعارف - 680/-	☆ مشکل کشا - 100/-	☆ پاک (آرٹ بیج) - 100/-
☆ تہذیب الاسلام ترجمہ علیہ اصحیح (علامہ حنفی) اعلیٰ کاغذ - 750/-	☆ تحفہ مشکل کشا - 500/-	☆ دعائے کبیر، حدیث کساء، توسل یکجا - 75/-	
☆ جہل حدیث (آیہ اللہ تعالیٰ) اعلیٰ کاغذ - 1000/-	☆ شمع شبستان رضا مکمل 2 جلدیں - 600/-	☆ تصانیف آیت اللہ مرعشی مطہری - 300/-	
☆ عروج السعاده (ترجمہ) معراج السعاده - 700/-	☆ عملیات کتب از عابد عسکری - 600/-	☆ فلسفہ شہادت - 60/-	
☆ فقہ وظائف عملیات - 600/-	☆ جادو شکن - 350/-	☆ انسان کامل - 400/-	☆ سیر و سلوک - 200/-
☆ تحفہ العوام مقبول جدید (مولانا سید مظہر نقوی مرحوم) - 1200/-	☆ جنات کی دنیا - 300/-	☆ انظار امام - 60/-	☆ مقالات مطہری - 120/-
☆ عام کاغذ - 700/-	☆ عملیات رزق - 325/-	☆ مقل مطہری - 400/-	☆ حج - 300/-
☆ تحفہ نماز جعفریہ (مردہ مولانا سید محمد حسین معالی مرحوم) - 300/-	☆ برکات ام اعظم (عابد عسکری) - 325/-	☆ اسلام اور کائنات - 800/-	☆ فطرت - 200/-
☆ وظائف مقبول شمیم (ترجمہ مولانا مقبول احمد مرحوم) - 250/-	☆ دعائوں کے مجموعے - 650/-	☆ سیرت آل محمد - 250/-	☆ فلسفہ حجاب - 200/-
☆ تعقیبات نماز (مردہ مولانا امجد علی) - 90/-	☆ وظائف الابرار عام - 300/-	☆ جاذبہ ودافع علی - 80/-	☆ سیرت نبوی - 150/-
☆ نماز جعفریہ (انگریزی) (ترجمہ مظہر اقبال) - 250/-	☆ صحیفہ کاملہ (امام زین العابدین) - 500/-	☆ اسلامی علوم کا تعارف - 375/-	☆ اسلام میں قیمتی تربیت - 160/-
☆ تعقیبات نماز پاک مع حدیث کساء دعائے توسل مع ترجمہ - 480/-	☆ صحیفہ امام حسین - 480/-	☆ معنوی آزادی - 75/-	☆ عدل الہی - 225/-
☆ آرٹ بیج (رنگین طباعت) - 135/-	☆ صحیفہ زہرا - 480/-	☆ طہارت روح - 300/-	☆ عبادت مہراز - 600/-
☆ مشکوٰۃ (ڈاکٹر سخاوت سندرالوی) - 1000/-	☆ صحیفہ علویہ (حضرت علی علیہ السلام) - 700/-	☆ مقام ولایت - 70/-	☆ سخن - 600/-
☆ تحفہ درویش (ڈاکٹر سخاوت سندرالوی) - 1050/-	☆ آئینہ حقوق (ترجمہ حقوق امام زین العابدین) - 660/-	☆ توبہ کیا ہے - 50/-	☆ ختم نبوت - 40/-
☆ توحیح المسائل (آقائے سید تانی) - 400/-	☆ نعیم الاعمال پاک آرٹ بیج - 265/-	☆ تصانیف علامہ شیخ صدوق - 200/-	
☆ توحیح المسائل (آقائے خامدانی) (سفید کاغذ) - 500/-	☆ سفینۃ النجات پاک آرٹ بیج - 150/-	☆ توحید - 450/-	☆ فضائل الشیعہ - 100/-
☆ توحیح المسائل (آقائے شمیم) - 480/-	☆ زاد آخرت (آرٹ بیج) - 225/-	☆ من لا یحضر الفقیہ (سید) - 1400/-	☆ امامی (2 جلد) - 1400/-
☆ توحیح المسائل (آقائے حافظ شیر مجتہد) - 400/-	☆ تسکین روح عام - 175/-	☆ معانی الاخبار - 500/-	☆ نسیم بہشت - 700/-
☆ ذخیرہ عملیات - 275/-	☆ گوہر یگانہ (امام زین العابدین) - 450/-	☆ خصال - 600/-	☆ ثواب الاعمال - 650/-
☆ دعائیہ خزینہ - 180/-	☆ ہدیہ عصمت (پاک) - 80/-	☆ عیون اخبار رضا (سید) - 1500/-	☆ منہ بھد کون - 150/-
☆ قرآنی عملیات (2 جلدیں) محمد تقی صفہانی - 600/-	☆ مجموعہ وظائف پاک مع کور - 175/-	☆ علل شراعی - 1000/-	☆ کمال الدین - 500/-
☆ کلید عملیات (مولانا ہرکت علی کوشش) - 300/-	☆ نماز جعفریہ یا تصویر عام - 60/-	☆ فلسفہ نصیبت مہدی - 250/-	
☆ مجربات گوشہ نشین (مولانا ہرکت علی کوشش) - 60/-	☆ صحیفہ کاملہ سجادیہ (علامہ ذیشان جوادی) - 750/-	☆ امامت و ولایت - 200/-	

تصانیف آیت اللہ مستغیب	تصانیف علامہ تظہیر زیدی	تصانیف علامہ اختر نقوی کی تصانیف
☆ زندگانی حضرت زینب الزہراء سلام اللہ علیہا 180/-	☆ ضد انسانیت 175/- ☆ تعلیم الاخلاق 600/-	☆ ریاض الاحزان آقائے ترویجی (زیر طبع)
☆ سید الشہداء 225/- ☆ مہدی موعود 150/-	☆ راہ ہدایت 500/- ☆ اوصاف الہی 200/-	☆ قلب قرآن از آیت اللہ مستغیب 225/-
☆ قلب قرآن 225/- ☆ درس اخلاق 150/-	☆ گلدستہ اخلاق 225/- ☆ ارکان انسانیت 200/-	☆ انوار زہرا آقائے حسن اعلیٰ 450/-
☆ بہشت 500/- ☆ سورہ حجرات 275/-	☆ علامہ صائم چشتی (الہست) کی تصانیف	☆ عالم عجیب ارواح آقائے حسن اعلیٰ 400/-
☆ گناہان کبیرہ (2 جلد) 1500/- ☆ معاد 150/-	☆ ایمان ابوطالب (2 جلد) 900/- ☆ روضہ الشہداء 800/-	☆ عفت ابوطالب 250/- ☆ تاریخ شیعہ 200/-
☆ زندگانی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا 450/-	☆ شہید ابن شہید (2 جلد) 800/-	☆ اسلام پر حضرت علی کے احسانات 250/-
☆ ولایت 300/- ☆ نصاب 200/-	☆ مشکل کشا 900/- ☆ البقول 380/-	☆ علم زندگی ہے 300/- ☆ شہزادہ علی اصغر 800/-
☆ تفسیر سورہ حدید 235/- ☆ توبہ 70/-	☆ تصانیف مولانا فرمان علی نجفی	☆ حیات طیبہ حضرت علی اکبر (رحمۃ اللہ علیہ) 2000/-
☆ امامت 75/- ☆ معراج 350/-	☆ ازاد و امی زندگی کا اسلوب 450/-	☆ زیارت ناحیہ مقدسہ 150/-
☆ کفکول اول 300/- ☆ کفکول دوم 450/-	☆ قطرے سے گہر ہونے تک 345/-	☆ حضرت عقیل 300/- ☆ اصحاب امیر المومنین 800/-
☆ استعاذ 120/- ☆ توحید 250/-	☆ اف تک نہ کہو 300/-	☆ حضرت میثم تمار 400/-
☆ ہدیہ الشیعہ 750/- ☆ گھر ایک جنت 500/-	☆ مطبوعات ولی العصر ٹرسٹ	☆ حیات امام حسین 300/-
☆ جواب حاضر ہے 400/- ☆ قلب سلیم 1500/-	☆ عزاداری از دید گاہ مرجعیت (زیر طبع)	☆ دو ہزار صدی کی کہانی 300/-
☆ شرح چہل حدیث 900/-	☆ معالی السطین 2 جلدیں 1350/-	☆ معصومین کا علم لسانیات 300/-
☆ شرح چہل حدیث 900/-	☆ مہدی فی القرآن از آقائے صادق حسن 225/-	☆ سیرت معصومین 300/- ☆ اون ضمیر 300/-
☆ انسان کی شناخت 900/-	☆ عدل الہی 450/-	☆ زندگانی حضرت زینب (انگریزی) 250/-
☆ تعلیم و تربیت 900/-	☆ آداب الصلوٰۃ 900/-	☆ صبح الاحزان از آقائے محمد علی یزدی 300/-
☆ کتب آقائے بہجت	☆ مصلح غیبی از آقائے حسن اعلیٰ 300/-	☆ اردو غزل اور کربلا 200/- ☆ ضمیر حیات 1000/-
☆ رحمت واسع 300/-	☆ منادی توحید 300/-	☆ انیس خطبات 300/- ☆ حضرت حنفیہ 800/-
☆ گوہر حکیمانہ 300/-	☆ نصیحتیں 300/-	☆ اصحاب حسین 800/- ☆ خیمہ سادات 300/-
☆ عرفان بہجت 300/-	☆ آئینہ حقیقت 300/-	☆ معجزہ اور قرآن 300/- ☆ عفت صحابہ 200/-
☆ درمختصر بہجت اول 300/-	☆ دوم 300/-	☆ امام اور امت 200/- ☆ ولایت علی 300/-
☆ کتب ابراہیم امینی	☆ ریاض القدس (فضائل و مصائب) 2 جلدیں 1650/-	☆ حضرت علی میدان جنگ میں 300/-
☆ اسلام کی مثالی خاتون 300/-	☆ آئین تربیت 300/-	☆ احسان اور ایمان 200/- ☆ حضرت جعفر طیار 300/-
☆ خود سازی 300/-	☆ خاندان کا اخلاق 300/-	☆ سیرۃ فاطمہ الزہراء (رنگین) 700/-
☆ تصانیف علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی	☆ مدنیہ اکسہ (فضائل و مصائب) 3 جلدیں 450/-	☆ سیرۃ فاطمہ الزہراء (رنگین) 700/-
☆ تاریخ کربلا علی 1000/-	☆ شہزادہ عبد العظیم 300/-	☆ شہزادہ قاسم کی مہندی 500/- ☆ حضرت ام المومنین 400/-
☆ خلافت انس و مومن 1000/-	☆ تاریخ ذوالفقار 500/-	☆ عفت امام جعفر صادق 200/- ☆ تاریخ شیعہ 200/-
☆ عون و حمہ 400/-	☆ زندگانی شہزادی ام کلثوم 400/-	☆ عفت امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت 200/-
☆ زندگانی سید سجاد 1000/-	☆ تاریخ مشہد مقدس 500/-	☆ امام حسن علیہ السلام کی فتح 200/-
☆ تاریخ نجف اشرف 550/-	☆ تاریخ کاظمین 250/-	☆ ذوالجناح 600/- ☆ ظہور امام مہدی 200/-
☆ آفا سحر و رضا خاکی (مرحوم) کا کلام	☆ مظلوم مکر بلانی تاریخ زینب کبریٰ (دبھیہ) 450/-	☆ شہید علمائے حق (حالات زندگی) 200/-
☆ کیف غم 60/-	☆ معلوم مجہدے 50/-	☆ شعرائے اردو اور مشق علی 500/-
☆ معراج سخن 40/-	☆ لب کوثر 30/-	☆ معصوموں کا ستارہ شہزادہ علی اصغر 300/-

Imamia Jantri Official By Ifkhar Book Depot . Download from Googleplay -IOSplaystore

کتب حدیث خوانی (مجالس)	تصانیف اکثر علی شریعتی	600/- (جلد 2)
ہذا خیرۃ المجالس (علا کرام کی تقاریر) 4 جلدیں/900	☆فاطمہ فاطمہ ہے-300 مسلمان عورت -60	☆میر انیس محشیت ماہر حیوانات
1400/- ہندو آیات عزرا 2 جلدیں	☆انسان، اسلام اور مغربی مکاتب فکر -100	☆شہزادہ قاسم اول -500 ☆ دوئم
☆ہمصائب کربلا تالیف علامہ عابد عسکری -500	☆ہندو نجات دہندہ -45 ہاں دوست ایسا ہی تھا۔-30	☆حضرت شہر بانو -400 ☆ ذوالفقار
☆ہمراہ عزاداری (مولانا اسماعیل دیوبندی) -500	☆ہندو مستقبل کی تاریخ -30 تشریح -500	☆میر انیس (انگریزی)
☆ہمراہ خواتین (از مولانا ظفر امروہوی) -250	☆ہندو سماج کی درس گاہ دعا -200	☆ہندو دن اور راتیں
☆ہندو الابرار (تقریر مولانا علامہ حسین سائیلوالی) 2 جلدیں/2000	☆ہندو مت و امامت -200 حسین و ارث آدم -120	☆حضرت علی اکبر (رگین آرٹ بھیج)
☆ہندو مجموعہ مجالس (تقریر مولانا سید محمد جعفر شہید) 3 جلدیں/1050	☆ہندو دیان کی پرکھ -300 علی شریعتی قید حیات -500	☆حسینی معاشرہ اور تاریخ انبیاء
☆ہندو کفایت الواعظین (تقریر علامہ منافق کلاکت حسین) -400	☆کھوپا ہوا آدمی -450 علی اک دیو بالائی جج	☆حضرت غدھیجہ الکبریٰ
☆ہندو نصیرت افروز مجالس (مولانا حسین حسن جارجی) -120	☆کھوپا ہوا آدمی -450 علی اک دیو بالائی جج	☆فک قانون کی روشنی میں
☆ہندو گوہر غم (مجالس ذاکرہ خدیجہ فاطمہ مرحومہ) -225	☆کھوپا ہوا آدمی -450 علی اک دیو بالائی جج	☆حیات حضرت عباس -300 ☆ محسنین اسلام -300
☆ہندو سلام اور عزاداری (مجالس علامہ طاہر جردولی) -120	☆علامہ خضر عباس تونسوی	☆شہزادی زینب کبریٰ اور تاریخ شام
☆ہندو صحابہ المجالس (از مولانا ظفر امروہوی) 5 جلدیں/1600	☆حقیقت بیت اللہ -300 حقیقت تسبیح -250	☆ہندو اقوام عالم اور عزاداری حسین
☆ہندو توحیح عزرا -500 ☆ خطبات شیخ الجامعہ -265	☆حقیقت ذوالفقار -200 اسرار کبریا -250	☆معراج خطبات 5 حصے
☆ہندو گلزار خطبات (علامہ حسین بخش جاڑا) -265	☆تسکین قلب حسین -250 لعاب محمد -250	☆قحطان حسین کا انجام -250 بیت جناب اور بت تراش -300
☆ہندو مصائب نامہ -300 معراج خطبات -700	☆حروف مقطعات -300	☆حضرت ام کلثوم -600 ☆ کواکب ذریعہ -200
☆مدینہ سے مدینہ تک (سید محمد جوادی رحمنی) -600	☆کتب حج و زیارات	☆حیات طیبہ شہزادی زینب (رگین آرٹ بھیج) -2000
☆نسیم المجالس (علامہ نسیم عباس) 2 جلدیں -400	☆زاد سفر -120	☆قرآن کی تفسیر -250 ☆ دبستان ناخ -700
☆خطبات نسیم (علامہ نسیم عباس) -250	☆عمرہ مفردہ -100	☆احساس (علی، ادنی مضامین)
☆اولی الامر کون؟ (علامہ نسیم عباس) -275	☆زاد سفر -480	☆اردو مرثیہ پاکستان میں
☆شام فریاد سے ابھی مدینہ -450	☆زاد سفر -480	☆خانم میر انیس کے نامور شعرا
☆توضیح العزرا (سید عباس ارشد نقوی) -200	☆زاد سفر -480	☆شاعر اعظم میر انیس 500 ☆ علی وسیدہ نجات -300
☆کائنات کے وارث (علامہ غفر طوسی) -200	☆زاد سفر -480	☆معارف الہی اور سیرت مصوین
☆خطبات فاتح کیکسلا (علامہ بشیر انصاری) -200	☆زاد سفر -480	☆علی وارث انبیاء -300 ☆ انسان اور حیوان -300
☆مجالس سیدہ کائنات -250 خطبات نسیم -185	☆زاد سفر -480	☆عورت اور اسلام -300 ☆ کلام نصیر -300
☆خطبات محسن (حسن نقوی شہید) 2 جلدیں -500	☆زاد سفر -480	☆مولانا مرزا اظہر لکھنؤ
☆خطیب آل محمد (مولانا اظہر حسن زیدی) -550	☆زاد سفر -480	☆حسین وارث انبیاء -200 خدیجہ کے بلاک -150
☆تبیح البلاغہ تفسیر قرآن (علامہ شہنشاہ نقوی) -250	☆زاد سفر -480	☆اسلام کے دو چہرے -150 حسین قرظہ مصطفیٰ -90
☆مجالس مصطفیٰ (علامہ مصطفیٰ جوہر) -500	☆زاد سفر -480	☆تاریخ اسلام -150 حق کونہ چھپاؤ -225
☆مقتل ابوف (ابن طاووس) -500	☆زاد سفر -480	☆تقاریر علامہ عقیل الغروی
☆مقتل مقرر (المقرر الموسوی) -500	☆زاد سفر -480	☆مقام ختم نبوت اور انسان
☆مقتل آل ابوطالب (ابوالفرج اصفہانی) -500	☆زاد سفر -480	☆ولایت حق اور امام حسین -135 ☆ دعا -145
☆خلاصہ المصائب (مرزا محمد ہادی) -500	☆زاد سفر -480	☆حسن اختیار -135 ☆ فلسفہ معراج -145
☆سعادات الدارین فی مقتل الحسین -500	☆زاد سفر -480	☆ولایت عظمیٰ -165 ☆ علم و ارادہ -160
☆نسیم الابرار (2 جلدیں) فی جلد -1000	☆زاد سفر -480	☆مجالس الغروی -140 ☆ آئینہ قضا و قدر -175

تقاریر علامہ حسن ظفر نقوی	مطبوعات اثاب پبلی کیشنز لاہور	سوز خوانی، مرتبے
☆ علم معصوم - 200/- امامت و ملوکیت - 200/-	☆ شراخ الاسلام ترجمہ جامع الجفری 1000/-	☆ بستہ (سید عطر) عام کاغذ - 600/- آرٹ پیپر 800/-
☆ امیر مختار - 200/- امیر مختار (انگریزی) - 200/-	☆ شمرات الحیات 2 جلدیں 1200/-	☆ عرفان غم - 350/- خون جگر - 60/-
☆ امامت و ملوکیت (انگریزی) - 300/- غزوات رسول - 300/-	☆ دعویٰ السعاده ترجمہ معراج السعاده 700/-	☆ شمشیر غم اول دوئم 750/-
☆ سیرت امام زین العابدین 200/-	☆ تاریخ المطالب سیرت مولائے کائنات 700/-	☆ تویر غم اول 275/- دوئم 325/-
☆ تاریخ کعبہ 250/- تاریخ کعبہ (انگریزی) - 250/-	☆ الخصال (انگلیش) 1000/-	☆ نوائے غم (قیر حسین قیر شہدی) - 250/-
☆ حکمرانوں کی صفات - 200/- کربلا بعد کربلا - 200/-	☆ الارشاد (انگلیش) 600/-	☆ جوش کے مرے - 200/- چشم غم - 250/-
☆ تصنیف علامہ حسن عسکری نقوی (ایران)	☆ بیخ الفصاحت (انگلیش) 500/-	☆ اشک غم - 120/- نوائے کربلا - 250/-
☆ موج البرکاء - 350/- صراط مستقیم - 200/-	☆ وظائف الابرار (انگلیش) 350/-	☆ بیاض علی صندر (2 جلدیں) - 450/-
☆ ہادی اور ہدایت - 150/- مجالس حسینہ - 250/-	☆ منتخب مفتاح (انگلیش) 550/-	☆ جواہر انیس - 600/- جواہر دبیر - 600/-
☆ شیطان کی پیمان - 250/- راس الحسین - 250/-	☆ مجرب تعویذات و عملیات 300/-	☆ ایک آنسو میں کربلا اول - 250/- دوئم - 300/- سوئم - 300/-
☆ مہتمم مقدس امیر المؤمنین 450/-	☆ تمام مشکلات کا حل قرآن سے 250/-	☆ سوئم - 200/- انیس کے مرے (تاریخوار)
☆ تقاریر علامہ صادق حسن	☆ غرر الحکم (اقوال مولائے علی) 1200/-	☆ محشر خاموش (انرسماں زیدی کا مجموعہ کلام) - 200/-
☆ قبر میں کام آنے والی نیکیاں 200/-	☆ Essense of Shia faith - 700/-	☆ نیم امروہی کے مرے (مرتبہ ہلال نقوی) - 800/-
☆ ولایت اہلبیت اور اسکے تقاضے 450/-	☆ تہذیب نفس - 700/-	☆ جوش کے انقلابی مرے - 800/-
☆ معرفت اسلام اور اسکے تقاضے 135/-	☆ گفتار روشن - 300/- آداب اسلامی - 450/-	☆ بیاض تسکین زنب - اول - 125/- دوئم - 125/-
☆ امام زمانہ اور ہمارا کردار - 200/- تربیت اولاد - 300/-	☆ انھین (علامہ علی) 300/-	☆ بزم رثا (بزم آفتدی کے مرے) - 500/-
☆ کربلا، امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں 250/-	☆ مطبوعات پیغام وحدت اسلامی کراچی	☆ رثا بی ادب - 1500/- ہلال نقوی کے مرے - 200/-
☆ فلسفہ زیارت اور مقام زائر 200/-	☆ گھر کو جنت بنانے کے چودہ نئے 90/-	☆ سامان شفاعت - 200/- غم چادواں - 200/-
☆ تزکیہ نفس - 300/- غدیری اسلام - 300/-	☆ جہتہا و تہذیب پر اعتراضات کا تجزیہ 120/-	☆ شمشیر غم اول - 350/- جلد دوم - 400/-
☆ حسین شہید ولایت - 300/- نبی کی بیٹی - 300/-	☆ ہوسیت نامہ کیے لکھا جائے 120/-	☆ مرے کی تالیب آوازیں (ہلال نقوی) - 400/-
☆ تقاریر علامہ حفیظ تصدق حسین	☆ طول عمر اور وسعت رزق کے سو مجرب نئے 100/-	☆ فتاح فرات - 150/- سماں (مرے) - 150/-
☆ زیارت وارثہ - 300/- اختیار ید اللہ - 300/-	☆ کردار سازی اول - 60/- کردار سازی دوئم - 60/-	☆ مرزا دبیر کے مرے زندگی و شاعری - 800/-
☆ معرفت محمد و آل محمد 300/-	☆ معرفت امام زمانہ - 45/- آئینہ - 60/-	☆ سوز کربلا 2 جلدیں - 650/-
☆ اللہ کیا ہے 14 معصومین کیا ہیں 200/-	☆ نبی اللہ کی رحمت - 50/- ثواب وضو - 45/-	☆ ارمغان نسیم (مرے) - 650/-
☆ شاعر اہلبیت طاہر ناصر علی کا کلام	☆ امراض روحانی - 45/- دوستی - 75/-	☆ حروف ناطق (شاعر آل عمران) - 150/-
☆ ہنماز عشق (نعت، منقبت و سلام) 300/-	☆ دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل 150/-	☆ نوائے نجف (ریحان اعظمی) - 300/-
☆ ہنماز رخن - 200/- کتب سلونی - 200/-	☆ بعد میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے 60/-	☆ سند اعتبار (مجموعہ نعت، منقبت و سلام) - 300/-
☆ کربلا سفر میں ہے - 150/- عطائے آل عبا - 300/-	☆ محبت دین ہے، دین محبت ہے 75/-	☆ خاندان میرا نہیں کے نامور شعراء - 500/-
☆ ہرزق مودت - 150/- تشریحی - 150/-	☆ تربیت اولاد کے سہری اصول 140/-	☆ میرا نہیں کھل 3 جلدیں - 7500/-
☆ محسن نقوی شہید کا کلام	☆ ترک گناہ کے چالیس طریقے 100/-	☆ اردو مرثیہ پاکستان میں - 500/-
☆ میراث حسن - 1200/- حق الیما - 500/-	☆ حرام گاہ (بد نظری کے قصصات) 75/-	☆ خاندان میرا نہیں کے نامور شعراء - 500/-
☆ ہمنوع اور اک - 450/- فرات فکر - 500/-	☆ مرض حب دنیا (علامات اور علاج) 75/-	☆ دیوان ابوطالب (آرٹ پیپر) - 1400/-
☆ شوکت رضا شوکت کا کلام	☆ سامان سفر آخرت 80/-	☆ اقبال بارگاہ عصمت و طہارت میں - 500/-
☆ دی ولایت سرگوشی جبریل مشک الہام (زیر طبع) 80/-	☆ مرض تکبر - 80/- صدقہ - 80/-	☆ میرا نہیں کے حالات زندگی و شاعری - 800/-

جامع تعلیمات اسلامی کی مطبوعات	محمد علی بک ڈپو کراچی	ادارہ منہاج الصحاح لاہور
☆ مصباح المؤمنین - 350/ کتب رسول - 400/	☆ گھر ایک جنت - 750/ ☆ معراج - 400/	☆ تصانیف آیت اللہ کاظم قزوینی
☆ اسلام دین معاشرت - 250/ کتب اسلام - 300/	☆ جواب حاضر ہے - 400/ ☆ مہدی برحق - 400/	☆ امام علی ولادت تا شہادت - 500/
☆ گفتار عاشورہ - 200/ ☆ اسلام دین حکمت - 700/	☆ کمیت الاحرار - 400/ ☆ دلچسپ مکالمے - 101/	☆ حضرت فاطمہ طلع تا غروب - 800/
☆ اسلام دین معرفت - 300/ ☆ حکایات القرآن - 300/	☆ ظہور امام کی قریب ترین نشانیاں - 250/	☆ امام جعفر صادق ولادت تا شہادت - 825/
☆ فلسفہ مجرہ - 200/ ☆ فلسفہ حجاب - 300/	☆ کنگول دستگیر (2 جلدیں) - 750/	☆ امام مہدی ولادت تا ظہور - 450/
☆ فلسفہ ولایت - 250/ ☆ فلسفہ احکام - 250/	☆ ہوس اخلاق - 250/ ☆ مثالی ماں - 60/	☆ زینب الکبریٰ ولادت تا شہادت - 325/
☆ تاریخ عاشورہ - 300/ ☆ بنائے کربلا - 250/	☆ ہدیہ الشیعہ - 900/ ☆ تحفہ المؤمنین - 120/	☆ امام تقی ولادت تا شہادت - 400/
☆ انسان کامل - 400/ ☆ مقتل مطہر - 400/	☆ انسان ساز واقعات اول - 250/	☆ امام حسین عیسائی محقق کی نظر میں - 500/
☆ بہلول دانا - 100/ ☆ حیات پختن - 500/	☆ انسان ساز واقعات دوم - 280/ سوئم - 250/	☆ مناقب اہلبیت 4 جلدیں - 2000/
☆ اسلامی قانون سزا - 200/ ☆ اسلامی داستانیں - 350/	☆ کیفر گناہان کبیرہ اول - 150/ ☆ دوم - 225/	☆ معجزات آل محمد (مدینہ المنورہ) 4 جلدیں - 2000/
☆ سخن - 600/ ☆ ابوطالب مظلوم تاریخ - 225/	☆ قلب سلیم (2 جلدیں) - 1500/	☆ شہیم ولایت (جواد آملی) - 400/
☆ تاریخ فقہ جعفری - 400/ ☆ کتب تشیع - 200/	☆ گناہان کبیرہ (2 جلدیں) - 1500/	☆ فضائل اہلبیت ترجمہ قائمہ المرام 3 جلدیں - 1500/
☆ اسلامی عقائد (علامہ مفضل عسکری) - 300/	☆ ہر زمانے حقیقت (آیت اللہ جعفر سبحانی) 2 جلدیں - 1000/	☆ اقوال علی 2 جلدیں - 800/
☆ سیرت مصطفیٰ (ہاشم معروف حسنی) - 700/	☆ ہنوولہادین از دوامی مسائل - 600/	☆ مدینہ سے شام تک (رحمہ امجد) 3 جلدیں - 1500/
☆ سیرت آئمہ اہلبیت (ہاشم معروف حسنی) 4 جلدیں - 1400/	☆ بہلول ثانی اور جابر حکمران - 350/	☆ عرفان ابوطالب (آقا کے مظہر عباس) - 600/
☆ اخلاقی و روحانی نشوونما (سیدتیجی موسوی) - 200/	☆ بیاض علی صفدر 2 جلدیں فی جلد - 250/	☆ سلوٹی قبل ان تقدرونی 2 جلدیں - 1000/
☆ تفسیر سورہ حجرات (آیت اللہ مستغنیب) - 500/	☆ سبق آموز واقعات 2 جلدیں - 500/	☆ مولائے کائنات کے فیصلے (ذمہ دار حسین علی) - 450/
☆ محرمات اسلام (حجت الاسلام محمد حسینی بہارانی) - 600/	☆ آخرت ساز واقعات - 250/	☆ انسائیکلو پیڈیا امام علی 2 جلدیں فی جلد - 700/
☆ تصوف و تشیع کا فرق (ہاشم معروف حسنی) - 600/	☆ توبہ اور تاریخی واقعات - 300/	☆ اسلام اور کائنات (مرقس مطہری) - 800/
☆ سیر وسلوک (شہید مرتضیٰ مطہری و طباطبائی) - 200/	☆ تحفہ الصائمین - 450/ کیا میں اچھا استاد ہوں - 100/	☆ انسائیکلو پیڈیا امام حسین فی جلد - 700/
☆ علوم القرآن (حجت الاسلام سید ریاض العظیم) - 350/	☆ خصائص القرآن (36 سورے) - 300/	☆ رسالات کا شجرہ طیبہ (منشی نزاکت حسین) - 425/
☆ علوم حدیث کا تعارف (حجت الاسلام علی حسینی) - 300/	☆ باپ کی بیٹی کو صحبت - 250/	☆ اصحاب مہدی (ہاشم بحرانی) - 300/
☆ اسلام اور اخلاق - 200/ حیات انسان کے 6 حصے - 250/	☆ اعمال ماہ رمضان (علامہ میثاق جوادی) - 500/	☆ بیان المصاب (علامہ صادق حسن) - 300/
☆ اسلامی اخلاق - 350/ ☆ دین و زندگی - 250/	☆ اعمال رجب، شعبان، رمضان - 180/	☆ نامہ امام علی بنام مالک اشتر - 400/
☆ تفسیر نور (نساء فرقان، حجرات) حسن قرآنی - 400/	☆ پھرنے سے پہلے مرنے کے بعد - 120/	☆ قصص الانبیاء (تاریخ اسلام) - 700/
☆ تفسیر نور (ماکدہ، توبہ، اسراء، دہر) حسن قرآنی - 400/	☆ کنگول زیدی (اول، دوم، سوئم) فی جلد - 250/	☆ علی کی جنگیں - 350/ مشکوٰۃ الانوار - 500/
☆ قرآن کتاب جاوداں (حجۃ الاسلام محمد علی ایازی) - 350/	☆ کیا آپ جانتے ہیں - 300/	☆ مدینہ سے شام تک 3 جلدیں - 1500/
☆ قرآن اور معاصر تفسیر (حجۃ الاسلام محمد علی ایازی) - 225/	☆ کونکائف اسمائے الحسنی - 150/	☆ تہذیب نفس یا اخلاق علی - 400/
☆ مناسبات قرآن (حجۃ الاسلام محمد علی ایازی) - 400/	☆ تحفہ نجات (گولڈن جلد) - 450/	☆ احسن الجوابات 3 جلدیں - 600/
☆ علی اسوہ وحدت (علامہ جواد شری) - 800/	☆ تحفہ راہ آخرت (اعمال مغفرت مرحومین) - 300/	☆ جمال خضر - 900/ خصائص عباس علمدار - 425/
☆ تعلیم القرآن - 150/ تجوید القرآن - 200/	☆ حضرت فاطمہ الزہراء کے 9 آسمانی نام - 300/	☆ سوال عوام کے جواب امام کے 14 حصے - 400/
☆ حکایات روایات - 350/ اسلامی مذاہب - 250/	☆ شرح حدیث کسا (علی فضل قلی) - 300/	☆ تعلیمات اہلبیت - 400/
☆ علی مظہر کبریا - 600/ عوالم و شرح عوالم - 150/	☆ ہدیہ یارت چہارہ مصومین - 120/	☆ اقوال پختن - 300/
☆ پاسدران اسلام (علامہ محمد حسین طباطبائی) - 250/	☆ پندرہ تاریخ 5 جلدیں - 1600/	☆ موت کے بعد کیا ہوگا - 300/

کتاب مصائب مقتل	
☆ شہید انسانیت (علامہ علی نقی) 400/-	☆ مقتل ابی مخنف 600/- مقتل ابووف 300/-
☆ رہنمایان اسلام (علامہ علی نقی) 120/-	☆ آفتاب ولایت (امیرالمؤمنین سراج) 250/-
☆ 1572 سوالات و جوابات 450/-	☆ فلسفہ نصیبت مہدی (شیخ صدوق) 300/-
☆ ترکہ رسول و جان رسول (کرامت علی شاہ) 350/-	☆ امامت و ولایت (شیخ صدوق) 300/-
☆ دیوان حضرت علی (اہلسنت مصنف) 1000/-	☆ شہدائے کربلا (علامہ علی نقی) 200/-
☆ علی منظر کبریا (فضل اللہ کھانی) 600/-	☆ شجرہ سادات (جلداول) (سید محمد عباس عابدی) 800/-
☆ قرآن اور شہزادی فاطمہ الزہرا 250/-	☆ خصوصیات و فوائد قرآن (سید تیز حسین) 250/-
☆ مواعظ حسنہ (علامہ علی نقی) 350/-	☆ عاشقان خدا (غلام رضا مختاری) 800/-
☆ سعادت الدارین فی مقتل حسین 800/-	☆ انسان عدالت الہیہ کے روبرو 200/-
☆ عقائد و نظریات (آیت اللہ سید محمد باقر موسوی) 300/-	☆ آسانی فصیحین 200/- گفتار اہلبیت 500/-
☆ فضائل علی اہلسنت کی روشنی میں (باقر موسوی) 600/-	☆ فضائل نامہ (علامہ حسین بخش جاڑا) 350/-
☆ سید اکبر سوانح امام حسن 300/-	☆ اصول عقائد (ناصر مکارم شیرازی) 275/-
☆ امام علم و عرفان امام جعفر صادق 350/-	☆ خلافت و ملکیت (مولانا مودودی) 400/-
☆ حکمت پارے (سید عابد علی) 400/-	☆ ولایت علی (سید امین زہدی) 500/-
☆ نور ولایت (سید محمد ہاشم ہاشمی) 200/-	☆ تاریخ حسین (مقتل ابووف کا ترجمہ) 90/-
☆ صحیفہ کربلا 700/- خاک کربلا 300/-	☆ فہم دین (مولانا محمد علی راشدی) 100/-
☆ مدنیہ المرید 200/- غریب طوس 165/-	☆ آئینہ حقوق: امام زین العابدین 1000/-
☆ نماز، زکوٰۃ، خمس 200/- خطبہ غدیر 125/-	☆ نوجوانوں کے جنسی مسائل (علی نقی) 660/-
☆ متعہ اور اسلام (علامہ علی نقی) 150/-	☆ شیعت کا مقدمہ 450/- پاکٹ 300/-
☆ لوائح الاحزان (مولانا سید محمد مہدی) 1000/-	☆ احسن العقائد (علامہ علی نقی) 300/-
☆ لوائح الاشجان (الشیخ محسن الامین العالی) 540/-	☆ صحیفہ دعا ترجمہ عدۃ الداعی (علامہ علی نقی) 340/-
☆ الانوار الامیہ (شرح زیارت جامع کبیر) 520/-	☆ توحید الائمہ (مولانا سید محمد ہارون ذکی پوری مرحوم) 300/-
☆ شرح زیارت جامع کبیر 250/-	☆ برزخ کا سفر نامہ (نعت اللہ سامی) 300/-
☆ راس الحسین علامہ حسن عسکری (ایران) 250/-	☆ امام مہدی موجود موعود 300/-
☆ حقیقت معجزہ (سید سلیمان علی نقوی) 230/-	☆ دعا اور اہلبیت (آیت اللہ مہدی آصفی) 350/-
☆ الشاعر حسین (سید حسن حسین شیرازی) 200/-	☆ مرثیہ پر اعتراضات کا تنقیدی جائزہ 200/-
☆ تجلیات ولایت (سید محمد نجفی یزدی) 560/-	☆ جواہر الاسرار فی مناقب ائمتہ الاطہار 350/-
☆ الایام حسینیہ (علامہ جعفر سوہتری) 230/-	☆ ظہور امام مہدی قریب تر ہے (رعایتی) 100/-
☆ رسائل علامہ طباطبائی (محمد حسین طباطبائی) 380/-	☆ مشکل کشائے عالم (مولانا نعل حسین) 100/-
☆ الدرۃ الباہرہ (سید سلیمان علی نقوی) 190/-	☆ علوم و حدیث کا ارتقاء 350/-
☆ زیارت درنگاہ اہلبیت (محمد علی حسین زاہد) 330/-	☆ تہذیب زندگی (از مولانا شہنشاہ نقوی) 350/-
☆ اصول تفسیر قرآن (آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی) 640/-	☆ بصرۃ الدرجات اول 600/-
☆ شہادت عظمیٰ (یوعلی شاہ زیدی) 900/-	☆ بصرۃ الدرجات حصہ دوم 750/-
☆ زینب عالیہ (علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل) 300/-	☆ علم کی اہمیت 135/- تجلیات حکمت 500/-
☆ زیور آل محمد (شرح صحیفہ سجادیہ) 3 جلدیں 2700/-	☆ خدا شناسی (ڈاکٹر محمد جواد باہر شہید) 300/-
☆ پرواز در ملکوت (آیت اللہ موسوی) 400/-	☆ بیانات مصطفیٰ (آیت اللہ محمد صالح المنجد) 500/-

Imamia Jantri Official By Ifikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore





ہر روحانی و جسمانی  
مسائل کا حل

# الفاطمی استخارہ سنٹر اینڈ جمیز سنٹون

**کینسر سپیشلسٹ** آپریشن مت کروائیں۔ بلڈ کینسر، ہون کینسر، چیٹ کینسر۔ ہر طرح کے کینسر کا مکمل شرطیہ تجرب علاج

**2 ماہ کی دوانی سے شافی شنا** بتوفیق الہی بفضل آل محمد بظہیر حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام و جناب لہابہ خاتون سلام اللہ علیہا

**نوٹ ہر قسم کے قیمتی و نیم قیمتی جواہرات دستیاب ہیں**

فیروزہ عقیق نیلم زمرد پکھراج مرجان درنجف اوپل بیرا زبرجد سنگ حدید

تمام امراض کاپتھروں سے علاج شوگر۔ بلڈ پریشر دل، فالج، اعصابی کمزوری، نامردی، بانجھ پن  
زنانہ و مردانہ، نظر کی کمزوری، معدہ جگر، رعشہ

مومنین کے لیے ایران کا خالص شہد چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، اور زیتون کا خالص تیل بھی دستیاب ہے

**ہرز جواد اللہ کی انگوٹھی:** ہر آنے کشائش رزق، بخت کشائی، آفات و بلیات سے حفاظت

اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک مرتبہ مشورہ ضرور کریں۔ پردہ دار مستورات گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کروائیں۔

0300-4072011, 0333-6885171

آغا حیدر عباس رضا الفاطمی

## انجمن وظیفہ سادات و مومنین

ہر سال پاکستان میں مستحق طلباء و طالبات کو 2 کروڑ سے زائد  
تعلیمی وظائف جاری کیے جاتے ہیں۔ مخیر حضرات نرس، صدقات،  
فطرہ اور چندہ کی مدد میں مالی معاونت کر سکتے ہیں۔

سید ضیاء حیدر رضوی (جنرل سیکرٹری)

042-37353117, 042-37353740

مرکزی دفتر و فین روڈ لاہور

ادارہ خیر العمل  
برائے مرحومین  
اسلام پورہ

اپنے مرحومین کے ایصال ثواب  
کے لیے اجتماعی مجلس عزائمیں  
شرکت کے لیے رابطہ کریں

مبارز نقوی

0322-3841554

## روحانی علاج

دافع جادو اور

استخارہ

کے لیے رجوع فرمائیں۔

علامہ سید حسن عباس

نقوی (فاضل نم)

0324-4492812 03214917305

## کاروان کربلا و شام پاکستان لاہور

عرصہ 39 سال سے زائرین کی خدمت میں رواں دواں  
پروگرام زیارات مقامات مقدسہ 2020ء

عمرہ، ایران، عراق، شام  
بانی روڈ، بانی انیسٹا، اللہ

پہلا قافلہ: ربیع الثانی عمرہ، ایران، عراق انشاء اللہ

دوسرا قافلہ: رجب ایران، عراق، شام انشاء اللہ

تیسرا قافلہ: شعبان ایران، عراق انشاء اللہ

چوتھا قافلہ: رمضان ایران، عراق انشاء اللہ

پانچواں قافلہ: محرم الحرام ایران، عراق انشاء اللہ

دستاویزات: اصل پاسپورٹ، 2 عدد نوکائی شناختی کارڈ، 10 عدد تکمیل نو ٹو بیک گراؤڈ سفید  
نوٹ: ہر بیک پیج کی آدھی رقم دستاویزات کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہے

قافلہ مار سید دائم محمد مجتبیٰ پسر سید محمد زمان حیدر ترمذی  
شاخ نمبر 10 اندرون کربلا کاسٹ شاہین ون بھائی کیت لاہور

0301-4513272  
0306-7974225  
0345-7955935  
0301-4045441



## تمام مشکلات کے حل کے لیے

۱۱۰  
۹۲-۱۱۰

<b>لوح مشرق</b> فراخی رزق، انعامی بانڈ کا چانس، مال و دولت، تسخیر خلق، مالی پریشانی ختم ہوگی، غائبانہ طور پر دولت ملے گی۔	<b>7 الواح کا مکمل سیٹ</b> زحل، مشتری، عطارد، قمر، مریخ، زہرہ، شمس، کی الواح کا مکمل سیٹ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔	<b>لوح اسم اعظم</b> لوح اسم اعظم ہر جائز مقصد کے میں 40 دن میں کامیابی ملے گی۔ حفظ و امان، تحفظ ہر شے کا، حصول علم، ترقی، تسخیر خلق
<b>لوح زحل عدد 8 کی نحوست ختم ہوگی</b> برج قوس، جدی، دلو والے ساڑھتی کا شکار ہیں شدید مشکلات میں ہیں قوس کی ساڑھتی ختم ہونے والی ہے اور نحوست مشتری والے ساڑھتی میں آنے والے ہیں آج ہی اپنے نام کی لوح زحل بنوائیں۔	<b>سحر جادو بندش آسیب سایہ دفع کرنے کا کورس</b> جادو شکن تلوار، لوح 40 بتیاں تحفظ + لاکٹ نا علی جلانے کے لیے 40 بتیاں 40 پینے کے تعویذ۔ مکمل کورس حاصل کریں۔	<b>لوح صراط علی حق نسک</b> نگیر جگری سے تیار شدہ بہت ہی اعلیٰ نقش جس سے ہر کام میں کامیابی نصیب ہوگی، آزمودہ شدہ ہے۔ حصول کل مقاصد۔

**لوح فاطمہ** جن بیٹے، بیٹیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں۔ یہ لوح منگو کر پرس میں رکھیں۔

تمام الواح قرآن پاک کی آیات سے تیار شدہ ہیں۔ اعتماد کے ساتھ حاصل کریں۔ اپنے نام کا اسم اعظم اور اپنے برج کے صدقات فون کر کے مفت پوچھ سکتے ہیں۔ ہر اشرف ملاقات کے لیے ہر انگریزی ماہ کی 8 تاریخ کو ملتان، 9 کولہ ہور، 10 کوراو لینڈی، 11 کوفیل آباد، 22-21 کوکراچی آنے سے پہلے فون کر کے ایڈریس پوچھ لیں۔ ہر ملاقات کی کوئی فیس نہیں ہے ہر قسم کی بیماری اور ذہنی سکون کے لیے 40 نقش + لوح شفا + 5 تعویذ جوابی لفافہ رجسٹری والا بھجوا کر ہم سے فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ ہر عرصہ 15 سال سے عوام ان نقش سے فیض یاب ہورے ہیں۔

0312-7807248 0300-7807248

مکان نمبر 140، اول سٹار کالونی، نزد بازار، اسلام آباد

www.humaliwalayazar.com

## SOLAR PLEXUS

سے پیچیدہ امراض کا علاج فی سبیل اللہ

دل کے بندوال 14 دن	ڈپریشن 3 دن
گونگا و بھرہ پن	لیور کینسر 35 دن
بریست کینسر 35 دن	فالج لقوہ 7 دن
جوڑوں کے درد 7 دن	زبان کی لکنت 7 دن
مرگی / مالیخوریا 5 دن	آنزم 2 ماہ

نیز آسیبی و سحری اثرات سے دماغی پریشانی

اسد علی شیرازی 0331-6518802, 0305-8032138  
مکان نمبر 430/240 سٹریٹ نمبر عثمان محلہ منڈوم آباد چوکی امر سدھولا ہور کینٹ  
ہر ماہ کی قیمت 15 لاکھ اور 16 سے 28 اسلام آباد

## خوشخبری

**طلسماتی انگوٹھی** ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ کے نام کا نقش اور سورہ یسین دم کر کے فیروزہ، یمنی عقیق، پکھراج، نیلم، مرجان، یاقوت، زمرد، درنجف، اوپل، زبرجد پر تیار کی ہے۔ ان شاء اللہ جو بھی یہ انگوٹھی پہنے گا اسکے تمام بگڑے کام خدا کے فضل سے بن جائیں گے۔ پسند کی شادی، میاں بیوی میں محبت۔ یاد رکھیں سورہ یسین قرآن پاک کا دل ہے۔  
**مشری دولت کا ستارہ** یہ نیک وقت عظیم تحفہ ہے اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ فکر و افلاس میں پھنسا رہتا ہو۔ قرضدار ہو، ہر کام میں رکاوٹ بندش ہو۔ وہ شخص اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے دوستوں کے لیے یہ لوح ضرور حاصل کریں اپنی قسمت کو جگا سکیں  
**صوفی علی مراد** مکان نمبر 920 سٹریٹ نمبر 1 محلہ مدنی کالونی  
0333-3092826  
گر کیس مائی پور روڈ کراچی  
0307-3990983

# لیکچر یا حسین

## کاروان سائر شہدا

جید علماء کی زیر نگرانی

**فروری کا تیسرا ہفتہ**  
ایام فاطمہؑ (ایران، عراق)  
ایام فاطمہؑ (ایران)  
پتہ: لاہور

**عمرہ، ایران، عراق**  
(عراق)، (ایران، عراق)  
دسمبر، بچوں کی چھٹیوں میں  
پتہ: لاہور

**عمرہ**  
دسمبر، جنوری، فروری، مارچ  
اپریل، مئی، جون  
پتہ: لاہور

**یوم عاشور کربلا میں**  
پرچم کشائی روضہ امام حسینؑ  
(ایران، عراق، شام)  
پتہ: لاہور

**شہادت مولا علیؑ سرکار**  
21 رمضان نجف اشرف  
عراق میں  
پتہ: لاہور

**13 رجب مکہ میں**  
3، 4 شعبان کربلا میں  
15 شعبان کربلا میں  
پتہ: لاہور

**دسمبر 2019/2020 ایران، عراق**  
(عمرہ، ایران، عراق)  
(ایران، عراق، شام)  
پتہ: لاہور

**اربعین کربلا میں**  
(عمرہ، ایران، عراق)  
(ایران، عراق، شام)  
پتہ: لاہور

**یوم عرفہ کربلا میں**  
(ایران، عراق)  
(عراق)  
پتہ: لاہور

**ایڈوانس بکنگ**  
عاشورہ، اربعین جنوری 2020 ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔  
**بصیر ڈسکا ٹونٹ**  
16 ایڈوانس بکنگ پر پیر ڈسکا ٹونٹ حاصل کریں۔

**عاشورہ، اربعین**  
وزیر کی دشواری سے بچنے کے لئے عاشورہ اور اربعین کی بکنگ تین سے چار ماہ پہلے کریں۔

**جون اور جولائی بچوں کی چھٹیوں میں سپیشل پروگرام**  
خصوصی حرکت موزہ اسپرٹ ایڈوانس بکنگ (غلبہ جان سہوگن آہا)  
مہرف لاد ٹونٹ سپر گروٹونٹ بکنگ (کوئی لین ری امام کار)

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore

www.humaliwalayazar.com

پاسران: شیخ علی جوہر کربلائی 0321-7146146 شیخ علی گوہر کربلائی 0321-7001243 محمد زائد کربلائی 0336-4455248

**میجر بیورو سروسز**  
سادات نامہ انور اشرف علی ناموں کے بچے اور بچوں کے موزوں ترین شہتوں کے لئے بھی رہا کریں۔ شمالی علاقہ ہاتھ مری، ہان، کاکان، سوات، آزاد کشمیر کے لئے رہائش، مکان، ہوٹل، مارکیٹ اور تمام موزوں سروسز دستیاب ہے۔

**ٹورزم سروسز**  
سالانہ حضرات ایران، عراق، شام کی ٹکٹ، ویزہ، فرانسپورٹ، ہوٹل وغیرہ کی سروسز موزوں نرخوں پر حاصل کریں۔

سب ملکر دعا کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد ہو جائے یا صاحب الزمان علیہ السلام اور کئی

## ادارہ روحانی و قرآنی فیض

نقش دفع بندش رشتہ و شادی خانہ آبادی	نقش تسخیر و محبت الفت والفت زوچین	نقش حصول مال دولت، رزق و روزگار	نقش دفع آسیب و جنات و دیوی و پری	نقش تسخیر احکام و افسران و ترقی و تہادل
نقش دفع امراض و ہر قسم کا درد دفع ہو و علاج امراض (کینسر و یرقان)	نقش دفع امراض قلب و سواس گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی، خوف ڈر	نقش حصول اولاد و اولاد زریں و دفعہ امراض مردانہ و زنانہ	نقش دفع گردش و جوت سیارگان (لوہ زہل و مشتری وغیرہ)	نقش حصول تعلیم و کامیابی امتحان و باہر ملک جانے کا نقش۔
نقش دفع نصرت و کامیابی دفع درمقدمات	نقش دشمن کو زیر کرنا، زبان بندی و حصول و عزت و شہرت	نقش دفع سحر جادو و نظر بد	نقش دفع سحر جادو و نظر بد	زائچہ رمل و زائچہ اعداد و زائچہ جنفر

الحمد للہ یہ تمام تعویذات مجرب ہیں حاصل کرنے کے لئے فون کر کے تشریف لائیں یا ڈاک کے ذریعے منگوائیں۔

نقش اولاد کی فرمانبرداری والدین کے لئے اور نیک بننے کے لئے

238 سر سید سٹیٹ الحمد کالونی نیلم بلاک اقبال ٹاؤن لاہور

0331-4572500, 0300-4352315, 0313-8127214

www.humailwalayazar.com

## قرآن پاک سے مسائل کا حل

زندگی میں درپیش تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ ہر مسئلہ کا مفید مشورہ مکمل رازداری کے ساتھ۔ دشمن کی زبان بندی اور اسکے شر سے محفوظ سحر کا توڑ۔ کالے جادو کی کاٹ۔ کاروبار میں رکاوٹ۔ بچوں کے رشتوں کے مسائل کے حل کے لیے تعویذات جملہ بیماریوں اور پریشانیوں کا روحانی علاج۔

ڈاکٹر و حکیم محمد ثناء اللہ

بھکر دو خانہ تلہ گنگ  
0300-6080973  
0333-6849263

## الرضا میرج سنٹر ملتان

شیعہ امامیہ اثنا عشری، سنی سید اور اہل سنت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئر، آفسیر، زمیندار، برنس مین، ملٹری آفسیر، اندرون و بیرون ممالک نیشنلسٹی ہولڈر، سائنڈ ویٹ رشتے میرج ہر ذات ہم پلہ با اعتماد رشتے کروائے جاتے ہیں۔

### دولت و رزق کے لیے

لوہ مشتری، نقش نور و رزق کے لیے شیر کی کھال پر نقش دستیاب ہیں۔

### بچے، بچیوں کی شادی میں رکاوٹ

دور کرنے کے لیے خاص مشک و زعفران سے ہرن کی کھال پر سورہ احزاب، سورہ کوثر، سورہ طہ اور اولاد کے لیے سورہ فجر کا آزمودہ نقش دستیاب ہے۔

### رکاوٹ شادی و کاروبار

بندش شادی و کاروبار، ساڑھ سی ویزہ اور ملازمت، ویزہ میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے چاندی پر شرف زل اور لوہ تسخیر اور نقوش دستیاب ہیں۔

زاہد حسین جعفری  
0333-7865470  
0300-6159033  
رحمن کالونی سٹیٹ نمبر C-10 غازیوال روڈ ملتان

## اللہ رحمن ورحیم سے بتوسل قرآن پاک کی مقدسہ آیات اور معصومین سے پریشانی کا حل

لوح اسرارِ فتنامہ	لاکٹ نادعلی	نقش صدر صد منسوب بہ مولانا علی	شخص اکبر ستارہ کی ساڑھتی کا توڑ
ہر کام میں فتح یابی اور کامیابی کے لیے لوح اسرارِ فتنامہ باموکل ورد شدہ، صدقہ ادا شدہ، سونا پالش ہدیہ -/1000	جن بچوں اور بچیوں کو نظر بد لگ جاتی ہو ان کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے لاکٹ نادعلی لیکر پہنائیں۔ سونا پالش ہدیہ -/500	موجودہ کمرہ کرات بادشاہی مسجد لاہور برائے حصول کل مقاصد، فح جادو، جن، بدروح سے تحفظ کے لیے نقش صدر صد فریم بنوا کر گھر میں لگائیں۔ صدقات ادا شدہ ورد شدہ فریم کا ہدیہ -/3000	برج قوس، جدی، دلو والے زحل کی ساڑھتی کاشکار ہیں۔ لوح زحل حاصل کریں۔ ورد شدہ، صدقہ ادا شدہ، سونا پالش ہدیہ -/1000
خانائین اور حاسدوں کے جادو سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے جادو شکن تلوار گھر میں لٹکائیں 40 دن کا مکمل جادو شکن سیٹ اور لوح تحفظ + تلوار + سیٹ دفع جادو ہدیہ -/2000	بیٹیوں کے رشتوں کے لیے لوح قاطرہ انگشتری عدد 9 اور لوح مقدر بیٹی اپنے پرس میں رکھے۔ ان شاء اللہ رشتہ موافق خوشحال ہوگا۔ سونا پالش ہدیہ -/2000	محبت سیارگان سے محفوظ رہنے کے لیے شس، قمر، زحل، زہرہ، عطارد، مریخ، مشتری، 7 سیارگان کے شرفات کی 7 الواح کا مکمل سیٹ حاصل کر کے زندگی خوشگوار بنائیں۔ مکمل سیٹ ہاتھ سے لکھا ہوا + سونا پالش + ورد شدہ + صدقات ادا شدہ۔ ہدیہ -/5000	بیرون ملک ویزہ، سپانسر یا جاب ملنے کے لیے طلسم فتوحات حاصل کریں ورد شدہ، صدقہ ادا شدہ، سونا پالش ہدیہ -/1000

فون پر استخارہ مفت کرائیں  
اوقات رابطہ صبح 9 بجے تا رات 9 بجے عہدہ عدوی زانچہ نکت بنوائیں ہمارے اپنے برج ستارہ کے مطابق گنیز فون پر معلوم کر کے اصلی گنیز مجھ سے حاصل کریں

**امیر حیدر** عقب امام بارگاہ جاگیر علی اکبر جادو کا لونی بہاولپور  
0301-6762979, 0333-6821579  
ameerhaider@gmail.com

## سادات میرج سنٹر

حکومت پاکستان سے منظور شدہ  
حضرت امام مہدی (عجل اللہ فرجہ) کی قبائے پاک کے زیر  
سایہ سالہا سال سے مومنین کی خدمت میں سرگرداں وہ واحد  
ادارہ جہاں آپ مکمل اعتماد اور رازداری کیساتھ اپنے بچے اور  
بچیوں کے لیے **سید، غیر سید، سنی**

## اعلیٰ تعلیم یافتہ، برسروزگار

ہر ذات اور برادری کے رشتوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

**بیرون ملک** مقیم فیملیز مکمل اعتماد کیساتھ اندرون اور بیرون  
ملک تسلی بخش رشتوں کے لیے رجوع کریں  
**سکینڈ اور لیٹ میرج رشتے بھی کروانے جاتے ہیں**

## رابطہ: مسز زیدی

92+300-9480414, +92-331-4155550 e mail: sadaatmc5@hotmail.com  
سادات میرج سنٹر نمبر 9 فرسٹ فلور لیز پر شاہک سنٹر چوک ٹوری ہنگ اسلام آباد لاہور

## جادو، مگر، بیماریوں اور پریشانیوں

**معالجہ خصوصی** کا اعلم، جادو، ٹونہ، مگر، کاٹ و پلٹ، شادی  
، اولاد کا نہ ہونا، گوشت کے لوتھڑے، گوبر، مٹی، کنکر پانی کے چھیننے،  
روپوں، کپڑوں کا کٹ جانا، گھر میں اچانک نقصان و آگ لگنا کے مسئلے  
کا حل کروانے اور بیٹا بیٹی اور کسی بھی قسم کی بندش کے لیے رابطہ کریں۔  
**نوٹ** ہر مرض کا علاج روحانی طریقے سے کیا جاتا ہے۔

حاجی سید کاشف حسن کاظمی  
0300 4422687  
کریلائی 5 بخش مارکیٹ اتار کلی لاہور

## بخاری میرج سنٹر

معزز سادات اور اہل تشیع خاندانوں کے بچے اور بچیوں  
کے موزوں ترین رشتوں کے لئے رابطہ کریں۔

سیدہ دُر شہوار  
صبح 11 بجے تا شام 5 بجے

0300-9488210 042-37812941  
email: dbokhari@hotmail.com

## ادارہ معاون مومنین واعظین مقررین پیش نماز

ایسے سید و غیر سید شیعہ و اہل سنت والدین اندرون ملک و بیرون ملک اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے لینے یا دینے میں پریشان ہوں ہم سے رابطہ کریں۔ ہم انہیں ان کی عین خواہش کے مطابق رشتے کروائیں گے۔

جو مومنین اپنے مرحومین کی قضاء نمازیں، روزے، ختم قرآن و دیگر مخصوص دعائیں کم ہدیہ میں پڑھوانا چاہتے ہوں تو سعادت کے لئے ہم ہر وقت تیار ہیں

جو مومنین اپنی مساجد میں مستقل طور پر یا ماہ رمضان المبارک میں عارضی طور پر سید و غیر سید پیش نماز رکھنے کے خواہش مند ہوں یا سید و غیر سید پیش نماز مستقل طور پر یا ماہ رمضان المبارک میں عارضی طور پر پیش نمازی کرانے کے خواہش مند ہوں رابطہ کریں۔

**سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ میں حافظ قرآن نہیں ہیں۔ وہ ہم سے رابطہ کریں**

جو مومنین و اراکین انجمن عشرہ محرم الحرام و دیگر مجالس عزاکے لئے زیادہ ہدیہ نہیں دے سکتے ہم انہیں کم ہدیہ والے ذاکرین، مقررین واعظین، خطیب و خطیبہ دیں گے۔

فقہ جعفریہ میں طلاق طلاق کہنے سے، نوش دینے سے، عدالتی تختی نکاح سے خلع سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ طلاق دو عادل گواہوں کی موجودگی میں کسی مستند پڑھے لکھے عالم دین سے صیغہ طلاق

مرحومین کے لیے اجتماعی عمرہ، مجلس عزاء و قرآن خوانی اور شیعہ دعائے کسب، حدیث کسا کم ہدیہ میں پڑھوانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

عربی میں پڑھوایا جائے۔ جس طرح نکاح، نکاح، نکاح کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق، طلاق، طلاق کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح نکاح کی شرائط ہیں اسی طرح طلاق کی بھی شرائط ہیں۔ بالفرض صیغہ طلاق عربی نہ پڑھا جائے تو وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح کر لے تو وہ نکاح مطلقاً حرام ہے۔ جب نکاح حرام تو اولاد کے بارے آپ خود فیصلہ صادر فرمائیں۔

علامہ سید محمد عباس نقوی آف مہر و پیلو ضلع چکوال  
0300-6059825  
0346-5899452

### حیدری میرج بیورو

سید، شیعہ، سنی، ڈاکٹر، انجینئر، مل اونر  
زمیندار، جٹ، اعوان، راجپوت، شیخ  
اور سیاسی گھرانوں کے اعلیٰ رشتے  
USA, UK اور Canda نیشنلٹی ہولڈر  
مسز نقوی 83 ہابلک اقبال ٹاؤن لاہور  
0300-8131013, 0334-40931013

### الیاس میرج بیورو

ہمارے ہاں شیعہ و سنی ہر ذات برادری اور اسکے علاوہ سادات اور غیر سادات کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تلی بخش رشتے موجود ہیں آپ بڑے اطمینان کیساتھ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہم سے رابطہ کریں  
سکینڈ میرج، مطلقہ اور لیٹ میرج والے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔  
رابطہ فضیلت باجی 0321-6774442  
0322-9156826, 0307-8827001

### سعید میرج سنٹر

سادات، غیر سادات، شیعہ، سنی، فرسٹ اینڈ سکینڈ میرج، اندرون و بیرون ملک رشتوں کے متلاشی حضرات رابطہ کریں  
مہر عبد الحمید  
0347-7280728  
Call 0321-7280728  
0314-4993688

### نماز اجارہ و دعائے مغفرت برائے مرحومین

قضاء نمازیں، روزے و دیگر واجبات شریعہ ادا کروانے کیلئے  
مولانا سید محمد مطیع الحسین کاظمی  
مکان نمبر 8-A سڑک 33 کڑکانی لاریب سوات نزد کینڈک سٹال 8 ڈکن لاہور  
0300/0345-4622340  
0333/0321-5304639

### ہر بیماری کا علاج فون پر دم کروائیں

دمہ بوا سیر 30 یا 60 دن میں مکمل نجات  
نگینے دستیاب ہیں اور اسم اعظم معلوم کریں  
0333-6474494  
0302-7909693  
0346-7328884  
0313-6435252  
Facebook ID Darvaish Khizir Abbas  
حکیم شاعر اہلبیت درویش خضر عباس پیاسی  
فاضل پورٹی نزد پولیس چوکی ضلع راجن پور (جنوبی پنجاب)

Imamia Jantri Official By Ifikhar Book Depot. Download from Googleplay-iOSplaystore



## والی صاحب الزمان

### کے نام سے قبرستان کا قیام

مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے۔

زیر نگرانی: مولانا سید نوید اعترشی صاحب 0321-4150441

خطیب ہذا: شیدہ جان محمد صاحب الزمان حیدرآباد اسلام پورہ لاہور

صدر منتظمہ کمیٹی شاہد ماس کاظمی 0300-6762471

بنک اکاؤنٹ 4-8444-100-0138-PLSAC

جان محمد صاحب الزمان یونائیٹڈ بینک سٹریٹ نگر برانچ لاہور

## جنت میں گھر بنانے کا سنہری موقع

## محمدی مسجد

### حالی روڈ گلبرگ

الحمد للہ توسیع کا کام تیزی سے جاری ہے۔ کارنیر میں اپنا حصہ ڈالیں  
رابطہ E-94 محمدی مسجد حالی روڈ گلبرگ 3 لاہور عقب حفیظ اسٹریٹ۔

0300-8461418, 0333-4299938

اکاؤنٹ نمبر 20610-141869 برانچ کوڈ 025

اکاؤنٹ بنام: انجمن محمدی صیب میٹرو پولیٹن بینک

## مرکز علوم آل محمد

جامعہ عالیہ ارشاد المدارس لاہور

میں جملہ علوم دینیہ پڑھائے جاتے

ہیں شائقین علوم آل محمد تو جہ فرمائیں

پر پرنسپل علامہ غلام علی ارشد علی ہاؤس

56/1 بی جعفریہ کالونی بندر روڈ لاہور

0302-4330072

## جامع قرآن

### واہلبیت

شیعہ حفاظ کا مرکزی ادارہ

مال امام سے تعاون کی اپیل ہے

خادم قرآن مولانا حافظ

سید کاظم رضا نقوی

0333-4332518

0300-4425408

## جنرل ہلپنگ اور

### ریکی ہلپنگ

کسی بھی مقصد یا بیماری کے لیے

کاؤنسلنگ (Counselling)

پتھروں کے بارے میں اردو Ebook

اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر اشتہار

دینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں۔ ٹاٹول

Email: batoolsister10@gmail.com

www.batoolsister.com

0315-5361040

## استخارہ

### فی سبیل اللہ

فی سبیل اللہ جائز شرعی مقاصد کے

لیے رابطہ کریں۔ سید شوکت حسین

نقوی البخاری (اسلام آباد)

0346-5355507

0320-5355607

## پنجاب یونیورسٹی

### حدیث کسا کمیٹی

کے زیر اہتمام فی سبیل اللہ ضرورت

رشتہ کے سلسلہ میں سادات وغیر سادات

لڑکے، لڑکیوں کے رشتے مطلوب ہیں

رابطہ سید مبارک علی زیدی

شعبہ امتحانات پنجاب یونیورسٹی لاہور

رشتوں کی فہرست جوابی لغافہ بھیج کر

مفت طلب کریں

0321-7214129

## خوشحال

## ازدواجی زندگی

جو بننے اور بیٹیاں شادی کے لیے

پریشان ہیں یا شادی کے بعد مسائل کا

شکار ہیں رابطہ کریں۔

صرف خواتین رابطہ کریں۔

سیدہ ارم زہرانقوی

0333-6200921

## فیض سادات

اللہ کے پاک کے کام سے اپنے مسائل

کا حل کروائیں۔ ہر بیماری کا علاج فی

سبیل اللہ کروائیں نیز کسی بھی مسئلے کے

حل کے لیے استخارہ اور زائچہ فی سبیل

اللہ نکھوائیں **سید زہرا بسمل خاتون**

مجلد احمد آباد نمبر 5 بلڈنگ سکراری ہسپتال

سالنگل۔ صرف خواتین رابطہ کریں۔

0341-4574062, 031-7843062

## ناد علی نگینہ سنٹر

کیف شیراز چوک نواب شاہ سندھ پاکستان

کراچی آفس R-1090-20/F/B

نزد شہید قائد نیشنل انجمنی کراچی

ہمارے یہاں اصلی کوالٹی کے

تمام نگینے دستیاب ہیں

اپنا زائچہ بنوائیں

نام سے اور بیماری کے لیے بھی پتھر تجویز

کیے جاتے ہیں۔ امامیہ جنتری کا مرکز

سید مظہر زیدی

0300-3225586

## ریکی، ہیلنگ، مراقبہ

مراقبہ (Meditation) نشیات خاص طور پر سگریٹ نوشی یا کسی بھی

(Addictim) اور کسی بھی بیماری یا منفی اثرات سے بچنا ہو۔ یاریکی

ہیلنگ کلاسز لینی ہوں۔ اگر Skype پر کسی Topic پر لیکچر یا Career

Counselling کرنی ہو یا بچوں کی بری عادات کو چھڑانے کے لیے

ہماری مدد چاہیے تو رابطہ کریں۔ فرح علی 513 306-7155 001

Licenced Reiki Healer Poetess North America

## Dean's

## سکول بیگس واٹر بوتل سکول بیگ

## سکول یونیفارم سٹیشنری وغیرہ

اب اپنا من پسند یونیفارم اپنے سکول میں رکھیں

رابطہ 0300 8454285

G-4 گلبرگ سینٹر مین بلوار ڈال تقابل Pace لاہور

35760625-26

علم الاعداد نجوم جفر اسم اعظم موکلات الواج شرف سیارگان

## روحانیت پیشہ یا تجارت نہیں بلکہ خدمت خلق خدا کا بہترین ذریعہ ہے

گھریلو ناچاقی شادی میں رکاوٹ جاب نہ ملنا	روزگار کی کمی انہراہ بندش رزق من پسند شادی	بے اولادی عدم ترقی جنات کا سایہ جادو سحر آسیب	تمام ستاروں کے شرف کی الواج سونا پالش شده، ورد شده، صدقات ادا شده، ساتوں ستاروں شمس، مریخ زہرہ، عطارد، قمر، مشتری، زحل کی 7 الواج کا سیٹ حاصل کر کے زندگی خوشگوار بنا سکیں ہدیہ 5000 - نقش صدر صدر فریم شدہ 3000 <b>اشتہار فوری</b>
سیارگان کی نحوست کے اثرات تعلیم میں رکاوٹ	اولاد کے رشتوں میں رکاوٹ محبت میں ناکامی	بیٹا ہونے کی تمنا علوم روحانی سیکھنا نظر بد اور مسلسل نقصانات	

ہر ماہ کی 21+22 کو یونائیٹڈ ہونٹ ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ صدر کراچی ہر ماہ کی 8 تاریخ کو القمہ ہونٹ چوک سہو حسام یلوے روڈ ملتان صبح 9 تا دوپہر 1 بجے  
ہر ماہ کی 9 تاریخ کو پاکیزہ ہونٹ نزد یاسر بروست بالمقابل خان بابا تھک ہونٹ پور بجی لاہور۔ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ریز ہونٹ دھوبی گھاٹ فیصل آباد  
صبح 9 بجے تا دوپہر 1 بجے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو الفارق ہونٹ کینٹی چوک مری روڈ راولپنڈی صبح 9 تا عصر 4 بجے ملاقات کی کوئی فیس نہیں

ہر مسئلہ اور پریشانی کے حل کے لیے فون یا بالمشافہ رابطہ کریں جمعد اور اتوار کو دفتر کھلا ہوتا ہے ملاقات کے لیے آنے سے قبل فون پر راستہ دریافت کر لیں

**آغا حسنین احمد** ستارہ صبح کولڈ میڈسٹ (PSA) ہاؤس نمبر 41 سٹیج ویلی ہاؤسنگ سکیم بالمقابل ٹویونا شوروم کراچی چوک احمد پور بانی پاس ہسپتال ہائی وے بہاول پور  
0300-6802983, 0331-7560412 (رابطہ فون کے اوقات (وقت کی پابندی کریں)  
0340-3278598, 0311-1617924 فون صبح 9 تا 2 بجے دوپہر۔  
Email: aghahasnainahmad@gmail.com شام 7 بجے تا عشاء 10 بجے

بہترین نیشنل اور بین الاقوامی مسکن کے لئے ایک نیا منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے

### عزاداری پیرس فرانس

7 سالہ

# انسانیت

جائزہ ڈیٹا سائنس

19 اپریل 2020 بروز اتوار  
پیرس فرانس

جس میں  
پاکستان اور یورپ  
بھر کے معروف  
فضائل و مصائب مجذوب آل محمد بیان کریں گے

پاکستان کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کریں  
www.facebook.com/zikremohsineinsaniyat

سید کنایت حسین نقوی سید علی رضا نقوی

### ذیر سرپرستی: سرکار قاسم آل محمد

## چوہنگ ملتان روڈ لاہور کی مرکزی

22 ویں سلسلہ اشاعت یا علی مدد  
نسیدہ  
رسول اللہ علیہ السلام

بروز اتوار  
8 مارچ 2020  
8 بجے صبح تا 8 بجے شام

برمکان  
حیدر علی میر  
بالقابل دربار بابا پیر  
عبدالرحمن علی شاہ چوہنگ  
ملتان روڈ لاہور

ملک بھر سے  
ہوا سکار سید جاوید نقوی انجمنی  
تکلیف دہا شہید علامہ ناصر عباس  
والدین مرحومین  
جمع شیعان امیر المؤمنین

نوٹ: سالانہ مجلس عزامارچ کا دورہ اتوار  
ملک کے علماء اکرام ڈاکٹر عظیم فضائل مصائب مجذوب آل محمد بیان فرمائیں گے

الداعیان الخیر  
سعادت علی میر محمد علی میر لیاقت علی میر بابا علی میر  
پسران حاجی شوکت علی میر (مرحوم) چوہنگ لاہور  
Contact: 0321-7861213  
LIVE MAJLIS: WWW.YAMIRAAN.COM

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot. Download from Googleplay-IOsplaystore

<p>منتظم اعلیٰ - 21 محرم الحرام سنگت غلامان علی اکبر سالار سید ارشد شبیر شیرازی <b>جھلم</b></p>		<p>بانی صف عزا 21 محرم الحرام سنگت مسافرہ شام سالار باواسید قیصر عباس نقوی امامیہ کالونی <b>لاہور</b></p>		<p>زیر سرپرستی - سرکار قائم آل محمد چوتھی سالانہ شہید سیداری ماتم ہی ماتم 21 محرم بعد از مغربین تا مرضی امام زمانہ امام بارگاہ حسینہ مندر انوالہ سیالکوٹ</p>	
<p>صدائے عباس سالار چوہدری یاسر عباس موجیاں والا <b>منڈی بہاوالدین</b></p>	<p>شاہ نظر دیوان مشہدی سالار سید باخواض علی شاہ مشہدی <b>سید کسراں راولپنڈی</b></p>	<p>سنگت گلستان معرفت سالار سید عارف حسین کاظمی <b>گوجرانوالہ</b></p>	<p>شبیبہ ذوالجناح رات 10 بجے برآمد ہوگی۔ منتظمین اعلیٰ - حاجی میثم رضا ساہی عمران حیدر منہاس کویت والے ڈاکٹر ذوالفقار احمد منہاس</p>		
<p>سنگت حبیب ابن مظاہر سالار سید وقار حسین شاہ سانگہ <b>ننکانہ</b></p>	<p>سنگت نوجوان علی اکبر سالار سید خرم عباس نقوی سید باقر حسین بھوانہ <b>چنیوٹ</b></p>	<p>ماتمی دستہ باب الحوائج سالار بیلو شاہ جی <b>قصور</b></p>	<p>شریک صف عزا - سید علی رضا صاحب سید طلعت حسین ترمزی نقوی سید فاخر حسین رضوی - ملک اصغر حسین نیر عباس - زوار عام رضا قطر - سردار حسن رضا زوار ملک مرید عباس - زوار عام علی زوار ظفر عباس - زوار علی عمران جعفری زوار کاظم عسکری ساہی - زوار افضل حسین جعفری حاجی محسن رضا - تنویر حسین جعفری ارشد محمود عاصم وڑائچ</p>		
<p>کاروان امام موسیٰ کاظم سالار زمان شاہ مشہدی <b>سرگودھا</b></p>	<p>سنگت غلامان باب الحوائج سالار سید اقرار حسین <b>گجرات</b></p>	<p>سنگت سیدہ ام المصائب نوحہ خواں زوار اعجاز حسین بھٹی سالار صابر حسین جازب <b>لیہ</b></p>	<p>گدائے درہتول حاجی زوار اشفاق جعفری <b>0304-4158919</b> محمد علی جعفری</p>		
<p>سنگت وفائے عباس سالار وسیم عباس <b>اوکاڑہ</b></p>	<p>سنگت شہزادہ امیر قاسم سالار فاضل حسین مومن زوار افضل حسین راچیاں مومن پورہ <b>شیخوپورہ</b></p>	<p>سنگت دعائے زہراء سالار سید علی علی رضا محلہ حیدرآباد <b>فیصل آباد</b></p>	<p>زوار شتیاق جعفری اینڈ برادرز نجف اشرف عراق <b>00964 7706431063</b></p>		
<p>سنگت شیعان حیدر کرار صدر قمر عباس بھٹی سالار محمد اسلم نارووال</p>	<p>سنگت نوجوانان علی اکبر سالار نفیس حیدر ساہی نوحہ خواں - مدد علی جون مندرانوالہ <b>سیالکوٹ</b></p>	<p>سنگت شباب علی اکبر سالار زوار علی رضا - مشرف علی پنڈی بھیاں <b>حافظ آباد</b></p>	<p>انجمن تبلیغ ماتم شبیر سالار نیاز حسن <b>ملتان</b></p>		
<p>سنگت سپاہ علی اکبر صدر زوار جاوید عباس سالار افضل شاکر دیروال <b>چکوال</b></p>		<p>سنگت سپاہ علی اکبر صدر زوار جاوید عباس سالار افضل شاکر دیروال <b>چکوال</b></p>		<p>سنگت سپاہ علی اکبر صدر زوار جاوید عباس سالار افضل شاکر دیروال <b>چکوال</b></p>	

EUROPE LARGEST MARKAZI MAJLIS E AZA IN UK

برطانیہ میں یورپ کی مرکزی تاریخی 20 ویں سالانہ

روحانی شرکت



التماس سورہ فاتحہ  
بکلی حقاً علامہ  
ناصر عباس

مجلس غلام احمد خیر سید

بسلسلہ شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا

SUNDAY 19 JULY 2020 7:01 AM

BENHAM SPORTS ARENA, KINGS PARK ROAD  
MOULTON PARK, NORTHAMPTON NN3 6LL UK

پاک و ہند کے ممتاز علماء کرام، ذاکرین عظام، شعراء، منقبت خواں  
و نوحہ خواں صاحبان فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔

باہر سے آنے والوں کے لئے نزدیکی ایئر پورٹ لندن لوٹن، برنگھم اور بیتھرو لندن ہیں

LIVE COVERAGE WWW.YAHUSSAIN.CO.UK

خواتین میں شبیہ تابوت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآمد ہوگا

ناشتہ صبح 7 بجے تا 9 بجے لنگر حسین 2 بجے دن 5 بجے پمفلٹ تقسیم کرنے، ہینر یا اسٹال لگانے کے لئے انتظامی کی اجازت ضروری ہے

انجمن غلامان حضرت عباس (رجسٹرڈ) ولائی ٹاؤن نارٹھامپٹن (AGHA UK)

اہم کمیونٹی نیوز کے لئے ہمارے پیج کو لائیک کیجئے

WWW.FACEBOOK.COM/AGHAUK

AZADAR INTERNATIONAL برطانیہ سے پاکستان پیسے بھیجنے کیلئے رابطہ کریں

UK TO PK MONEY TRANSFER 01604 63 88 42 - 07738 166 619